



# Al-muntaqaa min mawsuu'at al-ahaadith an-nabawiya

المُنْتَقَى مِنْ  
مَوْسُوعَةِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ



يوربا

Yorùbá



الْمُنْتَقَى

مِنْ

مُوسَى وَعِيسَى الْأَحْمَرِيُّ النَّبِيُّ

اللغة اليوروبا

إعداد القسم العلمي

جمعية خدمة المحتوى  
الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة  
وتوعية الجاليات بالربوة



جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، ١٤٤٦ هـ



جمعية خدمة المحتوى الإسلامي  
المنتقى من الموسوعة الأحاديث النبوية - يوربا. / جمعية خدمة المحتوى  
الإسلامي - ط١. - الرياض، ١٤٤٦

٣٨٣ ص؛ ١٤؛ ٢١ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٤٧٤-٤٨-٨

١٤٤٦/١٠٠٢٩

## Partners in Implementation



Content  
Association



Rowad  
Translation



Rabwah  
Association



Byenah

This publication may be printed and disseminated by  
any means provided that the source is mentioned and  
no change is made to the text.

Tel : +966 50 244 7000

@ info@islamiccontent.org

Riyadh 13245-2836

www.islamiccontent.org

## Ní orúkọ Allāhu, Àjòkẹ́-ayé, Àsàkẹ́-òrun.

### Ọrọ itisiwaju

Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba gbogbo agbaye, ikẹ ati ọla Ọlọhun kó maa bá Anabi wa Muhammad, ati awọn ara ile rẹ ati awọn saabe rẹ lapapọ, ati gbogbo awọn ti wọn tele wọn pẹlu dáadáa titi di ojo ẹsan, léyìn nàà:

Dájúdájú ohun tí ó tóbi julọ ninu awọn nkan ti o jẹ dandan ki mùsùlùmí ó ẹ akolekan rẹ; ni kika ati ironujinle, pẹlu imọ ati iṣe - leyin Tira Ọlọhun - naa ni sunna ojiṣe Ọlọhun ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a, Ojiṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: "Mo fi silẹ fun yin, eyin eniyan, ohun tí ó ẹ pe ti ẹ ba di i mu sinsin, ẹ ko nii sọnu láéláé: Tira Ọlọhun, ati Sunna Anabi rẹ". Imamu Maliki ló gba a wa, Ọlọhun ti ọla Rẹ ga si ti sọ pe: {Ohunkóhun tí Ọjísé bá fún yín, ẹ gbà á. Ohunkóhun tí ó bá sì kò fún yín, ẹ jáwọ nínú rẹ} [Suuratul-Hash'r: 7], fun idi eyi ni ẹgbẹ awọn oluṣiṣe sin àkóónú ti Islaamu pẹlú orisiriṣi awọn ede ati ẹgbẹ awọn olukede ẹsin ati awọn ti n fi imọ mọ àwọn àjòjì ni Rabwah fi ẹ ojukokoro lati pese iwe agbedegbeyọ hadisi Anabi ati lati túmọ rẹ si awọn ede pupọ.

Ọlọhun ti ẹ ni irorun fun wa lati ẹṣa awọn hadisi kan ninu iwe agbedegbeyọ yii ti musulumi bukaata si lori ọrọ ẹsin ati aye rẹ pẹlu alaye hadisi naa ni ẹsoki, ati alaye awọn itumọ rẹ, ati diẹ ninu awọn anfaani rẹ, ati gbigbe e jade ninu iwe yii ti a sọ ọ ni: "Al-muntaqaa min mawsuu'at al-ahaadith an-nabawiya" Iṣe naa da lori titumọ awọn hadisi Anabi si gbogbo ede ti o wa laaye ki anfaani àkóónú rẹ le kari gbogbo eniyan ati lati le mu Sunna Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - dé etigboọ gbogbo eniyan pẹlu awọn ede wọn.

A n bẹ Ọlọhun ki o tẹwọ gba iṣe yii lẹwọ wa, ki O sọ ẹ ni iṣe alubarika, ti o mọ fun ojurerere Ọlọhun, ki O si san gbogbo ẹni ti o bá ẹ iranlọwọ lori pipese rẹ ati titumọ rẹ ati titan an ka ni ẹsan rere. Ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ ki o maa ba Anabi wa Muhammad

(1) - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وفي لفظ للبخاري: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى». [صحيح] - [متفق عليه]

(1) – Lati ọdọ Umar ọmọ Al-Khattaab- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojìşẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Àwọn işẹ pẹlu àníyàn ni, ohun ti ọmọniyan ba gba lero ni yoo maa jẹ tiẹ, ẹni tí hijra tiẹ ba jẹ tori ti Ọlọhun ati ojìşẹ Rẹ, hijra rẹ maa jẹ ti Ọlọhun ati ojìşẹ Rẹ, ẹni tí hijra rẹ ba jẹ torí ayé ti o fẹ ki ọwọ rẹ o tẹ tabi torí obìnrin ti o fẹ fẹ, hijra rẹ maa jẹ ohun ti o ba tori rẹ şe hijra ni”. Ninu gbólóhùn kan ti o jẹ ti Bukhaariy: “Àwọn işẹ pẹlú àwọn àníyàn ni, o maa jẹ ti ọmọniyan kòòkan ohun ti o ba gba lero”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyẹ:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n şàlàyẹ pe gbogbo işẹ pẹlu àníyàn ni, idájọ yii kárí gbogbo işẹ bii ijọsìn ati ibalopo. Ẹni ti o ba gbèrò anfaani kan pẹlu işẹ rẹ, anfaani yẹn naa ni o maa tẹ ẹ lówó, ko si si ẹsan kankan fun un, ẹni tí ó bá wa gbèrò isunmọ Ọlọhun pẹlu işẹ rẹ, o maa gba ẹsan kòdà ki o jẹ işẹ lásán bii jije ati mimu.

Léyìn naa ni Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa fi àkàwé lélé láti şàlàyẹ ilapa àníyàn nibi awọn işẹ pẹlú didogba wọn nibi àwòrán ti o hàn, o wa şàlàyẹ pe ẹni ti o ba gbèrò wíwá iyónú Ọlọhun pẹlú hijra rẹ ati fifi ilú rẹ sílẹ, hijra rẹ nńkan ti o ba ọfin mu ni ti a si maa tẹwó gbà ti wọn si maa san an ni ẹsan lórí ẹ fun àníyàn ọdodo rẹ, ẹni tí ó bá gbèrò anfaani ayé pẹlú hijra rẹ, bii owó, tabi ipò, tabi ọwò, tabi iyàwó, anfaani yẹn ti o gbèrò naa ni o maa ri nibi hijra rẹ, ko si nii gba ẹsan.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Işenilojukokoro lori imọkanga; tori pe Ọlọhun ko nii gba işẹ ayafi eyi ti wọn ba fi wa oju-rere Rẹ.

2. Awon işe ti a fi maa n sunmọ Ọlọhun ti O lágbara ti O gbongbon, ti eni tí o ti bàlágà ba şe e ni ti àşà, ko nii gba ẹsan titi ti yoo fi gbero isunmọ Ọlọhun pẹlu ẹ.

(4560)

(2) – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه.  
ولمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(2) – Lati ọdọ 'Aaisha- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Eni ti o ba da adadaale kale sinu alamori wa yii ninu nnkan ti ko si nibe, won maa da a pada ni" Bukhari ati Muslim ni won gba a wa. O n be fun Muslim pé: "Eni ti o ba şe işe kan ti ko si aşe wa nibe, won maa da a pada ni" [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n şalàyé pe dajudaju eni ti o ba da adadaale kale sinu ẹsin tabi ti o ba şe işe kan ti ẹri kankan ko da le e lori ninu Kuraani ati sunnah, won maa da a pada fun eni ti o ba şe e, ko nii je itewogba loḍo Ọlọhun.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Àwon ijosin won mọ won pa lori nnkan ti o ba wa ninu Kuraani ati sunnah, a ko lee josin fun Ọlọhun- ti ọla Re ga- afi pẹlu nnkan ti o ba şe lofin, ti ko ki n şe pẹlu awon adadaale ati awon nnkan tuntun.
2. Ẹsin ko ki n şe pẹlu irori ati riri i pe nnkan dáa, bi ko şe pe pẹlu itele ojise- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ni.
3. Hadiisi yii je ẹri lori pipe ẹsin.

4. Adadaalẹ ni gbogbo nnkan ti wọn da a lẹ ninu ẹsin ti ko si laye Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ati laye awọn saabe rẹ ninu adisọkan tabi ọrọ tabi işe.
5. Hadiisi yii jẹ ipilẹ kan ninu awọn ipilẹ Isilaamu, o da gege bii ọ̀şùwòn fun awọn işe, gege bi o şe jé pé gbogbo işe ti wọn ko ba fi wa oju rere Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-, ko si ẹsan kan fun ẹni ti o şe e ni bẹ, gege bẹ naa ni pe gbogbo işe ti ko ba ti ba nnkan ti o işe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- mu wa mu, wọn maa da a pada fun ẹni ti o ba şe e.
6. Àwọn adadaalẹ ti a kọ kuro ni bẹ ni gbogbo nnkan ti o ba ti wa ninu awọn alamọri ẹsin ti ko ki n şe ti aye.

(4792)



(3) - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَاتَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عَمْرُ، أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]



(3) – Láti ọ̀dò Umar ọ̀mọ Al-Khattaab- ki Ọ̀lọ̀hun yọnu si i- o sọ pé: Láàrin igbà tí a wa ni ọ̀dọ ojìṣẹ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- ni o jọ kan, ni arákùnrin kan ba yọ si wa, ti aṣọ rẹ funfun gan, ti irun rẹ naa si dúdú gan, a ko ri oripa ìrìn-àjò ni ara rẹ, ẹni kankan ko si mọ ọ̀n ninu wa, titi ti o fi jókòò si ọ̀dọ Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- o si fi eékún rẹ méjèèjì tí sí ara eékún rẹ méjèèjì, o wa gbe ọ̀wó rẹ méjèèjì lori itan rẹ, o wa sọ pé: Irẹ Muhammad, sọ fún mi nipa Islam, ojìṣẹ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- wa sọ pé: “Isilaamu ni ki o jẹríí pe ko si ẹni tí ìjọ̀sìn tọ si lododo ayafi Ọ̀lọ̀hun, ati pe Muhammad ni ojìṣẹ Rẹ, ki o maa gbe ìrun dúró, ki o maa yọ sàkà, ki o maa gba aawẹ Ramadan, ki o maa ẹ hajj ti o ba ni ikapa ọ̀nà lọ si ibẹ”, o sọ pé: Ọ̀dodo ni o sọ, o sọ pé: Ẹnu yà wá fun un, o n bi i leere, o si tun n sọ pé ọ̀dodo ni o sọ, o sọ pé: Sọ fun mi nipa igbagbọ, o sọ pé: “Ki o ni igbagbọ ninu Ọ̀lọ̀hun, ati awọ̀n malaika Rẹ, ati awọ̀n iwé Rẹ, ati awọ̀n ojìṣẹ Rẹ, ati o jọ̀ ikẹyìn, ki o si ni igbagbọ ninu kádàrá, oore rẹ ni ati aburu rẹ”, o sọ pe: Ọ̀dodo ni o sọ, o sọ pe: Sọ fun mi nipa ẹ́ṣẹ dáadàá, o sọ pe: “Ki o maa jọ̀sìn fun Ọ̀lọ̀hun bii pe o n ri I, ti iwọ ko ba ri I, Ọ̀un n ri ọ”, o sọ pe: Sọ fún mi nipa à̀sìkò ti aye maa pa rẹ, o sọ pe: “Ẹni ti wọ̀n n beere nipa ǹnkan lówó rẹ ko ni imọ nipa ǹnkan naa ju ẹni tí n beere lọ”, o sọ pe: Sọ fún mi nipa awọ̀n à̀mì rẹ, o sọ pe: “Ki ẹrú ló̀bìnrin bi olówó rẹ, ati ki o ri awọ̀n ti ko wọ̀ bàtà ti wọ̀n wa ni ihoho ti wọ̀n jẹ tálákà tí wọ̀n n da ẹran jẹ, ti wọ̀n yoo maa fi ile gíga ẹ iyanran”, o sọ pe: Léyìn naa o pẹyin da, mo wa wa nibe fun igbà pípé, léyìn náà ni o wa sọ fún mi pe: “Irẹ Umar, ǹjẹ o mọ onibeere naa?”, mo sọ pé: Ọ̀lọ̀hun ati ojìṣẹ Rẹ ni wọ̀n ni imọ julọ, o sọ pe: “Jibril ni, o wa ba yin lati kọ yin ni ẹsin yin”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Umar ọ̀mọ Al-Khattaab- ki Ọ̀lọ̀hun yọnu si i- n sọ pe Jibril wa ba àwọ̀n saabe ni àwọ̀rán arákùnrin kan ti wọ̀n kò mọ. Lára àwọ̀n iròyìn rẹ ni pe àwọ̀n aṣọ rẹ funfun gan, ti irun rẹ naa si dudu gan, wọ̀n ko ri oripa ìrìn-àjò lára rẹ bii híhàn wàhàlá, ati eruku, ati ki irun ri wúruwùru, ati

ki aṣọ dọtí, ẹni kankan ko si mọ ọn ninu awọn ti wọn wa ni ikàlẹ̀, ti wọn si jókòó ni ọdọ Anọbi (ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a), ni o wa jókòó ni iwájú Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ni ijókòó akékòó, o wa bi i leere nipa Isilaamu, o wa da a lóhùn pèlú àwọn origun ti o ko fifi ijerii mejeeji rinle sínú, ati mimojuto irun wákàtí márùn-ún, ati yíyọ sàká fun awọn ti wọn ni ẹto si i, ati gbigba aawe oṣù Ramadan, ati pípé oranyan hajj fun ẹni tí ó bá ni ikapa.

Onibeere wa sọ pé: Ọdodo ni o sọ, àwọn saabe wa ẹ eemo latara ibéèrè re ti n toka si àíní imọ re ti o hàn si wọn, léyìn náà ni o tun wa n sọ pe ọdodo ni o sọ.

Léyìn naa ni o bi i leere nipa igbagbo, o wa da a lóhùn pèlú àwọn origun méfà yii ti o ko igbagbo ninu bibẹ Ọlọhun ati awọn iròyìn Re sinu, ati ẹ́ṣe E ni Ọkan pèlú àwọn iṣe Re bii dídá ẹ́dá, ati ẹ́ṣe E ni Ọkan pelu ijosin, ati pe awọn malaika ti Ọlọhun da latara imọle erú alapon-onle ni wọn, wọn kii yapa aṣe Ọlọhun, ati igbàgbọ́ nínú àwọn tira ti a sòkalẹ fun awọn ojise lati ọdọ Ọlọhun ti ọla Re ga, gege bii Kuraani, ati Taoreeta, ati Injiila, ati eyi ti o yatọ si wọn, ati igbàgbọ́ nínú àwọn ojise ti wọn n ba Ọlọhun mu ẹsin Re de ọdọ awọn èyàn, ninu wọn ni Nuuh, ati Ibrahim, ati Musa, ati Isa, igbèyìn wọn ni Muhammad (ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a), ati awọn ti wọn yatọ si wọn ninu awọn Anọbi ati awọn Ojise, ati igbàgbọ́ ninu ojọ ikeyin, ohun ti n be leyin ikú ti ko sínú re bii sàréè ati iṣemi léyìn ikú, ati pe wọn maa gbe omoniyàn dide léyìn iku, o si tun maa ẹ iṣirò, nínú ki ikángun re je alujanna tabi iná, ati igbàgbọ́ pe Ọlọhun ti kádàrá gbogbo nńkan ni ibamu si ohun ti O ti mò tẹlẹ̀, ti o si ba ogbón Rẹ mu ati àkọsilẹ̀ Re, ati fifẹ Re fun un, ati ẹ́ṣe re ni ibamu si ohun ti O kádàrá, ti O si dá a fun un. Léyìn naa ni o bi i leere nipa ẹ́ṣe dáadáa, o wa sọ fún un pé ẹ́ṣe dáadáa naa ni ki o maa jòsin fun Ọlọhun bii pe o n ri I, ti ko ba wa le de ipò yii, Ki o yaa maa jòsin fun Ọlọhun bii pe Ọlọhun n ri i, akọkọ ni ipò rírí, oun ni o si ga jù, ikejì ni ipò ipayà

Léyìn naa o bi i leere pe igba wo ni ayé maa pare? Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa ṣàlàyé pe Ọlọhun nikan ni O mọ igbà tí

ayé maa parẹ, ẹda kankan ko mò ọ́n, ati ẹni ti wọn n beere nipa rẹ lówó rẹ ni ati ẹni tí n beere.

Léyìn naa ni o bi i leere nipa awọn àmì ti ayé ba fẹ parẹ? O wa şàlàyé pe nínú àwọn àmì rẹ ni ọ̀pọ̀ yanturu àwọn ẹ́rú lóbìnrin ati awọn omọ wọn, tabi ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ şìşẹ̀ iyá lati ọwọ̀ àwọn omọ wọn ti wọn maa ba wọn lo bii ẹ́rú, wọn maa tẹ ayé silẹ fun àwọn adaranjẹ ati awọn táláká ni igbà ikẹyìn, wọn maa ba ara wọn şe iyanran nibi şìşẹ̀ ilé ni ọ̀şó ati kíkó ọ.

Léyìn naa ni Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé onibeere naa ni Jibril, o wa lati wa kọ awọn saabe ni ẹsin ti o dúró tó yii.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Dídára iwa Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ati pe o maa n jókòó pẹlú àwọn saabe rẹ, àwọn naa si maa n jókòó ti i.
2. Ibofinmu şìşẹ̀ pẹlẹ̀ pẹlú onibeere ati sisun un mọra ki o le rọ ọ lọrun lati beere láìní kákò tàbí bèrù.
3. Èkọ̀ pẹlú olùkọ̀ gege bi Jibril- ki ọla maa ba a- şe şe, nibi ti o ti jókòó ni iwájú Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ni ijókòó ẹnì tí ó ní èkọ̀ láti gba imọ̀ lódò rẹ.
4. Awọn origun Isilaamu márùn-ún ni, awọn ìpílẹ̀ igbagbọ̀ méfà ni.
5. Ti Isilaamu ati igbàgbọ̀ ba para pọ̀, wọn maa tùmò Isilaamu si awọn alamọri ti ó hàn, wọn si maa tùmò igbagbọ̀ si awọn alamọri ti o pamọ.
6. Àlàyé pe ẹsin ni ipò ti o yàtò síra, ipò akọko: Isilaamu, ikejì: Igbagbọ̀, ikẹta: Şìşẹ̀ dáadáa, oun si ni o ga jù.
7. Ìpílẹ̀ ni pe onibeere ko ni imọ̀, aimọkan ni o maa mu u bèèrè; torí ẹ̀ ni ẹnu şe ya àwọn saabe latara ìbèèrè rẹ̀ ati sisọ̀ pe ọ̀dodo ni o sọ.

8. Bibere n̄kan p̄lú bi o ba ʃe p̄t̄àkì jù sí; torí pé w̄on b̄er̄è p̄lú ij̄erii mejeeji nibi itum̄o Isilaamu, w̄on si b̄er̄è p̄lú igbagb̄o ninu Ọl̄ohun nibi itum̄o igbagb̄o.
9. Ki onibeere beere ohun ti ó ni im̄o nipa r̄e l̄ow̄o onimim̄o ki ēl̄òm̄í l̄è m̄ò.
10. Ọl̄ohun nikan ni O m̄o igb̄à tí ayé maa par̄é.

(4563)

(4) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(4) – Lati oḍo Abdullāh oṃo Umar - ki Ọl̄ohun yonu si awon mejeeji-o so pe: Ọj̄iṣ̄e Ọl̄ohun - ki ik̄e ati ọla Ọl̄ohun maa ba a - so pe: «**W̄on m̄o Isilaamu pa lori nkan m̄ar̄ùn-ún: Ij̄erii pe ko si ẹn̄i ti ij̄osin ododo t̄o si ayaafi Allāhu, ati pe dajudaju Muhammad ẹru Ọl̄ohun ati ojiṣ̄e R̄e ni, ati imaa gbe irun duro, ati imaa ȳo zakah, ati imaa gbero ile Oluwa, ati gbigba aaw̄e Ramadan**». [O ni alaafia] - [Ohun ti w̄on fi ẹnu k̄ò l̄é l̄órí ni]

## Àl̄ayé:

Anabi - ki ik̄e ati ọla Ọl̄ohun maa ba a - fi Isilaamu j̄o ile kan ti w̄on m̄o daadaa p̄lu origun maarun ti o gbe ile naa duro, ti awon iwa Isilaamu ti o s̄eku j̄e pipari ile naa. Ak̄ok̄o awon origun yii ni: Ij̄erii mejeeji; ij̄erii pe ko si ẹn̄i ti ij̄osin ododo t̄o si ayaafi Allāhu, ati pe dajudaju Muhammad ojiṣ̄e R̄e ni, ati pe origun kan ni mejeeji; ti ọkan o lee ja kuro lara ik̄e, ẹru o so mejeeji ni ẹn̄i ti n fi ij̄e ọkan soṣo Ọl̄ohun ati lileṭo R̄e si ij̄osin ni Oun nikan soṣo laisi ēl̄òm̄íràn yat̄o si i rinl̄e, ti yio si maa ṣiṣ̄e t̄o awon nkan ti o n t̄oka si, ki o si tun gba iranṣe Muhammad - ki ik̄e ati ọla Ọl̄ohun maa ba a - gb̄o ni ẹn̄i ti yio maa t̄ele

e. Origun keji ni: Gbigbe irun duro, oun naa ni awon irun oranyan marun-un ni ojumo kan ati oru kan: Alufajari, ati Aílà, ati Alaasari, ati Magribi, ati Ishai, pelu awon majemu won ati awon origun won ati awon oranyan won. Origun keta ni: Yiyọ zakah oranyan, oun naa ni ijosin owo ti o je dandan nibi gbogbo dukia ti o ba ti to odiwon ti won fi aala si ninu shariah, ti won o fun awon ti won ni eto si i. Origun kerin ni: Hajji, oun naa ni gbigbero Makkah lati gbe awon ise ijosin duro, ni ti jijosin fun Olohun ti O biyi ti O gbongbon. Origun karun-un ni: Aawe Ramadan, oun naa ni kikoraro nibi jije ati mimu ati nkan ti o yato si mejeeji ninu awon nkan ti o le ba aawe je pelu aniyan jijosin fun Olohun, lati igba ti alufajari ba ti yo titi ti oorun yio fi wo.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Sisopapo ijerii mejeeji, nitori naa okan ninu mejeeji o lee ni alaafia ayaafi pelu ikeji; fun idi eyi ni won fi se mejeeji ni origun kan.
2. Ijerii mejeeji ni ipile esin, nitori naa won o nii tewo gba oro kan abi ise kan ayaafi pelu mejeeji.

(65000)



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye iwọ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ti O ẹ e ni dandan lori awọn ẹrusin Rẹ, oun ni ki wọn maa jọsin fun Un, ki wọn si ma da nnkan pọ mọ Ọn ninu ẹbọ.
2. Alaye iwọ awọn ẹrusin lori Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ti O ẹ e ni dandan fun ara Rẹ ni ti ọla lati ọdọ Rẹ ati idẹra, oun ni ki O mu wọn wọ alujanna, ki o si ma fi iya jẹ wọn.
3. Iro idunnu ti o tobi n bẹ nibẹ fun awọn ti wọn mu U ni Ọkan ti wọn ko da nnkan pọ mọ Ọn ninu ẹbọ pe ikángun wọn ni wiwọ alujanna.
4. Mu'aadh sọ hadisi yii şwájú iku rẹ; ni ti ipaya kiko si inu ẹşẹ fifi imọ pamọ.
5. Akiyesi lori aima fọn apakan awọn hadisi ka lọdọ awọn eniyan kan ni ti ibẹru lori ẹni ti ko ni imọ nipa itumọ rẹ; iyẹn nibi nnkan ti ko si işẹ lábẹ rẹ tabi ijìyà kan ninu awọn ijìyà Sharia.
6. Àwọn ẹleşẹ nínú awọn ti wọn mu Ọlọhun ni Ọkan şoşo wa lábẹ fifẹ Ọlọhun, ti O ba fẹ yoo fi iya jẹ wọn ti O ba si fẹ yoo fori jin wọn, leyin naa ikángun wọn maa jẹ alujanna.

(65007)



(6) - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذَا يَتَّكَلَمُوا». وَأُخْبِرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا. [صحيح] - [متفق عليه]

(6) – Láti òdò Anas ọmọ Maalik- ki Ọlọhun yonu si i- pe: Mu’aadh wa lẹyin Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- lori nnkan ọgun, o sọ pe: “Ire Mu’aadh ọmọ Jabal”, o sọ pe: Mo n da ẹ lohun ire ojiṣe Ọlọhun, mo si n wa oriire fun dida ẹ lóhùn, o tun sọ pe: “Ire Mu’aadh”, o sọ pe: Mo n da ẹ lohun ire ojiṣe Ọlọhun, mo si n wa oriire fun dida ẹ lóhùn, leṣemeta, o sọ pe: “Ko si ẹni kankan ti o n jẹrii pe ko si ẹni ti ijọsin tọ si lododo afi Allahu, ati pe Muhammad ojiṣe Ọlọhun ni lododo lati inu ọkan re, afi ki Ọlọhun ṣe ina leewo fun un”, o sọ pe: Ire ojiṣe Ọlọhun, nje mi ko nii maa sọ ọ fun awon eniyan ki won le dunnu? O sọ pe: “Ti o ba ri beṣe won maa gbara le e”. Ni Mu’aadh wa sọ ọ nigba ti o fe ku ki o ma baa kó sínú eṣe. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Mu’aadh ọmọ Jabal- ki Ọlọhun yonu si i- wa lẹyin Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- lori nnkan ọgun re, o wa pe e: Ire Mu’aadh? O paara pipe e re leṣemeta; lati fi pataki nnkan ti o fe sọ rinle.

Ati pe gbogbo iyẹn ni Mu’aadh- ki Ọlọhun yonu si i- n da a lohun pelu ọrọ re pé: “LABBAEKA YAA ROSUULALLOOHI WA SAHDAEK”, o n tùmò sí pe: Mo n da ẹ lohun ire ojiṣe Ọlọhun ni idahun kan lẹyin idahun, mo si n tọrọ oriire fun jije ipè re.

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ fun un pe ko si ẹniken ti o n jẹrii pe LAA ILAAHA ILLALLOOH, itumọ re ni pe: Ko si ẹni ti a le jọsin fun pelú ẹtọ afi Ọlọhun, ati pe dajudaju Muhammad ojiṣe Ọlọhun ni, lododo lati inu ọkan re lai parọ, ti o ba ku lori iṣesi yii, Ọlọhun maa ṣe ina leewo fun un.

Mu'aadh- ki Ọlọhun yọnu si i- wa beere lọwọ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pe şe ki oun sọ ọ fun awọn eniyan ki wọn le yọ ki wọn si dunnú si dáadáa?

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa paya pe ki wọn ma baa gbara le e, ti işẹ wọn fi maa kere.

Mu'aadh ko sọ hadiisi naa fun ẹnikeńi afi şiwaju iku rẹ; ni ti ipaya kikosi inu eşẹ fifi imọ pamọ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Irẹlẹ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nibi fifi Mu'aadh seyin rẹ lori nnkan ọgùn rẹ.
2. Ọnà ikọnilẹkọọ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-, nigba ti o paara ipe rẹ fun Mu'aadh lati lè jẹ ki o maa fi ọkàn ba nnkan ti o fẹ sọ lọ.
3. Ninu majemu jijerii pe: Ko si ẹni ti ijọsin tọ si afi Allahu ati pe dajudaju Muhammad ojişẹ Ọlọhun ni ni ki ẹni ti o sọ ọ jẹ olododo ti o ni amọdaju ti ko jẹ onirọ tabi oniyemeji.
4. Àwọn ti wọn mu Ọlọhun ni Ọkan şoşo ko nii şe gberẹ ninu ina jahannamọ, ti wọn bá wọ ọ torí awọn eşẹ wọn; wọn maa mu wọn jade leyin ti wọn ba mọ.
5. Ọla ti o n bẹ fun ijerii mejeeji fun ẹni ti o ba sọ ọ lododo.
6. Jijẹ ẹtọ gbigbe síşo hadiisi ju silẹ ni awọn işesi kan ti ibajẹ ba lè ti ara rẹ jẹ yọ.

(10098)

(7) – عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(7) – Lati ọdọ Tooriq ọmọ Ashyam Al-Ash-ja'iy- ki Ọlọhun yonu si i-o sọ pe: Mo gbọ ti Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe: “Eni ti o ba sọ pe: LAA ILAAHA ILLALLOHU, ti o wa ṣe aigbagbo pelu nnkan ti wọn n jọsin fun yato si Ọlọhun, dukia re ati eje re ti je eewo, ati pe isirò re wa lówó Ọlọhun”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### **Àlàyé:**

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju eni ti o ba sọ ti o si jerii pelu ahon re pe “LAA ILAAHA ILLALLOHU”, o n tùmò si pe: Ko si eni ti a le jọsin fun pelú ẹtọ afi Ọlọhun, ti o wa ṣe aigbagbo pelu nnkan ti wọn jọsin fun yato si Ọlọhun, ti o bopa-bose kuro nibi gbogbo awon esin yato si Isilaamu, dajudaju dukia re ati eje re je eewo fun awon Musulumi, ohun ti ó kàn wa ni eyi ti o han ninu ise re, wọn ko nii gba dukia re, wọn ko si nii ta eje re silẹ, afi ti o ba da ese kan tabi wuwa odanran kan ti o maa sọ iyen di dandan ni ibámu si awon idajo Isilaamu.

Ati pe Ọlọhun ni yoo se isirò re ni ojo igbedide, ti o ba je olododo yoo san an lesan, ti o ba je soṣe-selu yoo fi iya je e.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Sisọ LAA ILAAHA ILLALLOHU, ati ṣiṣe aigbagbo pelu gbogbo nnkan ti wọn n jọsin fun yato si Ọlọhun, je majemu nibi wiwo inu Isilaamu.
2. Itumọ (LAA ILAAHA ILLALLOHU) ni ṣiṣe aigbagbo pelu gbogbo nnkan ti wọn n jọsin fun yato si Ọlọhun ninu awon

oosa ati awon sàrèè ati nnkan ti o yatọ si won, ati mimu U-  
mimo ni fun Un- ni Okan sošo pelu ijosin.

3. Eni ti o ba mu ìmú-Ọlọhun-lọkan wa ti o si dunni mo awon  
ofin re ni ti gbangba, ikoraro kuro fun un je dandan titi ti  
nnkan ti o yatọ si iyen yoo fi han lati odọ re.
4. Jije eewo dukia Musulumi ati eje re ati iyi re afi pelu eto.
5. Idajo ni aye wa lori nnkan ti o ba han, o si wa lori awon  
aniyan ati awon erongba ni orun.

(6765)

(8) – عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا  
الْمُوجِبَاتُ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ  
النَّارَ» [صحيح] - [رواه مسلم]

(8) – Lati odọ Jabir- ki Olohun yonu si i- o so pe: Arakunrin kan wa ba  
Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- o so pe: Ire Ojise Olohun, ki  
ni nnkan meji naa ti won maa n so nnkan di dandan? O so pe: “Eni ti o  
ba ku ti ko da ebọ kankan po mo Olohun yoo wo alujanna, eni ti o ba si  
ku ti o da ebọ po mo Olohun yoo wo ina". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Arakunrin kan beere lowo Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba  
a- nipa pe iroyin meji naa wo ni yoo so wiwo alujanna di dandan, ati ti  
yoo so wiwo ina di dandan? Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a-  
da a lohun pe: Dajudaju iròyin ti yoo so wiwo alujanna di dandan ni ki  
omoniyan ku ti o si n josin fun Olohun nikan sošo ti ko da ebọ kankan  
po mo On, Ati pe iroyin ti yoo so wiwo ina di dandan ni ki omoniyan  
ku ti o si n da ebọ po mo Olohun ti yoo wa orogun ati olubakege fun

Ọlọhun nibi ìní ẹ̀tọ̀ sí ìjọ̀sìn Rẹ̀ tabi nibi jìjẹ Oluwa Rẹ̀ tabi nibi awọ̀n orukọ Rẹ̀ ati awọ̀n iroyin Rẹ̀.

### Lára àwọ̀n ànḡààní hadiisi naa:

1. Ọ̀lẹ̀ tí ọ̀ n bẹ̀ fun imu Ọ̀lọ̀hun ní Ọ̀kán átí pé ẹ̀ní tí ọ̀ bá kú ní olugbagbọ̀ ododo tí kọ̀ dá ẹ̀bọ̀ kankan pọ̀ mọ̀ Ọ̀lọ̀hun yoo wọ̀ alujanna.
2. Ewu tí ọ̀ n bẹ̀ fun ẹ̀bọ̀, átí pé ẹ̀ní tí ọ̀ bá kú tí ọ̀ n dá ẹ̀bọ̀ pọ̀ mọ̀ Ọ̀lọ̀hun yoo wọ̀ ina.
3. Àwọ̀n ẹ̀lẹ̀şẹ̀ nínú awọ̀n tí wọ̀n mu Ọ̀lọ̀hun ní Ọ̀kán şoşo wá ní abẹ̀ fifẹ̀ Ọ̀lọ̀hun tí Ọ̀ bá fẹ̀ yoo fí iya jẹ̀ wọ̀n, tí Ọ̀ bá sí fẹ̀ yoo forí jìn wọ̀n, lẹ̀yìn naa ìkángun wọ̀n maa jẹ̀ alujanna.

(65008)

(9) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. [صحيح] - [متفق عليه]

(9) – Lati ọ̀dọ̀ Abdullahi ọ̀mọ̀ Mas'ud- kí Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu sí i- ọ̀ sọ̀ pé: Anabi- kí ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun átí ọ̀lẹ̀ Rẹ̀ maa bá a- sọ̀ ọ̀rọ̀ kán, emi naa sọ̀ omiran, Anabi- kí ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun átí ọ̀lẹ̀ Rẹ̀ maa bá a- sọ̀ pé: "Ẹ̀ní tí ọ̀ bá kú tí ọ̀ sí n pé akẹ̀gbẹ̀ kán tí ọ̀ yàtò sí Ọ̀lọ̀hun, ọ̀ maa wọ̀ ina" emi naa sọ̀ pé: Ẹ̀ní tí ọ̀ bá kú, tí kọ̀ sí kii n pé akẹ̀gbẹ̀ kán mọ̀ Ọ̀lọ̀hun, ọ̀ maa wọ̀ alujanna. [O ni alaafia] - [Ohun tí wọ̀n fí ẹ̀nu kò lé lóri ní]

### Àlàyé:

Anabi- kí ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun átí ọ̀lẹ̀ Rẹ̀ maa bá a- n sọ̀ fun wá pé dajudaju ẹ̀ní tí ọ̀ bá yí nnkán kán nínú nnkán tí ọ̀ jẹ̀ dandan lati jẹ̀ tí Ọ̀lọ̀hun fun ẹ̀ní tí ọ̀ yàtò sí I, gẹ̀gẹ̀ bíi pipe ẹ̀ní tí ọ̀ yàtò sí Ọ̀lọ̀hun- tí ọ̀lẹ̀ Rẹ̀ ga- tabi wiwa iranlọ̀wọ̀ lẹ̀ sọ̀dọ̀ ẹ̀ní tí ọ̀ yàtò sí I, tí ọ̀ sí kú lóri rẹ̀, dajudaju ọ̀ maa

wa ninu awon ara ina. Omọ Mas'ud- ki Olọhun yonu si i- salekun pe dajudaju eni ti o ba ku ti ko da nnkan kan pọ mọ Olọhun, dajudaju ibuşeripadasi re ni alujanna.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Adura şşe je ijosin won ko gbodo yi i afi sodo Olọhun- ti ola Re ga-.
2. Ola ti o n be fun imu Olọhun ni okan soşo, ati pe dajudaju eni ti o ba ku lori re maa wo alujanna, koda ki won fi iya je e lori awon eşe re kan.
3. Aburu ti o n be fun ebo, ati pe dajudaju eni ti o ba ku lori re maa wo ina.

(3419)

(10) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(10) – Lati ọdọ ọmọ Abbas - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - ó sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ fun Muaz ọmọ Jabal, nigba ti ó ran an lọ sí ilu Yemen pé: "Iwo yoo lọ sí ọdọ awọn eniyan kan ti wọn jẹ oni-tira sánmò, tí o bá dé ọdọ wọn, pè wọn kí o sọ fún wọn pé kí wọn jẹrii pé dajudaju ko si ọlọhun miran ayafi Ọlọhun Allah, ati pé dajudaju Anabi Muhammad Ojiṣe Ọlọhun ní n ẹ, tí wọn bá gba ẹ gbọ nínú iyẹn, sọ fún wọn pé dajudaju Ọlọhun ti ẹ irun wakati márùn-ún ní ọranyan lé wọn lori ni ojoojumọ, tí wọn bá gba e gbọ nínú iyẹn, sọ fún wọn pé Ọlọhun ti ẹ zakat ní ọranyan lé wọn lori, kí wọn maa gbà a lówó àwọn olówó inu wọn, kí wọn sì maa fún awọn talaka inu wọn, tí wọn bá gba ẹ gbọ nínú iyẹn, ó wá dọwọ ẹ o nibi awọn nkan tó niye lori ninu awọn dukia wọn, kí o sì bèrù ipepe eni tí a ẹ àbòsí sí, nítorí pé kò sí gaga kankan láàrín rẹ àti Ọlọhun". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Nigba ti Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - rán muaz ọmọ Jabal - ki Ọlọhun yonu si i - lọ sí ilu Yemen lati lọ kéde ẹsìn Ọlọhun fún wọn, kí ó sì kọ wọn ní ìmò ẹsìn Islam, ó ṣalaye fun un pé dajudaju ó máa ṣalabapade awọn ọmọ Kristeni kan nibe; nitori naa, ki o gbaradi fun wọn, leyin naa, ki o bere ikede esin Islam fun wọn pelu sisọ nkan tó pataki julọ, leyin naa ki o wá sọ nkan tó pataki télẹ e, Kí ó kókó pé wọn lọ síbi ṣiṣatunṣe igbagbo wọn; iyẹn ni pé kí wọn jẹrii pé dajudaju



kò sí ọlọhun miran ayafi Ọlọhun Allah, ati pé dajudaju Anabi Muhammad Ojiṣe Ọlọhun ní n ṣe; Nítorí pé eyi ni ó máa mú wọn wọ inu ẹsin Islam, tí wọn bá ti gbà lati ṣe iye, kí ó ṣeṣe waa pa wọn laṣe pé kí wọn maa gbé irun duro; nitori pe irun ni iṣe ọranyan tí ó tóbi jùlọ leyin tí a bá ti ṣe Ọlọhun lọkan, tí wọn bá gbé irun naa duro, kí o pa àwọn olówó inu wọn laṣe pé kí wọn yọ zakat owó wọn fún àwọn tálàkà inu wọn, léyìn nàà, Anabi ṣe ikilọ fún Muaz pé kó má ṣe gba owó tó niye lórí jù lọ; nitori pe eyi tó jẹ ọranyan ni eyi tó wà ní iwontun-wonsi leyin naa, ó tún gbà á nímòrán pé kó jìnà sí àbòsí; nitori ki ẹni tí ó bá sabosi sí má baa ṣepe fun un, nitori pé dajudaju adura rẹ maa gbà.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Itumọ ijẹrii pé kò sí ọlọhun miran ayafi Ọlọhun Allah ni pé ki a ṣe Ọlọhun lọkan ṣoṣo nibi ijọsin wa, kí a sì gbé ijọsin ohun tó yatọ si I jù sílẹ.
2. Itumọ ijẹrii pé Anabi Muhammad Ojiṣe Ọlọhun ní n ṣe ni pé kí a ní igbagbọ si i, kí a sì ní igbagbọ sí ohun tí ó mú wá, kí a sì pè é lódodo, ati pé oun ni ikẹhin awọn Ojiṣe Ọlọhun sí gbogbo ènìyàn.
3. Bí a ṣe maa bá oní mímò sọrọ ati ẹniti ó ní ìrújú, ó yatọ si bi a ṣe maa bá alaimọkan sọrọ; nítorí nàà ni Anabi ṣe ṣalaye fún Muaz pé: “Ìwọ yóò lọ bá àwọn ènìyàn tí wọn jẹ oni-tira sánmọ”.
4. Pàtàkì kí musulumi jẹ onimimọ nipa ẹsin rẹ; kí ó lè móríbọ kuro nibi ìrújú awọn onírújú, látara wíwá ìmọ.
5. Bíbàjẹ ẹsin awọn Yahudi ati Nasara leyin tí Ọlọhun ti gbé Anabi Muhammad dide - ki ikẹ ati ọlọ Ọlọhun maa ba a - ati pé wọn kò sí ninu awọn ti yoo là ní ọjọ igbende ayafi tí wọn bá wọ inu ẹsin Islam, kí wọn sì gba Anabi gbọ - ki ikẹ ati ọlọ Ọlọhun maa ba a.

(11) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ» . [صحيح] - [رواه البخاري]

(11) – Lati oḍo Abu Hurairah - ki Oḷohun yonu si i - dajudaju ó sọ pé: Wón sọ pé: Iwo Ojiṣe Oḷohun, ta ni yoo ṣoriire jù ninu awon eniyan pelu iṣipè re ni oḷo Igbende? Ojiṣe Oḷohun - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - dahun bayii wi pe: "Ire Abu Hurairah, mo ti rò naa pé ko si enikan ti yoo bi mi leere nipa hadiisi yii saaju re, nigba ti mo ti ri itaraṣaṣa re si imo hadiisi, Eniti ó maa ṣoriire jù pelu iṣipè mi ní oḷo Igbende, oun ni eniti ó bá sọ pé ko si oḷohun miran ayafi Oḷohun Allah, tí ó ṣo beẹ pelu ododo lati inu oḷan re". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - n fun wa ni iro pé dajudaju eniti ó maa ṣoriire jù pelu iṣipè oun ni oḷo Igbende ni enikení tí ó bá sọ pé: "Ko si oḷohun miran ayafi Oḷohun Allah pelu ododo lati inu oḷan re" iyen ni pe: ko si enikení ti a gbodo josi fun pelu ododo ayafi Oḷohun Allah, ati pe ó gbodo là kuro nibi ebo ati kárimí.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Fífi iṣipè rinlẹ fun Anabi - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - ni oḷo ikeyin, ati pé iṣipè naa ko nii sí fun enikankan ayafi awon tí wón se Oḷohun lókan soṣo.
2. Iṣipè re - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - oun ni ebẹ re si Oḷohun Oba fun awon tí ó ye kí wón wo ina Jahannama ninu

awon oluṣoḷohun lókan pé kí wón má wọ inu rẹ, ati pé kí awon tí ó ti wà ninu ina lè jáde kuro ninu rẹ.

3. Oḷá tí n bẹ fun gbolohun iṣoḷohun lókan tó jẹ ododo mímọ fun Oḷohun Oba, ati títoḃi orípa gbolohun naa.
4. Gbolohun iṣoḷohun lókan yoo maa di òtítọ pẹlu mímọ itumọ rẹ, ati fífi nńkan ti o n bèèrè fun ṣiṣé ṣe.
5. Oḷá tí n bẹ fún Abu Hurairah - ki Oḷohun yonu si i - ati itaraṣàṣà rẹ sí imọ.

(3414)

(12) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْإِيْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(12) – Lati oḃo Abu Hurairah, ki Oḷohun yonu si i, o sọ pe: Ojiṣe Oḷohun, ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a, sọ pe: “Igbagbo jẹ ipin aadọrin ati nnkankan- tabi oḃota ati nnkankan-, eyi ti o ni oḷa julọ nibẹ ni gbolohun Laa ilaaha illallohu, eyi ti o kere julọ nibẹ ni mimu suta kuro lona, ati pe itiju jẹ ipin kan ninu igbagbo”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Oḷohun ati oḷa Rẹ maa ba a- n sọ pe dajudaju igbagbo jẹ awon ipin kan ati awon iwa ti wón pọ, o ko awon iṣe ati awon adisokan ati awon oḃo kan sinu.

Ati pe eyi to ga julọ ninu iwa igbagbo ti o si daa julọ nibẹ ni gbolohun: “Laa ilaaha illallohu”, ni mimọ itumọ rẹ, ni ṣiṣe iṣe pẹlu nnkan ti o da le lori, bii pe dajudaju Oḷohun ni Oḷohun Oba Okan ṣoṣo ti O lẹtoḃo si ijosin ni Oun nikan ṣoṣo yatọ si ẹni ti o yatọ si I.

Ati pe eyi ti o kere julọ ninu awọn iṣe igbagbọ ni mimu gbogbo nnkan ti o le ko suta ba awọn eniyan kuro ni awọn oju ọna wọn.

Leyin naa Anabi- ki iṣe Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe dajudaju itiju wa ninu iwa igbagbọ, oun ni awọn iwa kan ti o maa n muni ṣe nnkan daadaa, ti o si maa n muni gbé iwa buruku ju silẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Igbagbọ jẹ awọn ipo ti awọn kan lọla ju awọn kan lọ.
2. Igbagbọ jẹ ọrọ ati iṣe ati adisọkan.
3. Itiju Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- maa n beere fun: Ki Ó má ri ẹ níbi tí O kọ fun ẹ, ki O si ma wá ẹ tì nibi ti O pa ẹ láṣẹ.
4. Didarukọ onka ko tùmọ si pe orí rẹ ni ó ti mọ, bi ko ṣe pe o n da lori pipọ awọn iṣe igbagbọ, nitori pe Larubawa le darukọ onka fun nnkan ti ko si nii gbero kikọ nnkan ti o yatọ si i.

(6468)

(13) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(13) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yọnu si i- o sọ pe: Mo bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere pé: Ewo ninu eṣe lo tobi julọ ọdọ Ọlọhun? O sọ pe: "Ki o wa orogun fun Ọlọhun ti o si je pe Oun ni O ṣẹda re" mo sọ pe: Dajudaju iyeṅ tobi, mo sọ pe: Leyin naa èwo tún ni? O sọ pe: "Ki o pa ọmọ re; ti o n beru ki o maa jeun pelu re" mo sọ pe: Leyin naa èwo tún ni? O sọ pe: "Ki o ba iyawo ara adugbo re ṣe ṣiná". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Wọn bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere nipa eyi ti o tobi julọ ninu awọn eṣe, ó wa sọ pe: Eyi ti o tobi julọ ninu wọn ni ebo nlá, oun ni ki o wa akegbe tabi afijo fun Ọlọhun nibi ije Ọlọhun Re tabi nibi jije Oluwa Re tabi nibi awọn oruko Re ati awọn iroyin Re, ati pe eṣe yi, Ọlọhun- ti ọla Re ga- ko nii ṣe aforijin re afi pelu ironupiwada, ti eni ti o ba ṣe e ba ku, o maa ṣe gbere ninu ina. Leyin naa, ki ọmọniyan pa ọmọ re ni ti ipaya pe ki o maa jeun pelu re, ati pe pipa emi je eewo, ṣùgbón eṣe re maa tobi ti eni ti wọn pa ba je moṣebi eni ti o pa èniyàn, eṣe re maa tobi bakannaa nigba ti o ba ṣe pe erongba eni ti o pa eniyan naa ba pa a nitori ipaya ki eni ti wọn pa ma baa ba pin ninu arisiki Ọlọhun. Leyin naa, ki ọkùnrin ba iyawo ara adugbo re ṣe ṣina, bii ki o gbiyanju lati tan iyawo ara adugbo re titi o fi maa ba a ṣe ṣina ti yoo si gbà fun un, Ati pe ṣina je eewo, ṣùgbón eṣe re maa tobi ti

eni tí wọn bá ṣe ṣina ba je iyawo ara adugbo ti Sharia paṣe ṣiṣe daadaa si i ati wiwu iwa daadaa si i ati biba a lo lona ti o daa.

## Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jijuralọ awọn eṣe nibi títóbi, geṣe bi awọn iṣe oloore naa ṣe maa n ju ara wọn lọ nibi ọla.
2. Eyi ti o tobi julọ ninu awọn eṣe ni: Imu orogun pọ mọ Ọlọhun-ti ọla Re ga-, leyin naa pipa omọ nitori ipaya ki o maa jeun peḷu re, leyin naa ki o ṣe ṣina peḷu iyawo ara adugbo re.
3. Arisiki wa lẹwọ Ọlọhun, Ọlọhun- mimọ ni fun Un- si ti mu ipèsè arisiki awọn ẹda da wa lójú.
4. Titobi iwọ ara adugbo, ati pe dajudaju fifi suta kan an tobi ni ti eṣe ju fifi suta kan eni ti o yàtò si i lọ.
5. Aṣẹda ni Ẹni ti O lẹtọ si ijọsin ni Oun nikan ṣoṣo ti ko si orogun fun Un.

(5359)

(14) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(14) – Lati ọdọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, sọ pe: “Ọlọhun, Oníbùkún ti O ga jùlọ, sọ pe: Èmi ni Olùrọrọ julọ tayọ níní orogún. Ẹnikéni tí ó bá ṣe iṣe kan, ti o mu orogun ninu re peḷu Èmi Ọlọhun, Emi yòò fi òun àti orogun re sílẹ. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, n fun wa ni iro pe: Ọlọhun, Onibukun ti O ga julọ sọ pe: Ọun ni Olùrọrọ julọ tayọ níní orogún, Ọun ni Ẹni tí Ó rọrọ tayọ gbogbo nkan, ati pe ti eniyan bá ṣe iṣe ijọsin kan, ti o sì ṣe e fun Ọlọhun ati ohun miiran tó yatọ si Ọlọhun; Ọlọhun yoo

gbe e ju sílè, kò nii gbà á lówó rè, yoo sì dá a padà fún un. Nitori naa, oranyan ni ki işé jé mimọ fun Ọlọhun Ọba Aleke ọla, nítorí pé, Ọlọhun – mimọ fun Un – kò nii gba işe kan ayafi eyiti ó jé mimọ lati lè fi ri ojú rere Rè.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìkìlọ kuro nibi ẹbọ pelu gbogbo awọn ọna rẹ; ati pe o jẹ ìkòdí fún itẹwọgba işe ijọsin lọdọ Ọlọhun.
2. Níní ìmọlára ọrọ Ọlọhun ati titobi Rè, ó wà ninu awọn nkan tó máa n ẹ iranlọwọ lati jẹ ki a ẹ işe ní mimọ fun Ọlọhun.

(3342)

(15) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». [صحيح] - [رواه البخاري]

(15) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Gbogbo ijọ mi ni yoo wọ alujanna ayafi ẹni tí ó bá kọ”, wọn sọ pé: Ire ojişẹ Ọlọhun, ta ni o maa kọ? O sọ pe: “Eni ti o ba tele àşẹ mi yoo wọ alujanna, ẹni tí ó bá yapa àşẹ mi ti kọ”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe gbogbo ijọ òun ni yoo wọ alujanna ayafi ẹni tí ó bá kọ!

Awọn saabe- ki Ọlọhun yonu si wọn- wa sọ pé: Ta ni ẹni tí ó máa kọ ire ojişẹ Ọlọhun?!

O da wọn lohun pe: Eni ti o ba tele àşẹ ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- maa wọ alujanna, şugbón ẹni tí o ba yapa ofin sharia ti kọ lati wọ alujanna pèlú işe burúkú rẹ.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Itẹle ojiṣe- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa ninu itẹle Ọlọhun, yiyapa re naa si wa ninu iyapa Ọlọhun.
2. Itẹle Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa so alujanna di dandan, yiyapa re maa so ina di dandan.
3. Iró idùnnú fun awọn olutele ninu ijo yii pe gbogbo wọn ni wọn maa wo alujanna ayafi eni ti ó bá yapa Ọlọhun ati ojiṣe Re.
4. Aanu Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- fun ijo re, ati ojúkòkòrò re lati fi wọn mọ̀nà.

(4947)

(16) – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(16) – Lati odo Umar omo Al-Khattab - ki Ọlọhun yonu si i - o so pe: Mo gbo Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ti n so pe: "E ma se yin mi ju gege bi awon Kristeni se yin omo Maria ju; eru Ọlọhun ni emi n se, nitori naa, e wi pe: Eru Ọlọhun ati Ojiṣe Re". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n ko fun wa kuro nibi iyinniju ati ikoja aala ofin sharia nibi yiyin-in ati riroyin re pelu awon iroyin Ọlọhun Oba ati awon ise to je ti Ọlọhun nikan soṣo, tabi ki a so pe Anabi ni imo kokò, tabi ki a maa pe e papo mo Ọlọhun, gege bi awon Kristeni se se pelu Isa omo Maria - ki alaafia Ọlọhun maa ba a. Leyin naa, Anabi salaye pe eru kan ninu awon eru Ọlọhun ni oun, o si pase pe ki a maa so nipa oun bayii pe: Eru Ọlọhun ati Ojiṣe Re.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Iṣṣonilara kuro nibi titayo aala ofin sharia nibi ẹyin; nitori pe ó máa n ja si ẹbọ ni.
2. Ohun ti Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n kilọ fun wa nipa rẹ, ó ti ṣeṣe ninu ijo yii, nitori awọn ẹgbẹ kan ti tayọ aala lara Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - awọn ẹgbẹ kan si tayọ aala lara awọn ara ile Anabi, awọn ẹgbẹ kan tún tayọ aala lara awọn wòlfi Ọlọhun, gbogbo wọn bá kó sinu ẹbọ.
3. Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - royin ara rẹ pé ẹru Ọlọhun ni oun; nitori kí ó lè fi hàn pé dajudaju ẹru ti Allah ní rẹ ni oun, nitori naa kò lẹtoṣo ki a dari nkankan ninu awọn iròyìn ẹṣà Oluwa si ọdọ rẹ.
4. Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - royin ara rẹ pé ojiṣe Ọlọhun ni oun; nitori kí ó lè fi hàn pé dajudaju ojiṣe kan lati ọdọ Ọlọhun ni oun, nitori naa ọranyan ni ki a pe e lódodo ki a si tẹle e.

(3406)

(17) – عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالتَّائِسِ أَجْمَعِينَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(17) – Lati ọdọ Anas- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Eni kan kan ninu yin ko nii gbogbo ni ododo titi ti yoo fi nífẹẹ mi ju baba rẹ, ati ọmọ rẹ, ati awọn èyàn ni apapọ lọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ fun wa pe Musulumi ko nii jẹ ẹni tí igbagbo rẹ pe titi ti yoo fi ti ifẹ ojiṣe Ọlọhun-

ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şáájú ifé iyá rẹ, ati baba rẹ, ati ọmọkùnrin rẹ, ati ọmọbìnrin rẹ, ati awọn èyàn ni apapọ, ifé yii n beere fun itẹle e ati riran an lówó, ati ki èyàn ma yapa rẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Dandan ni níní ifé ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ati titi i şáájú ifé gbogbo èdá.
2. Lara ami pípé ifé ni: Ríran sunna ojişẹ Ọlọhun lówó, ati níná ẹmí ati dúklá tori rẹ.
3. Ifé ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n beere fun itẹle e nibi àşẹ ti o ba pa, ati gbigba a ni olódodo nibi ohun ti o ba sọ, ati jíjinnà si ohun ti o ba kọ, ati itẹle e, ati fifi adadaale sílẹ.
4. Ètọ Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- tobi o si kanpá ju ti gbogbo èyàn lọ; torí pé o jẹ okùnfà imọna wa kúrò nibi anù, ati yíyọ wa kuro nibi iná, ati wiwọ alujanna.

(5953)

(18) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(18) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: "E fi mi sílẹ̀ lópin ìgbà tí mo ba fi yin sílẹ̀, dajudaju nnkan ti o pa awọn ti wọn sáájú yin run ni ibeere wọn ati iyapa wọn si awọn anabi wọn, ti mo ba kọ nnkan kan fun yin ẹ jinna si i, ti mo ba pa yin láṣẹ̀ àlámòrì kan ẹ mu u wa de ibi ti ikapa yin ba mọ". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- dárúko pe dajudaju awọn idajo ti Sharia pin si awọn ipin meta: Nnkan ti wọn dake lori re, ati awọn nnkan ẹko, ati awọn aṣe.

Akọko: Oun ni nnkan ti ofin dake nipa re: Pe ko si idajo, ati pe dajudaju ipile nibi awọn nnkan ni aije dandan; Şugbon ni igba aye re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- gbigbe ibeere ju silẹ nipa nnkan kan ti ko ṣelẹ je dandan ni ti ipaya ki ije dandan tabi ṣiṣe ni èwò ma sokale nipa re, dajudaju Ọlọhun fi i kale ni ti ike fun awọn ẹru, Şugbon leyin iku re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ti ibeere ba je lati beere nipa idajo esin, tabi lati ko eeyan ni nnkan ti wọn n bukaata si ninu àlámòrì esin, o letoo, bi ko se pe o je nnkan ti wọn pa wa laṣe pelu re, şugbon ti o ba je onà lati beere ni tipatipa ni, oun ni a gba lero pelu gbigbe ibeere ju silẹ nipa re ninu hadiisi yi; iye ri beere nitori pe o le ja si iru nnkan ti o ṣelẹ si awọn omọ Ísírelì, ti wọn pa wọn laṣe pe ki wọn du malúu kan, ka ni pe wọn du èyíkéyí malúu ni, wọn ti mu aṣe naa se, şugbon wọn le koko wọn si le koko mọ wọn.

Ikeji: Awọn èwò; àwọn ni: Nnkan ti wọn maa san ẹni ti o ba gbe e ju silẹ lesan, ti wọn maa fi iya je ẹni ti o ba se e, jijinna si gbogbo re je dandan.

Elẹkẹta: Awọn aṣe; àwọn naa ni nkan ti wọn maa san ẹni ti o ba ṣe e ni ẹsan, ti wọn o si jẹ ẹni ti o ba fi i silẹ ni iya, nitori naa o jẹ dandan ki a ṣe ninu rẹ èyí tí agbara ba ka.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. O tọ ki èyàn maa ko airoju pẹlu nkan ti o pataki julọ ti a bukaata si i, ati gbigbe nkan ti a ko bukaata si lẹṣẹṣe ju silẹ, ki a sù ma maa ko airoju pẹlu bibeere nipa nkan ti ko i tii ṣeṣe.
2. Jijẹ eewọ ibeere ti o ṣeeṣe ki o fa titakoko awọn ọrọ (ibeere), ati sisi ilẹkun awọn iruju sílẹ, èyí ti o le fa ọpọ ìyapa.
3. Ipaṣe pẹlu gbigbe awọn nkan ti wọn kọ silẹ; torí pé ko si inira nibi gbigbe e silẹ, tori naa ni kikọ fi jẹ nkan ti o kari.
4. Ipanilase pẹlu ṣiṣe nkan ti wọn paṣe rẹ bi agbara ba ṣe mọ; torí pé inira le wa nibẹ nigba miran tabi ki o kagara lati ṣe e; fun idi eyi ni aṣe rẹ fi wa lori bi ikapa ba ṣe mọ.
5. Kikọ kuro n'ibi apoju ibeere, awọn olumọ ti pin ibeere si meji: Ikinni: Eyi ti o ba wa ni ọna ikonilekọọ nipa nkan ti wọn bukaata si ninu alamọri ẹsin, eleyii wọn paṣe rẹ, abẹ rẹ si ni gbogbo ibeere awọn saabe ko si, ikeji: Eyi ti o wa ni ọnà ifitipa béèrè , eleyii ni wọn kọ kuro nibẹ.
6. Ṣiṣe ikilọ fun ijọ yii (ijo Anabi Muhammad) kuro nibi yiyapa Anabi rẹ, geṣe bi o ṣe ṣeṣe si awọn ijọ ti o ṣaaju rẹ.
7. Apoju ibeere nipa nkan ti a ko bukaata si ati ìyapa awọn Anabi okunfa iparun ni, agaga julọ nibi awọn alamọri ti eeyan o lee de ibẹ, geṣe bii: Awọn alamọri ikọkọ ti ko si ẹni ti o mọ ọn ayaafi Ọlọhun, ati awọn iṣesi ojo igbedide.
8. Kikọ kuro nibi bibeere nípa àwọn ọrọ ti o le, Al-Awzā'i sọ pe: Dajudaju ti Ọlọhun ba gbero lati jẹ ki ẹrú Rẹ pàdánù ibukun imọ, yoo fi awọn ọrọ tii muni ko sínú àṣiṣe si ori ahon rẹ, mo

si ti ri wọn ni ẹni ti o fi n kere julọ ni imọ, Ibnu Wahb naa tun sọ pe: Mo gbọ ti Mālik n sọ pe: Iyanjija nibi mimọ maa n pa imọlẹ mimọ ninu ọkan eeyan.

(4295)

(19) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنِّي بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(19) – Lati ọdọ Abdullah ọmọ ‘Amr - ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji - o ni dajudaju Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "E jé iṣe mi koda bo ṣe pẹlu aayah kan, kí ẹ sì sọrọ nipa àwọn ọmọ Ísírẹ̀lì, kò sí aburu nibe, ṣugbọn ẹnìkẹ̀ni tí ó bá mọ̀mọ̀ parọ̀ mọ̀ mi, kí onitọhun yaa tètè mú ibùjókòò rẹ̀ nínú Iná". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n pàṣẹ pé ki a gbé imò oun kaakiri, yala o jẹ lati inu Al-Qur'an ni tabi lati inu Sunna, koda ki nkan naa jẹ kekere gege bii aayah kan pere lati inu Al-Qur'an tabi Hadiisi kan pere, pẹlu majemu pé ki olujise naa jẹ onimimọ nipa nkan ti ó fẹ jise rẹ, tí ó sì fẹ kede rẹ. Leyin naa ni Anabi- ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a- ṣalaye pé ko si aburu pẹlu sisọrọ nipa awon ọmọ Ísírẹ̀lì, ati nipa awon iselẹ́ tí ó ṣelẹ́ sí wọn, pẹlu pé kó ṣá ti má tako ofin sharia tiwa. Leyin naa, ó wá wa ní isọra kuro nibi píparọ̀ mọ̀ oun, nitori pé ẹnìkẹ̀ni tí ó bá mọ̀mọ̀ parọ̀ mọ̀ oun, kí ó yaa tètè gba aaye kalẹ fun ara rẹ ninu ina.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìgbani níyànjú lati maa kede òfin sharia Ọlọhun, àti pé èniyàn gbòdò kede ohun tí ó bá há sọrí, tí ó sì gbágbòyẹ́ rẹ, koda bó jé pé díẹ̀ ni.

2. Ọranyàn ni wíwá ìmò ofin sharia; kí a lè jòsin fun Ọlọhun ní iròrùn, kí a sì lè kede sharia Rẹ ní àwòrán tó lalaafia.
3. Ọranyàn ni kí a ri i dájú pé èyíkéyí hadiisi ní alaafia siwaju kí a tó kede rẹ, nitori kí a má baa kó sí inu ilérí tó lekoko yii.
4. Ìgbani níyanju lati maa sọ ododo ati ìmáa şora nibi ọrọ sisọ, kí a má baa kó sinu iró, paapaa julọ ninu ofin Ọlọhun Ọba.

(3686)

(20) - عن المقدم بن معديكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَكَبِّرٌ عَلَى أَرِيكَتَيْهِ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحَلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

(20) – Lati ọdọ Al-Miqdam Bin Ma'dikarib- ki Ọlọhun yonu si i- o so pe: Ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: "E tẹti ẹ gbọ, o şee şe ki arakunrin kan, ki hadisi nipa mi de etigbọọ rẹ ti o si rogbọku ni ori ibusun rẹ, ki o wa maa sọ pe: Iwe Ọlọhun n bẹ laarin wa ati yin, nnkan ti a ba ri nibẹ ni ẹto a maa şe e ni ẹto, nnkan ti a ba si ri nibẹ ni eewọ a maa şe e ni eewọ. Ati pe dajudaju nnkan ti Ọjįşẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ba şe ni eewọ da gege bii nnkan ti Ọlọhun şe ni eewọ". [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ibnu Maajah ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe asiko kan ti sunmo ti iran kan ninu awon eniyan o je eni ti o jokoo nibẹ, okan ninu won maa rogbọku ni ori ibusun rẹ, ti hadisi lati ọdọ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- maa de eti igbọ rẹ, yoo waa maa sọ pe: Nnkan ti o maa şe iyatò laarin wa ati laarin yin nibi awon alamori ni Kuraani Alapon-onle, o si ti to wa, nnkan ti a ba ba nibẹ ninu nnkan ẹto a maa şişẹ pelu

re, nnkan ti a ba si ba nibe ninu nnkan eewo a maa jina si i. Leyin naa Anabi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- şalàyé pe gbogbo nnkan ti o şe ni eewo tabi ko kuro nibe ninu sunnah re, ninu idajo o da gege bii nnkan ti Olahun şe ni eewo ninu iwe Re; nitori pe oun ni o n jise Oluwa re.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Gbigbe sunnah tobi gege bi won şe maa n gbe Kuraani tobi ti won si maa n şe ise pelu re.
2. Itele Ojise ni itele ti Olahun, iyapa re naa si je iyapa Olahun ti ola Re ga.
3. Eri to feseerinle ni Sunnah ati fifesi fun awon ti won ko Sunnah tabi ti won tako o.
4. Eri ti o ba gunri kuro nibi sunnah ti o so pe Kuraani nikan ti to, o ti gunri kuro nibi mejeeji lapapo, o si tun je opuro nibi apemora itele Kuraani re.
5. Ninu awon eri ije-anabi re- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- ni awon nnkan ti o so pe o maa selo ni ojo iwaju, ti o si selo gege bi o şe wi.

(65005)



(21) - عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَدِّثُ مَا صَنَعُوا. [صحيح] - [متفق عليه]

(21) – Lati ọdọ ‘Aaisha ati Abdullahi ọmọ’ Abbas- ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji- won so pe: Nigba ti ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n poka iku, o bẹrẹ si nii fi aṣo nu oju re, ti o ba ti wa di pe ko le mí mó daadaa, o maa ka a kuro loju re, o wa so bi o se wa bepe: “Egbe Ọlọhun ko lo maa ba awon Juu ati Nasara, ti won mu awon saare awon Anabi won ni moṣalasi” ti o n se ikilo kuro nibi nnkan ti won se. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

‘Aaisha ati Ibnu ‘Abbas- ki Ọlọhun yonu si won- n so fun wa pé, nigba ti iku de ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o fi egige aṣo soju re, ti mimi ba ti soro fun un latara awon irora iku yoo mu u kuro loju re, o wa so ninu isesi ti o le koko yen pé: Ọlọhun ṣebi le awon Juu ati Nasara, O si le won jina si ike Re; iyen ri bepe nitori pe won ko moṣalasi lori awon saare awon Anabi won, bi ko ba se bi alamori naa se lewu to ni ko nii daruko re nibi iru aaye yi, fun idi eyi ni Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- se ko fun ijo re kuro nibi ṣiṣe afijo ise yen; nitori pe o wa ninu ise awon Juu ati Nasara, ati pe nitori pe o je oju ona kan ti o le muni debi ṣiṣe ebọ pelu Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbon.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Kiko kuro nibi mimu awon saare awon Anabi ati awon eni rere ni moṣalasi ti won maa kirun nibe fun Ọlọhun, nitori pe iyen je ategun lo sibi ebọ.

2. Ini akolekan ojişe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ati amojuto rẹ gan si imu Ọlọhun ni ọkan soşo ati iḅeru rẹ fun bibabara awon saare; nitori iyeṅ maa ja si eḅo.
3. Şişe letoḅo şişebi le awon Juu ati Nasara ati eni ti o ba şe bii işe won ninu mimo nnkan sori awon saare ati mimu won ni moşalasi.
4. Mimō nnkan sori awon saare wa ninu awon oju ọna Juu ati Nasara, kikō kuro nibi fifi ara wé won si n be ninu hadiisi náà.
5. Kiki irun nibe tabi si i lara n be ninu mimu awon saare ni moşalasi, koda ki won ma ko moşalasi.

(3330)

(22) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [صحيح] - [رواه أحمد]

(22) – Lati ọḅo Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, ó gba a wá lati ọḅo Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a: “Ọlọhun, má şe so saare mi di ọrişà, Ọlọhun ti şebi lé awon ijọ kan tí won so saare awon Anabi won di moşalaşi”. [O ni alaafia] - [Ahmad ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, képe Oluwa rẹ pé kí o má şe so saare oun dà gégé bí orişà ti awon eniyan n sìn nipa gbigbe titobi fun un ati fifi orí kanle fun un. Lehin naa, Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, fún wa ní iró pé Ọlọhun ti gbe ike Rẹ jìnnà sí awon tí won so saare awon Anabi di moşalaşi; nitori síso ọ di moşalaşi lè di ọna awawi lati joşin fún won, ati níni adiokan sí won.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Títayọ aala ofin sharia nibi saare awọn Anabi ati awọn ẹni rere yoo jẹ ki awọn eniyan maa jọsin fún wọn dipo Ọlọhun, nitori naa, ọranyan ni kí a wá ìşşora kuro nibi awọn ọna ẹbọ.
2. Kò tọ láti lọ síbi saare nitori gbígbé títóbi fun un ati şişe ijọsin níbẹ, bó ti lè wù kí ẹni tí ó wà ninu saare naa sunmọ Ọlọhun Ọba tó.
3. Eewọ ni kíkọ moşalaşı sori àwọn saare.
4. Eewọ ni kí a máa kírun níbi saare, kódà bí wọn ò bá kọ moşalaşı, ayafi kíkí ìrun sí òkú tí wọn ò tîi kirun sí lara.

(3336)

(23) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». [حسن] - [رواه أبو داود]

(23) – Lati ọdọ Abu Hurairah - ki Ọlọhun yonu si i - ó şo pé: Ojişe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - şo pe: “E má şe şo ilé yín di saare, ẹ sì má şo saare mi di àáye àjòdún, ẹ maa şe asalatu fún mi; dajudaju asalatu yín ó kàn mi lara lati ibikibi ti ẹ ba wa. [O daa] - [Abu Daud ni o gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n kọ fún wa níbi kí a má maa ki ìrun ninu awọn ile wa, tí awọn ile naa yio waa da gege bii ite awọn òkú, tí ẹnikení kò gbọdọ kirun nibẹ. O sì kọ fun wa lati maa şe àbẹwò saare rẹ leraléra ati imaa kójo sibe ni igba gbogbo; nitori pe iyẹn jẹ ọna kan tí ó lè mu wa wọ inu ẹbọ. Ó paşe pe ki a maa toro iké ati igé fun oun ni ibikibi lori ile aye; nitori pe iyẹn yoo kàn án lara lati ọdọ

ẹniti ó sunmọ ati ẹniti ó jinna bakan naa, nitori naa a o ni bukata si ki a maa paara ibi saare rẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. kíkọ fun wa kuro nibi kí a má maa jọsin fun Ọlọhun Ọba ninu awọn ile wa.
2. kíkọ fun wa kuro nibi irìn-àjò lati lọ ọ́abẹwo saare Anabi - ki ike ati ọ́a Ọlọhun maa ba a - nítorí pé ó paşẹ fun wa pe ki a maa şe asalatu fun oun, ó sì sọ pe yoo kan oun lara, şugbọn a lè şe irin-ajo lati lọ ọ́abẹwo moşalaşı Anabi kí a sì kirun ninu rẹ.
3. Èèwọ ni ki a sọ abẹwo saare Anabi di ọ́dun - ki ike ati ọ́a Ọlọhun maa ba a - nipa pípaàrà abẹwo saare rẹ ni ọ́na kan ati asiko kan pato, bakan naa ni şişe abẹwo gbogbo saare.
4. Aponle ti n be fun Anabi lođo Oluwa rẹ - ki ike ati ọ́a Ọlọhun maa ba a - pe lu şişe itoro ikẹ ati igẹ fun Anabi lófin ní gbogbo igbà ati àyè.
5. Níwọn igbà tí ikọ́funni kuro nibi kíkírun nibi awọn saare ti feşe rinle lođo awọn sahaaba; idi niyi ti Anabi - ki ike ati ọ́a Ọlọhun maa ba a - fí n kọ fun wa pé a ò gbọdọ şe awọn ile wa geşe bii ite saare tí wọn ò kí n kírun ni be.

(3350)

(24) - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةٌ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(24) – Lati oḍo 'Aaisha iya awon olugbagbo- ki Olohun yonu si i-: Dajudaju Ummu Salamah daruko soosi kan ti o ri ni ile Habasha fun ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a-, won n pe e ni Maariyah, o wa so nnkan ti o ri nibe fun un ninu awon aworan, ni ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- wa so pe: "Awon wonyen ni ijo kan, ti eru rere ba ku ninu won tabi okunrin rere, won maa ko mosalasi kan sori saare re, won yoo si ya awon aworan yen sibe, awon wonyen ni awon ti won buru julo ninu eda lodo Olohun". [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Iya awon olugbagbo Ummu Salamah- ki Olohun yonu si i- so fun Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- pe dajudaju nigba ti oun fi wa lori ile Habasha, oun ri soosi kan- won n pe e ni Maariyah- ti awon aworan ati awon eso ati awon foto n be nibe; ni ti iyalenu latara iyen! Bayii ni Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ba salaye awon okunfa gbigbe awon aworan yii sibe; O so pe: Dajudaju awon ti o daruko wonyii ti eni rere ba ku laarin won, won maa ko mosalasi kan sori saare re ti won ma maa kirun nibe, ti won si maa ya awon aworan yen, O salaye pe dajudaju eni ti o ba se yen je eni ti o buru julo ninu eda lodo Olohun- ti ola Re ga-; nitori pe ise re maa ja si dida orogun po mo Olohun- ti ola Re ga-.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şíşe kíkọ awọn mọsalasi lori awọn saare leewọ, tabi kiki irun nibẹ, tabi sisin awọn oku si awọn mọsalasi; lati dina mọ okunfa ẹbọ şíşe.
2. Kíkọ awọn mọsalasi lori awọn saare, ati gbigbe awọn aworan síbẹ, jẹ işe Juu ati Nasara, ati pe dajudaju ẹni ti o ba şe èyí, dajudaju o ti fi iwa jọ wọn.
3. Şíşe yiya aworan awọn nnkan ti wọn ni ẹmi leewọ.
4. Ẹni ti o ba kọ mọsalasi kan lori saare ti o si ya awọn aworan síbẹ, o ti wa ninu ẹni ti o buru julọ ninu ẹda Ọlọhun- ti ọla Re ga-.
5. Idaabo bo Sharia fun agbegbe imu Ọlọhun ni Ọkan şoşo jẹ idaabo bo kan ti o pe, peḷu kíkọdi gbogbo ọna ti o le ja si ẹbọ şíşe.
6. Kíkọ kuro nibi aşeju nipa awọn ẹni rere; nitori pe o jẹ okunfa kiko sinu ẹbọ şíşe.

(10887)

(25) - عن جندب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِمَحْمِسٍ وَهُوَ يَقُولُ «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا! أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ! إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(25) – Lati oḍo Jundub, ki Oḷohun yonu si i, o sọ pe: Mo gbọ Anabi, ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a, ní o ku oḍún márùn-ún tí ó fi maa jáde láyé, ti o n sọ wípé: “Dajudaju emi n bopabọṣe lọ si oḍo Oḷohun pe ki n ní oṣe aayo kan laarin yin, nitori pe Oḷohun Oba Aleke oḷa ti mú mi ní oṣe aayo geṣe bi O ti mu Ibrahim ni oṣe aayo, ti emi ba ti e fe mu enikan ninu awon ijo mi ni oṣe aayo, emi i ba mu Abu Bakr ni oṣe aayo, e gbọ o, dajudaju awon ijo tí wón ti lọ síwájú yin a maa mú saare awon Anabi ati awon eniire inu won ni moṣalaṣi, nitori naa, e má ṣe mú awon saare ni moṣalaṣi, dajudaju emi n ko o fun yin”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a – n fun wa ni iro nipa ipo re loḍo Oḷohun Oba, ó n sọ pé ipo naa dé ipo ife to ga julọ, geṣe bi Anabi Ibrahim – Alaafia fun un – ṣe de be, nitori eyi ni Anabi fi sọ pe oḷun o ni oṣe aayo kankan yatọ si Oḷohun; nitori pé okan oḷun ti kún keké fun ife Oḷohun Oba ati gbigbe E tobi ati mimọ oḷun, nítorí náà kò sí ààyè ninu rẹ fun enikeni yatọ sí Oḷohun. Tí ó bá jẹ pé ó ní oṣe aayo ninu awon eda ni, ibá jẹ Abu Bakr As-Siddiq, kí Oḷohun yónú sí i. Leyin naa ó ní ka sora kuro nibi ikoja aala ninu ife, geṣe bi awon Yahudi ati Nasara ti ṣe sí saare awon anabi ati awon eni rere inu won, titi ti won fi sọ won di oḷorun ebo ti won n josin fun won dipo Oḷohun Allah, ti won si ko moṣalaṣi ati ile ijosin sori awon saare won, Anabi - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - kò fun awon ijo rẹ pé won kò gbodò ṣe geṣe bi awon Yahudi ati Nasara ṣe ṣe.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun Abu Bakr Siddiq - ki Ọlọhun yonu si i- ati pé dajudaju oun ni ẹni tó lólá jùlọ ninu awọn Sahaaba, oun ló sì lẹtoọ ju gbogbo eniyan lọ lati jẹ khalifa lẹyin iku Ojiṣe Ọlọhun (ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a).
2. Dajudaju kiko moṣalaṣi sori awọn saare jẹ ọkan ninu awọn aburu ti awọn ijo tó ṣaju ṣe.
3. kíkọ fun wa lati mú awọn saare ni àáyè ijọsin ti ao waa maa kirun nibẹ tabi ki a maa kirun si oku ibẹ lara, ati kíkọ fun wa lati kọ moṣalaṣi tabi òrùlé rìbìtì sí ori awọn saare, kí ó lè jẹ iṣọra fun wa kuro nibi kíkó sinu ebo latara iyen.
4. Iwani ní iṣọra kuro nibi àṣejù nipa awọn ẹni rere, nitori pé ó máa n fani lọ sí inu ebo ni.
5. Pípàtàkì ohun tí Anabi n wá wa ní iṣọra kuro ní idi rẹ - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - nigba tí ó tẹnumọ ọn ní ó ku ojo márùn-ún ti yio jade laye.

(3347)



(26) – عن أبي الهيثاج الأسيدي قال: قال لي عبي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. [صحيح] - [رواه مسلم]

(26) – Lati ọdọ Abu Al-Hayyaaj Al-Asadiy, o sọ pe: Aliy ọmọ Abu Toṭolib sọ fun mi pe: Ẹ ki n gbe ọ dide lori nnkan ti ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- gbe mi dide lori ẹ? Ma fi ẹre kan kan silẹ a fi ki o pa a re, ma si fi sàrèè ti o ga kan kan silẹ a fi ki o je ki o bá ilẹ dọgba. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n ran àwọn saabe re pe ki wọn ma fi ẹre- oun ni aworan nnkan ti o ni emi ti o je abara tabi eyi ti ko ni ara- kan kan silẹ a fi ki wọn mu u kuro tabi ki wọn pa a re.

Ki wọn si ma fi sàrèè ti o ga kan kan silẹ ayafi ki wọn je ki o ba ilẹ dọgba, ki wọn si wó nnkan ti wọn kó sori ẹ, tabi ki wọn se e ni nnkan ti o maa te perese ti ko nii ga nilẹ pupọ, sùgbón o maa ga ni odiwọn àlààfo ti o wa laarin ika àtànṣàkò ati ika ọmọdinrin.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ẹṣe yiya aworan nnkan abẹmí ni eewọ; tori pe o wa ninu awọn àtẹgùn lọ síbí ẹbọ.
2. Mímú ohun buruku kuro pẹlú ọwọ fun ẹni ti o ba ni àṣe tabi agbára lati se bẹẹ je nnkan ti o ba sharia mu.
3. Ojúkòkòrò Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- lori mimu gbogbo nnkan ti o ba n tọka si oripa àsìkò aimọkan kúrò, bíi àwọn àwòrán ati awọn ẹre, ati awọn nnkan ti wọn mọ sórí sàrèè.

(5934)

(27) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، -ثَلَاثًا-»، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(27) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: "Fifi eye furamọ aburu ati oore ẹbọ ni, fifi eye furamọ aburu ati oore ẹbọ ni, fifi eye furamọ aburu ati oore ẹbọ ni,- leṣemeta-", ko si ninu wa afi, şugbón Ọlọhun- Alagbara ti O gbónngbón- n mu u lọ pẹlu igbarale Ọlọhun. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wón gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- se ikilo kuro nibi fifi eye fura mọ aburu, oun ni fifuramọ aburu latara eyikeyii nnkan kan ti a le gbó lo je ni tabi ti a le ri, ninu awon eye tabi awon eranko tabi awon oni aisan tabi awon onka tabi awon ojo tabi eyi ti o yàtò si won, Şugbón o dárúkọ awon eye nitori pe o gbajumo nigba aimọkan, ati pe ipile re ni titú awon eye silẹ nigba ti won ba fe bèrè işe kan bii irin-ajo tabi okowo tabi eyi ti o yàtò si iyen, ti o ba fo si apa otun, yoo ni ifuramọ daadaa yoo si maa ba nnkan ti o fe se lo, ti o ba fo si apa osi, yoo ni ifuramọ aburu yoo si da ọwọ duro kuro nibi nnkan ti o fe se. O sọ pe dajudaju ẹbọ ni, ifuramọ aburu ẹbọ ni; nitori pe ko si eni ti o le mu daadaa wa afi Ọlọhun, ko si si eni ti o le ti aburu danu afi Ọlọhun nikan soşo ti ko si orogun fun Un.

Ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- sọ pe nnkan kan ninu ifuramọ aburu le waye ninu okan Musulumi, şugbón o je dandan fun un lati fi igbarale Ọlọhun ti i danu, pẹlu şise awon okunfa.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Fifi eye furamọ aburu ati oore ẹbọ ni; nitori pe isopo okan pẹlu eni ti o yàtò si Ọlọhun n be nibẹ.

2. Pataki pipaara awọn ibeere ti wọn şe koko, ki wọn le ha wọn ki o si lee rinle ninu awọn okan.
3. Igbarale olohun- ti o la Re ga- maa n mu fifi eyẹ furamo aburu ati oore lo.
4. Pipaşe igbarale Olohun nikan soşo ati siso okan po mo On- mimo ni fun Un-.

(3383)

(28) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [حسن] - [رواه البزار]

(28) – Lati odo Imraan omo Husayn- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojise Olohun- ki ike Olohun ati o la Re maa ba a- so pe: “Kii şe ara wa eni ti o ba reti isele aburu lati ara nkan tabi ti won ba a şe e, tabi eni ti o ba pe apemora imo koke tabi ti won so imo koke fun, tabi eni ti o ba sa si eeyan tabi ti won ba a sa si eeyan, ati eni ti o ba ta koke kan, eni ti o ba wa ba eni ti n pe apemora imo koke, ti o wa gba ohun ti o so gbo, onitohun ti şe aigbagbo si nkan ti won sokale fun Muhammad, ki ike Olohun ati o la Re maa ba a”. [O daa] - [Al-Bazaar ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Ano- ki ike Olohun ati o la Re maa ba a- şe adehun iya fun eni ti o ba şe awon nkan kan ninu ijo re pelu gbolohun re pe: “Kii şe ara wa”, ninu re naa ni:

Akoko: “Eni ti o ba reti isele aburu lati ara nkan tabi ti won ba a şe e”, ipile re ni: Titu eyẹ silẹ nigba ti eeyan ba fe bere şe kan bii irin- ajo, tabi owò, ati beşe beşe lo, ti o ba fo lo si apa otun, o maa reti isele rere, o si maa şe nkan ti o gbere lati şe, ti o ba wa fo lo si apa osi, o maa reti aburu, ko si nii şe nkan ti o gbero lati şe mo, ko ni eto ki eeyan

şe èyí fúnra re, tabi ki o ni ki èlòmíràn ba oun şe e, irètí işèlè aburu latara èyíkéyí ǹnkan maa ko sínú iyen, yálà ǹnkan ti a n gbó ni tabi ǹnkan ti a n rí, bii eye, tabi awon eranko, tabi awon alaabo ara, tabi nomba, tabi awon ojo, ati bee bee lo.

Ēēkeji: “Eni ti o ba pe apemora imo kòkò tabi ti won so imo kòkò fun”, eni tí ó bá pe apemora imo kòkò pelu lílo iràwò ati ǹnkan m̀íràn, tabi ti o wa si odo eni ti n pe apemora imo kòkò bii adagbigba ati eni ti o jo o, ti o wa gba ohun ti o n so gbó pelú pipe apemora imo kòkò, o ti şe aigbagbo si ǹnkan ti won sokale fun Muhammad (ki ike Olòhun ati ola Re maa ba a).

Ēēketa: “Eni ti o ba sa sí èèyàn tabi ti won ba a sa sí èèyàn”, oun naa ni eni tí o şe oogun funra re, tabi o ni ki èlòmíràn ba oun şe e; lati fi şe enikan ni anfaani, tabi ko inira bá a, tabi ti o ta kókó kan pelu dídi òwú ati oogun le e lori pelu kika awon gbólòhun işora ti o je eewo le e lori, ki o tun wa fenu fátégùn túétúé sínú re.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Dandan ni igbarale Olòhun, ati igbagbo ninu kadara Re, ati işe irètí aburú latara ǹnkan, ati oogun, ati apemora iní-ìmò kòkò tabi bíbéèrè lówó awon ti won n şe e - ni eewo.
2. Apemora imo kòkò wa ninu ebò ti o tako ìmú-Olòhun-lòkan.
3. Şşe gbigba awon adagbigba ni olódodo ni eewo ati lílo ba won, a maa le papò mò iyen awon ǹnkan m̀íràn bii kíkà ǹnkan ti a n pe ni atelewo, ati ife imumi, ati awon iràwò, ati wíwò won, kódà ki o kan je láti mò nipa won lásán ni.

(5981)

(29) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْقَائِلُ» قَالَ قَيْلٌ: وَمَا الْقَائِلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(29) – Lati ọḍọ Anas ọmọ Maalik- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: "Ko si akoran, ko si si ifi ẹye fura mọ daadaa tabi aburu, ati pe mo fẹràn fah'lu, o sọ pe wọn sọ pe: Kí ni fah'lu? O sọ pe: "Ọrọ ti o daa". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju akoran ti èyàn asiko aimọkan ni adisọkan re pe dajudaju aisan maa n si kuro fun ara re bọ si ara ẹlomiran láìşe pẹlu kadara Ọlọhun je ibaje, Ati pe ifi ẹye fura mọ daadaa tabi aburu je ibaje, oun ni ifuramọ aburu lati ara èyíkèyí nnkan ti a gbó lo je ni tabi ti a ri, ninu awọn ẹye tabi awọn ẹranko tabi awọn oni ailera tabi awọn onka tabi awọn ojo tabi eyi ti o yàtò si wọn, Wọn dárúkọ awọn ẹye nitori pe o je eyi ti o gbajumọ loḍọ awọn ara asiko aimọkan, ati pe ipile re ni titu ẹye silẹ nigba ti a ba fẹ bẹrẹ iṣe kan bii irin-ajo tabi owo tabi eyi ti o yàtò si iye, ti o ba fo lo si ẹgbẹ ọtun, ó maa furamọ daadaa, o si maa ba nnkan ti o fẹ lo, ti o ba fo lo si ẹgbẹ òsì, o maa furamọ aburu, o si maa koraro kuro nibi nnkan ti o fẹ. Lẹyin naa, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju ọrọ daadaa maa n wu ọ̀un, oun ni nnkan ti o maa n ṣẹlẹ si ọmọniyan bii ayọ ati idunnu ninu ọrọ daadaa ti o n gbó, ti o si maa mu ro ero daadaa pẹlu Olúwa re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìgbékèlé Ọlọhun- ti ọla Re ga-, oun ni pe ko si ẹni ti o le mu oore wa afi Ọlọhun, ko si si ẹni ti o le ti aburu danu afi Ọlọhun.

2. Kikọ kuro nibi ifi ẹyẹ fura mọ daadaa tabi aburu, ati pe oun ni nnkan ti wọn maa n fura mọ aburu latara rẹ, ti o si maa n ẹri ẹni kúrò nibi iṣẹ.
3. Ifuramọ idunnu ko ki n ẹ ara ifi ẹyẹ furamọ daadaa tabi aburu ti a kọ kuro nibe, bi ko ẹ pe o wa ninu nini ero daadaa pẹlu Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-.
4. Gbogbo nnkan maa n ẹlẹ pẹlu kadara Ọlọhun- Alagbara ti O gbọnngbọn- ni Oun nikan ọso ti ko si orogun fun Un.

(3422)

(30) - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(30) – Lati ọdọ Zaid bn Khalid Al-Juhaniy- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ki irun asunbaa fun wa ni Hudaibiyah lẹyin ojo ti o rọ ni ọru, lẹyin tí ó kírun tán, o koju si awon eniyan, o sọ pe: “Nje e mo nnkan ti Oluwa yin sọ?” Won sọ pé: Ọlọhun ati ojiṣe re ni won ni imo juḷo, o sọ pe: “O n be ninu awon eru Mi eni ti o ji ni onigbagbo ati eni ti o ji ni alaigbagbo, eni ti ó bá sọ pé: Won ro ọjò fun wa pelu ọla Ọlọhun ati aanu Re, iyen ni eni ti ó gbagbo ninu Mi ti o si se aigbagbo si irawò, sugbon eni ti o ba sọ pe: Pèlú irawò bayii bayii, iyen ni eni ti o se aigbagbo ninu Mi, ti o wa ni igbagbo ninu irawò”. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ki irun asunbaa ni Hudaibiya- oun ni oko kan ti o sunmo Meka- leyin ti ojo ro ni ale yen, Igba ti o salamo ti o ki irun re tan o doju ko awon eniyan, o si bi won pe: Nje e mo nnkan ti Oluwa yin- Alagbara ti O gbongbong- sọ? Won da a lohun pe: Ọlọhun ati Ojiṣe Re ni won ni imo juḷo, O sọ pe: Dajudaju Ọlọhun ṣalàyé pe awon eniyan pin si meji nigba ti ojo ba ro: Ipin kan ti o ni igbagbo ninu Ọlọhun- ti ọla Re ga-, ati ipin ti o je alaigbagbo ninu Ọlọhun- ti ọla Re ga-, Sugbon eni ti o sọ pe: Won ro ojo fun wa pelu ọla Ọlọhun ati ike Re, ti o fi riro ojo ti sodo Ọlọhun- ti ọla Re ga-; iyen ni olugbagbo ninu Ọlọhun Oba Aṣedá Aseyiowuu ninu aye, o si je alaigbagbo si irawo. Sugbon eni ti o ba sọ pe: Won ro ojo fun wa pelu irawo bayii bayii; iyen ni alaigbagbo ninu Ọlọhun, olugbagbo ninu irawo, o si je aigbagbo kekere nigba ti o se afiti riro ojo si ara irawo; ati

pe Ọlọhun ko ẹ e ni okunfa ti sharia tabi ti kadara, Ẹugbon ẹni ti o ba ẹ afiti rirọ ojo ati nnkan ti o yàtò si i ninu awon iṣẹlẹ ori ilẹ si ara lilọ-bibọ àwọn iràwò nibi yíyọ wọn ati jijabọ wọn, ti o n ni adisọkan pe oun ni ẹni ti o n ẹ e gangan, o ti jẹ alaigbagbo ni aigbagbo ti o tobi.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Fifẹ sisọ gbolohun lẹyin ríró ojo pé: Wọn rọ ojo fun wa pẹlu ọla Ọlọhun ati ike Re.
2. Ẹni ti o ba ẹ afiti ríró ojo ati nnkan ti o yàtò si i si ara irawọ ni ti dida ati mimu-nnkan-be, o ti di alaigbagbo ni ti aigbagbo ti o tobi, ẹugbon ti o ba ẹ afiti rẹ lori pe okunfa ni, o ti di alaigbagbo ni ti aigbagbo kekere; nitori pe ko ki n ẹ okunfa ti sharia tabi ti imọlara.
3. Dajudaju idera maa n jẹ okunfa fun aigbagbo ti wọn ẹ aimore si i, o si maa n jẹ okunfa igbagbo ti wọn ba dupe rẹ.
4. Kíkọ sisọ gbolohun: “Wọn rọ ojo fun wa pẹlu irawọ bayii bayii, ko da ki wọn gbero asiko pẹlú rẹ, láti dènà àtẹgùn lọ síbi ẹbọ.
5. Jijẹ dandan siso ọkan papọ mọ Ọlọhun- ti ọla Re ga- nibi fifa awon idera wá, ati titi awon iya kuro.

(65010)



(31) - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطًا، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً»، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». [حسن] - [رواه أحمد]

(31) – Lati ọdọ ‘Uqbah ọmọ ‘Aamir Al-Juhaniy - ki Ọlọhun yọnu si i: Dajudaju ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - awon iko kan wa ba a, ti o si gba ọwọ adehun (ibura) meṣan ninu won ti o ka ọwọ duro fun enikan, ni won wa so pe: Ire ojiṣe Ọlọhun, o gba ọwọ adehun (ibura) meṣan o si fi eleyii sile? O so pe: «**Dajudaju agbeko n be lara re**», ni o (arakunrin yen) wa ti ọwọ re wolẹ ti o si fa a ja, nigba naa ni o (Anabi) wa gba ọwọ adehun (ibura) re, ni o wa so pe: «**Eni ti o ba so agbeko, o ti se ebo (mu orogun pelu Ọlọhun)**». [O daa] - [Ahmad ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Awon iko kan wa ba Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, ti onka won si je mewaa, ti o si gba ọwọ adehun (ibura) meṣan ninu won lori Isilaamu ati itele ase, ti ko si gba ọwọ adehun (ibura) ti eni kewaa, nigba ti won wa beere nipa idi iyen o so - ki ike ati ọla maa ba a - pe: Dajudaju agbeko n be lara re, oun naa ni nkan ti won maa n de tabi ti won maa n soko latara ileke ati nkan miran yatọ si i lati fi ti ojukoju tabi inira danu. Ni arakunrin naa wa ti ọwọ re bo aaye ti agbeko naa wa ti o si ja a ti o si bora kuro nibe, nigba naa ni o gba ọwọ adehun pelu Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, o (Anabi) wa so leni ti n kilọ kuro nibi agbeko ti o si n se alaye idajo re pe: Eni ti o ba so agbeko o ti se ebo (mu orogun mo Ọlọhun)”

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Eni ti o ba gbe ara le nkan ti o yatọ si Ọlọhun, Ọlọhun a ba a lo pelu idakeji erongba re.

2. Nini adisọkan pe dajudaju siso agbekọ okunfa fun titi aburu ati ojukoju danu ni je ẹbọ kékeré, şugbọn ti o ba ni adisọkan pe o le se anfaani fúnra re, ẹbọ ti o tobi niyen.

(6762)

(32) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ». [صحيح] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

(32) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Mas'hud- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Mo gbọ ti ojişe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: “Dájúdájú ọfọ ati àsokóra ati oògùn ifẹran, ẹbọ ni” [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şàlàyé àwọn nńkan ti şise wọn wa ninu ẹbọ, ninu wọn ni:

Akọkọ: Ọfọ: Oun ni ọrọ ti àwọn ara àsikò ki Isilaamu to de fi maa n şe iwòsàn, ti o ni ẹbọ nínú.

Ìkejì: Àsokóra lati ara ilẹkẹ ati nńkan ti o jọ ọ: Eyi ti wọn maa n so kọ ọmọdé lọrun, ati awọn ẹran-ọsìn, ati nńkan ti o yatọ si i, lati ti ojukoju dọnù.

Ikẹta: Oogun ifẹran: Eyi ti wọn şe lati je ki okọ ati iyàwó nífẹẹ ara wọn.

Àwọn nńkan wọnyí wa nínú ẹbọ; torí pé o wa ninu fifi nńkan şe okùnfà, ti kii sii şe okùnfà ti o ba ọfin mu ti o rinle pẹlú ẹrí, kii sii şe okùnfà ti imọlára ti o rinle pẹlú irírí. Şugbọn àwọn okùnfà ti o ba ofin mu gégé bii kika Kuraani, tabi eyi ti o je ti imọlára gégé bii àwọn oògùn ti o rinle pẹlú irírí, èyí ni ẹtọ pẹlu adisọkan pe okùnfà ni, ati pe ànfààní ati inira wa lówó Ọlọhun.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişo taohid ati adisokan kúrò nibi ǹnkan ti o maa ba a jẹ.
2. Şişe lilo ofo ti eḷebo ati asokora ati oogun iferan ni eewo.
3. Adisokan omoniyan nipa awon metetea yii pe okunfa ni won: Oun ni ebo kekere; tori pe o se ohun ti kii se okunfa ni okunfa, sugbon ti o ba ni adisokan pe oun ni yoo se anfaani tabi fa inira funra re, iyen ni ebo nla.
4. Ikilo kuro nibi şise awon okunfa ti eḷebo ati eyi ti o je eewo.
5. Şise ofo ni eewo, ati pe ebo ni, ayafi eyi ti o ba ba sharia mu.
6. O to ki okan ro mo Olohun nikan, odo Re ni inira ati anfaani ti n wa, ko ni orogun, ko si eni ti o le mu oore wa ayafi Olohun, ko si si eni ti o le ti aburu lo ayafi Olohun.
7. Ofo ti o to ni eyi ti o ko majemu meta sinu:
8. 1- Ki a ni adisokan pe okunfa ni won, won ko lee se anfaani ayafi pelu iyonda Olohun.
9. 2- Ki won je pelu Kuraani ati awon oruko Olohun ati awon iroyin Re, ati awon adua ti Anabi, ati awon adua ti won ba sharia mu.
- 10.3- Ki won je pelu ede ti a gboye, ti ko si nii ni iwé oogun ati etan ninu.

(5273)

(33) - عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ آتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [صحيح] - [رواه مسلم]

(33) – Lati ọdọ àwọn kan ninu awọn iyàwó Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- lati ọdọ Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: “Eni ti o ba lọ ba yemiwo kan ti o wa bi i leere nipa nnkan kan, wọn ko nii gba irun rẹ fun ogoji ojo”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ wa lara kuro nibi lílọ bá adagbigba- orúkọ kan ni ti o kárí fun yemiwo, ati awòràwò, ati eni ti n tẹ yanrìn, ati bẹẹ bẹẹ lọ, ninu awọn ti maa n mu ẹri wa fun mímọ kòkò pèlú àwọn itisiwaju kan ti o maa n lò- ati pe ọwọọ pe èyàn kan bi i leere nipa nnkan kan ninu kòkò, Ọlọhun ko nii fun un ni ẹsan irun rẹ fun ogóji ojo; ki iyẹn le maa jẹ iyà fun un lóri ẹşé nílá yíi.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe işe yemiwo ni eewo, ati lílọ ba àwọn yemiwo, ati bibi wọn nipa kòkò.
2. Èyàn lè má gba ẹsan itele àşẹ Ọlọhun ki o le jẹ ijìyà fun un lóri ẹşé.
3. O maa ko sinu hadiisi naa nnkan ti a n pe ni iràwò ati wiwo o, ati kíkà àtéléwọ àti ife-ìmumi- kódà ki èyàn kan fẹ mọ nipa rẹ lásán-; torí pé gbogbo iyẹn wa ninu işe yemiwo ati pípe apemọra ìní-ìmò kòkò.
4. Ti eyi ba jẹ ẹsan eni tí ó lọ ba yemiwo, bawo wa ni ẹsan yemiwo gan fúnra rẹ şe maa ri?
5. Ìrun ogóji ojo yẹn maa tó o, kii şe dandan fun un ki o da a pada, şùgbón ko nii gba ẹsan rẹ.

(34) - عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(34) – Lati ọdọ ọmọ umar - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - ó ní oun gbọ lenu ọkunrin kan ti n sọ pe: Rara o, oun fi Kaabah búra, ọmọ umar wa sọ fun un pe: A kò gbọdò fi nnkan tó yatọ si Ọlọhun Allah búra, tori dajudaju emi gbọ Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - tí n sọ pe: "Enikení tí ó bá fi ohun miran búra yatọ si Ọlọhun Allah, onitọhun tí ẹ aigbagbọ tabi ka ní ó ti ẹbọ." [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n fún wa niroo pé enikení tí ó bá fi nkan miran búra yatọ si Ọlọhun Allah ati awọn oruko Rẹ ati awọn iroyin Rẹ, onitọhun tí ẹ aigbagbọ si Ọlọhun, tabi ka ní ó ti ẹbọ pẹlu Rẹ; nítorí pé ibúra ní í ẹ pẹlu igbétítóbi fún nkan tí a fi búra, titóbi sí jẹ tí Ọlọhun Allah nikan soṣo; nitori naa, a kò gbọdò bura pẹlu nkankan ayafi Ọlọhun Allah ati awọn oruko Rẹ ati awọn iroyin Rẹ, Mimọ ni fun Un, Ati pé ibúra yii wà ninu ẹbọ kekere; sùgbón bí eni tí ó búra bá fi gbé titóbi fun nkan tó fi bura geṣe bii igbétítóbi fún Ọlọhun Allah tàbí jù bẹẹ lẹ; nigba naa, ó ti wà ninu ẹbọ nla niyẹn.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Dajudaju fífi ibura gbé titóbi fún nkan jẹ ẹtọ fún Ọlọhun Allah, mimọ ni fun Un, nitori naa a kò gbọdò búra pẹlu nkankan ayafi Ọlọhun ati awọn oruko Rẹ ati awọn iroyin Rẹ.
2. Ìtaraṣàṣà awọn Sahabe lori pipaṣe rere ati kikọ aburu, paapaa julọ tí aburu naa ba nii ẹ pẹlu ẹbọ tabi aigbagbọ.

(35) – عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». [صحيح بمجموع طرقه] - [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد]

(35) – Lati ọdọ Huzaifah- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: E ko gbọdọ sọ pe: Ti Ọlọhun ba fe ati ti lagbaja ba fe, ṣugbón e maa sọ pe: Ti Ọlọhun ba fe leyin naa ti lagbaja ba fe". [O ni alafia pẹ̀lú akojọpọ àwọn ọ̀nà rẹ] - [Abu Daud ati Nasaa'iy ni wọn gba a wa nínú al-Kubrọ, ati Ahmad]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kọ kuro nibi ki Musulumi maa sọ nibi ọrọ rẹ pé: "Ti Ọlọhun ba fe ati ti lagbaja ba fe", Tabi ohun ti Ọlọhun ati lagbaja ba fe; Iyẹn rí bẹ̀e nitori pe fifẹ Ọlọhun ati erongba rẹ jẹ nnkan ti a tu kalẹ ti ẹnikení ko si ba A kẹgbẹ nibe, Ati pe o n bẹ nibi lilo harafi waw nibi asopọ naa, imuninimọlara pe ẹnikan n ba Ọlọhun kẹgbẹ ati ifidogba láàrin ẹni yẹn ati Ọlọhun. Sugbón yoo maa sọ pé: Ti Ọlọhun ba fe, leyin naa ti lagbaja ba fe, Ki o fi fifẹ ẹru tele fifẹ Ọlọhun pẹlu sisọ pe: "Thummo" dipo "Wa", nitori pe "Thummo" n ṣe ànfààní ki nnkan wa leyin ati lilọra.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣe leewọ sisọ pe: "Ti Ọlọhun ba fe ati ti iwọ naa ba fe", ati nnkan ti o jọ iyẹn ninu awọn gbolohun, ninu nnkan ti asopọ mọ Ọlọhun n bẹ nibe pẹlu lilo harafi waw; nitori pe o wa ninu dida orogun pọ mọ Ọlọhun nibi awọn gbolohun ati awọn ọrọ.
2. Nini ẹtọ sisọ pe: "Ti Ọlọhun ba fe leyin naa ti o ba fe", ati nnkan ti o jọ iyẹn, ninu nnkan ti asopọ mọ Ọlọhun n bẹ nibe

pẹlu lilo gbolohun thummo; nitori aisi nnkan ti a n sọra fun nibe.

3. Fifi fifẹ rinlẹ fun Ọlọhun, ati fifi fifẹ rinlẹ fun ẹru, ati pe fifẹ ẹru n tẹle fifẹ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ni.
4. Kikọ kuro nibi fifi ẹda ẹ akegbe nibi fifẹ Ọlọhun, koda ki o je pẹlu gbolohun.
5. Ti olusoro ba ni adisokan pe dajudaju fifẹ ẹru da gege bii fifẹ Ọlọhun- Ọba ti O gbongbong ti O lagbara- ni ti sise deedeede re nibi kikari ati titu kale, tabi pe dajudaju ẹru ni fifẹ ti o da duro, oun ni ẹbo nla, şugbon ti o ba ni adisokan nnkan ti o yatoto si iyẹn; oun ni ẹbo kekere.

(3352)

(36) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ» قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا، فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟». [حسن] - [رواه أحمد]

(36) – Lati ọdọ Mahmud ọmọ Labiid- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Dajudaju nnkan ti mo n beru julọ nipa yin ni ebo kekere" won sọ pe: Ki ni ebo kekere ire ojiṣe Ọlọhun? O sọ pe: "Sekarimi ni, Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbong- maa sọ fun won ni ojo igbedide ti won ba ti san awon eniyan lesan pelu awon ise won pé: E lo ba awon ti e maa n se karimi fun ni aye, ki e si wo boya e maa ri esan kankan lodọ won?" [O daa] - [Ahmad ni o gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju nnkan ti o pọ julọ ti oun n beru re lori awon ijo re ni: Ebo kekeré, oun ni: Sekarimi; ki o maa siṣe nitori awon eniyan. Leyin naa o sọ nipa iya awon oniṣekarimi ni ojo igbedide, pe won maa sọ fun won pé: E lo ba awon eni ti e n siṣe nitori won, ki e si wo boya won kapa sisan yin lesan ati fifun yin ni esan lori ise yen?!

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jije dandan mimọ ise kanga fun Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbong-, ati ikilo kuro nibi sekarimi.
2. Ile koko ini aanu re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- lori ijo re ati iko akolekan re lori imona won ati siṣe isiti re fun won.
3. Ti o ba se pe iberu re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- niyi, ti o si n ba awon saabe soro, ti won si se pe awon ni asaaju



awon ẹni rere, a je pe iberu re lori awon ti won wa leyin won lo le julọ.

(3381)

(37) – عن أبي مَرْثَدٍ الْعَنْوِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(37) – Lati odo Abu Marthad Al-ganawiy – ki Olọhun yonu si i– o so pe: Ojişe Olọhun – ki ike ati ọla Olọhun maa ba a – so pe: «**E ma se jokoo si ori awon sàrèè, ẹ ko si gbodo kirun si i lara**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Olọhun maa ba a – ko kuro nibi jijokoo si ori awon sàrèè.

Gege bi o se ko kuro nibi kiki irun si awon sàrèè, bii ki sàrèè o wa ni agbegbe idojuko olukirun; nitori pe dajudaju iyen wa ninu awon ategun imu-orogun-mo Olọhun.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Kiko kuro nibi kiki irun ni ite tabi ni aarin re tabi si i lara ayaafi irun oku gege bi o se fi ese mule ninu sunnah.
2. Kiko kuro nibi kiki irun si sàrèè lati dena ije-ategun imu-orogun-mo Olọhun.
3. Isilaamu ko kuro nibi ikoja àlà nibi awon sàrèè ati kuro nibi yiyepere re, ko gbodo si aseyeju ko si gbodo si aseeto.
4. Owọ Musulumi si seku leyin iku re, latari gbolohun re - ki ike ati ọla Olọhun maa ba a – ti o so pe: (Rirun eegun oku da gege bii rirun un (eegun) ni ààyè ni).

(38) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(38) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pé: «**Awọn malaika o nii maa be pelu ikọ kan ti aja ati agogo ba wa pelu won**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - funni niroo pe dajudaju awon malaika o nii wa pelu ikọ arin irin-ajo kan ti aja n be pelu won, tabi agogo ti won maa n gbe ko ọrun awon eranko ti won maa n gùn ti yio maa mu ohun wa ti o ba ti n lo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Kikọ kuro nibi nini awon aja ati mimaa mu won lo si ibi kan, won wa yo kúrò ninu kikọ yii aja ọde tabi aja oluṣo.
2. Awon malaika ti won o ko lati wa pelu re ni awon malaika ike, sugbon awon malaika oluṣo awon o ki n ya awon erusin ni ile ni tabi ni ajo.
3. Kikọ kuro nibi agogo; nítorí pé feere kan ni ninu awon feere satani, o si tun jo agogo awon Kristeni.
4. O je dandan fun musulumi ki o jina si gbogbo nkan ti o ba je pe o le maa le awon malaika jina si i.

(8951)

(39) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(39) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i-: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: Èşù a maa wa ba ẹnikan ninu yin, yoo si sọ pe: Ta ni o şeda èyí? Ta ni o şeda èyí? Titi yoo fi sọ pé: Ta ni o şeda Oluwa rẹ? Ti o ba ti ba a de ibeyen, ki o yaa wa işora pe lu Ọlọhun ki o si jawọ. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Ojísẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọrọ nipa iwosan ti o şe anfaani fun awon ibeere ti èşù fi n ko royiroyi ba olugbagbo, Èşù o maa sọ pé: Ta ni o şeda eyi? Ta ni o şeda eyi? Ta ni o şeda sanmo? Ta ni o şeda ile? Olugbagbo yoo da a lohun ni ti ẹsin ati ti adamo ati ti laakaye pe lu ọrọ rẹ pé: Ọlọhun ni, Şugbón èşù ko nii duro sibi aala yii ninu awon royiroyi, bi ko şe pe yoo kúrò nibe titi yoo fi sọ pé: Ta ni o şeda Oluwa rẹ? Nibi iyen ni olugbagbo ti maa da awon royiroyi yii pada pe lu awon alamori meta kan:

Nini igbagbo ninu Ọlọhun.

Wiwa işora pe lu Ọlọhun kuro lođọ èşù.

Kiko ara ro nibi titesiwaju pe lu awon royiroyi.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişeri kuro nibi royiroyi èşù ati awon èrò rẹ ti maa n wa si emi, ati aironu nipa rẹ, ati sísádi Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- lati mú u lọ.
2. Gbogbo nnkan ti o şelẹ ninu okan omoniyan ninu awon royiroyi ti won yapa ofin won wa lati ọdọ èşù.

3. Kikọ kuro nibi ìrònú nipa paapaa Ọlọhun, ati şişenilojukokoro lori ìrònú nipa awọn ẹda Re ati awọn ami Re.

(65013)

(40) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطَيْتَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(40) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojişe Ọlọhun - kí ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**Dajudaju Ọlọhun ti ọla Re ga sọ pe: Ẹni ti o ba mu aayo mi ni ọta, Mo ti kede ogun pelu re, ati pe ẹru Mi o nii sunmọ Mi pelu nkankan ti Mo nífẹ́ si ju nkan ti Mo şe ni ọranyan fun un lọ, àti pe ẹru Mi ko nii ye ko nii gbo leni ti yio maa sunmọ Mi pelu awọn aşegbore titi ti maa fi nífẹ́ re, ti Mo ba ti wa nífẹ́ re: Maa di igboro re ti yoo fi maa gboro, maa di iriran re ti yio fi maa riran, maa si di ọwọ re ti yio fi maa mu nkan, Maa si tun di eşe re ti yio fi maa rin, ti o ba wa bi Mi leere maa fun un, ti o ba si tun wa işora pelu Mi maa sọ ọ, Mi o fa şeyin nibi nkankan ti Mo feşe bii ifaseyin Mi nibi gbigba emi mumini, ti o n korira iku ti Emi naa si n korira fifi ara ni in**». [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - funni niroo ninu hadīth quduşiy pe dajudaju Ọlọhun ti O biyi ti O gbongbong sọ pe: Ẹni ti o ba fi suta kan aayo kan ninu awọn aayo Mi, ti o wa mu inu bi i, ti o tun korira re, Mo ti fi mọ ọn Mo si ti kede ibasota fun un.

Ati pe aayo Ọlọhun ni: Mumini olupaya, ati pe lori odiwọn nkan ti n bẹ fun ẹru ni igbagbọ ati ipaya ni yio maa jẹ ipin rẹ nibi ijẹ aayo Ọlọhun. Ati pe musulumi o nii maa sunmọ Oluwa rẹ pẹlu nkankan ti yoo nífẹ́ẹ́ si ju nnkan ti O ẹ ni ọranyan ti O si tun ẹ ni dandan lọ ninu siṣe awọn nnkan ti sharia pàṣe rẹ ati gbigbe awọn eewọ jusilẹ, ati pe musulumi o nii yẹ ko nii gbo leni ti yio maa sunmọ Oluwa rẹ pẹlu awọn aṣegbore mọ awọn ọranyan; titi ti ọwọ rẹ o fi tẹ ifẹ Ọlọhun. Ti Ọlọhun ba ti wa nífẹ́ẹ́ rẹ, Ọlọhun ni yio maa tó ọ sọ̀nà nibi awọn oríkèé ara méréerin yii:

Yoo tó ọ sọ̀nà nibi igboro rẹ, nitori naa ko nii gbó nkankan ayaafi nkan ti yoo yọ Ọlọhun ninu.

Yoo tó ọ sọ̀nà nibi iriran rẹ, nitori naa ko nii wo nkankan ayaafi nkan ti Ọlọhun nífẹ́ẹ́ si wiwo o ti O si tun yonu si i.

Yoo tó ọ sọ̀nà nibi ọwọ rẹ, nítorí naa ko nii fi ọwọ rẹ ẹ nkankan ayaafi nkan ti yio yọ Ọlọhun ninu.

Yoo tun tó ọ sọ̀nà nibi ẹṣe rẹ, nitori naa ko nii maa rin ayaafi lọ sibi nkan ti yio yọ Ọlọhun ninu, ko si nii maa ẹ igbiyanju ayaafi sibi nkan ti oore wa nibe.

Pẹlu eyi, ti o ba bi Ọlọhun leere nkankan dajudaju Ọlọhun O fun un ni nkan ti o beere, nitori naa yio jẹ ẹni ti adua rẹ o maa gba, ti o ba si tun wa iṣora pẹlu Ọlọhun ti o tun sadi I leni ti n wa aabo, dajudaju Ọlọhun ti mimọ n bẹ fun Un O ṣọ ọ, yoo si tun da aabo bo o nibi nkan ti o n paya.

Leyin naa ni Ọlọhun ti ọla Rẹ ga sọ pe: Mi o fa seyin nibi nkankan ti Mo fẹ ẹ bii ifaseyin Mi nibi gbigba ẹmi Mumini ni ti ikaaanu rẹ; nítorí pé o korira iku latari inira ti o wa nibe, ati pe Ọlọhun si korira nkan ti yio maa ni mumini lara.

## **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Hadīth yii ninu awọn ti Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - gba wa lati ọdọ Oluwa rẹ ni, ti wọn si maa n pe é ni Hadīth Al-Qudusiy tabi Al-Ilaahiy, oun si ni eyi ti o ẹ pe gbolohun rẹ ati

- itumọ rẹ wa lati ọdọ Ọlọhun, yatọ si pe ko ni awọn ìròyìn ẹsa Alukuraani ti o fi da yatọ si awọn miran, bii mimaa jọsin pẹlu kika rẹ ati ẹ́ṣe imọra fún un, ati ipenija ati idalagara, ati ẹ̀yí tí o yàtò si i.
2. Kikọ kuro nibi fifi ẹ́ta kan awọn aayo Ọlọhun ati ẹ́ṣenilojukokoro síbi ninifeẹ wọn, ati fifi ọ́la wọn rinlẹ.
  3. Pipa àṣẹ pẹlu biba awọn ọ́ta Ọlọhun ẹ́ ọ́ta ati ẹ́ṣe ìní ifé wọn ni eewọ.
  4. Ẹni ti o ba pe apemọra ijẹ aayo Ọlọhun lai tẹle ofin Rẹ, opuro ni in nibi apemọra rẹ.
  5. Ọwọ a maa tẹ jijẹ aayo Ọlọhun pẹlu ẹ́ṣe awọn ọ́ranyan ati gbigbe awọn eewọ jusilẹ.
  6. Ninu awọn okunfa ifé Ọlọhun si ẹru Rẹ ati jijẹ ipe adua rẹ ni ẹ́ṣe awọn aṣegbọre lẹyin ẹ́ṣe awọn ọ́ranyan ati gbigbe awọn eewọ jusilẹ.
  7. Ẹri lori iyi awọn aayo Ọlọhun ati giga ipo wọn.

(6337)



ati sunnah awon arole eni imona ti a fi ona mo won leyin re, Abu Bakr, ati Umar omo Khattaab, ati Uthman omo 'Affan, ati Aliy omo Abu Toolib- ki Olohun yonu si won lapapo-, ati gbigba a mu pelu eyin ogan, o n tumo si- awon eyin egbe ti o keyin-: O n tumo eyin ogan yen si didunnimo sunnah daada ati didiromo on, O se ikilo fun won kuro nibi awon alamori ti a da won silẹ sinu esin, ati pe dajudaju gbogbo adadaale anu ni.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Pataki didiromo sunnah ati itele e.
2. Akolekan si awon waasu ati riro awon okan.
3. Pipase pelu itele awon arole eni imona ti a fi won mona mererin leyin re, awon ni Abu Bakr, ati Umar, ati Uthman, ati Aliy- ki Olohun yonu si won-.
4. Kiko kuro nibi adadaale ninu esin, ati pe dajudaju gbogbo adadaale anu ni.
5. Gbigbo ati itele fun eni ti o ba n dari alamori awon olugbagbo ni ona ti o yatò si oju ona ese.
6. Pataki iberu Olohun- Alagbara ti O gbongbong- ni gbogbo asiko ati isesi.
7. Iyapa je nnkan ti o n selẹ ninu ijo yi, nigba ti o ba selẹ, siseripada si sunnah ojişe Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ati ti awon arole eni imona maa je dandan.

(65057)



(42) - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ، يَعْضَبُ لِعَصْبَةِ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةُ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(42) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: “Eni ti o ba jade kuro ninu itele, ti o wa fi janmoṣon sílẹ̀, ti o wa ku, o ku ni iku ti asiko aimọkan, eni ti o ba ja ni abẹ̀ àsiá kan ti o fọ́jú, ti o n binu nitori ẹ́leyameya, tabi o n pepe lọ sibi ẹ́leyameya, tabi o n ran ẹ́leyameya ẹ́, wọn wa pa a, o je pipa kan ti o je ti asiko aimọkan, eni ti o ba jade si ijo mi, ti o n pa eni rere re ati eni buburu re, ti ko bikita pipa olugbagbo re, ti ko pe adehun re fun aladehun, ko si ninu ijo mi, emi naa ko si ninu ijo re”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şalàyé pe dajudaju eni ti o ba jade kuro ninu itele awon adari, ti o tu ijo Isilaamu ti o fenu ko lori şise adehun fun olori, o wa ku lori isesi yen ninu ituka ati aitele, o maa ku ni iku awon asiko aimokan, awon ti won ko ki n tele adari ti won ko ki n darapo mo ijo kan, bi ko se pe awon ijo ni won ati awon ẹleyameya ti awon kan maa n ba awon kan ja ninu won.

. Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe eni ti o ba ja lábẹ̀ àsiá kan ti oju ododo ko han yatọ si ibajẹ nibe, ti o n binu nitori ẹ́leyameya lasan fun ijo re tabi idile re, ti ko ki n se tori riran esin ati ododo se, ti o wa n ja ni ti ẹ́leyameya laini amodaju ati imo, ti won ba pa a lori isesi yen, o da gege bii pipa ti asiko aimokan ni.

Ati pe dajudaju eni ti o ba jade si ijo re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ti o pa eni rere re ati eni buburu re, ti ko bikita pelu nnkan ti o n se ti ko si beru ijiya re ninu pipa olugbagbo re, ti ko si pe adehun

wọn fun awọn aladehun ninu awọn alaigbagbọ tabi awọn adari bi ko ẹ pe o n tu u ni, eleyii wa ninu ẹẹ ńláńlá, ati pe ẹni ti o ba ẹ e dajudaju o ti lẹtoọ si adehun iya ti o le koko yíí.

### **Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:**

1. Itẹle awọn adari jẹ dandan nibi nnkan ti o yatọ si ẹẹ Ọlọhun-Alagbara ti O gbọnngbọn-.
2. Ikilọ ti o le koko n bẹ fun ẹni ti o ba jade kuro nibi itẹle olori, ti o si tu ijọ Musulumi ká, ti o ba ku lori isẹsi yíí, o ku lori oju ọna awọn asiko aimọkan.
3. Kikọ kuro nibi jija ija ẹleyameya n bẹ ninu hadiisi náà.
4. Jijẹ dandan pipe adehun.
5. Oore topọ n bẹ ninu itẹle ati wiwa pẹlu awọn ijọ, ati ifọkanbalẹ ati ifayabalẹ, ati dida ni awọn isẹsi.
6. Kikọ kuro nibi fifi ara wé awọn èyàn asiko aimọkan.
7. Pipaşẹ pẹlu didunnimọ janmọn awọn Musulumi.

(58218)

(43) – عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(43) – Láti òdò Mah’qil omo Yasaar Al-Muzaniy- ki Olohun yonu si i-o so pe: Mo gbọ ti ojişe Olohun- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- n so pé: “Ko si erú kan ti Olohun fi şe alaşe lori awon kan, ki o wa kú ni ojọ ti o maa kú ti o si n tan awon ti won wa ni abe re je, afi ki Olohun şe alujanna ni eewo fun un”. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anoḃi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- n so pe eni koḃkan ti Olohun ba fi şe olori fun awon eeyan, boya o je aşe ti gbogbogboo ni gege bii alaşe ilú, tabi aşe ti kii şe ti gbogbogboo, gege bii okunrin ninu ile re, ati obinrin ninu ile re, ti o wa şe ohun ti o kú díe káátó nibi eto awon ti n be ni abe re, o tun re won je, ko si gba won ni imoran, o wa fi iwò won ti esin ati ayé rare, o ti ni eto si ijìyà ti o le koko yii.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Adéhùn ijìyà yii kii şe ti imaamu agba nikan ati awon aḃojú re, bi ko şe pe o kari gbogbo eni tí Olohun ba ni ki o maa darí awon ti won wa ni abe re.
2. Ohun ti o je dandan fun eni ti Olohun ba ni ki o je alaşe fun nñkan kan ninu àlámòrí awon Musulumi ni ki o gba won ni imòràn, ki o si gbìyànjú láti pe agbafipamo, ki o si ḃora fun ijànbá.
3. Titobi ojúşe gbogbo eni tí o ba je alaşe gbogbogboo tabi ti ara eni, o tobi ni tabi o kere.

(44) - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَّرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(44) – Lati ọdọ Umu salamah iya awon olugbagbo- ki Olohun yonu si i-: Dajudaju ojişe Olohun- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- so pe: "Awon adari kan maa je, e maa mo e si maa se atako, eni ti o ba mo, o ti bo, eni ti o ba se atako, o ti la, sugbon eni ti o ba yonu ti o si tele" won so pe: Nje a ko nii ba won ja? O so pe: "Rara, lopin igba ti won ba si n kirun". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- so pe awon olori kan maa je le wa lori, a maa mo awon kan ninu awon ise won; nitori pe won ba nnkan ti won mo ninu Sharia mu, a si maa tako awon kan ninu won; nitori won yapa iyen, Eni ti o ba korira ibaje pelu okan re, ti ko kapa lori atako; o ti bo kuro ninu ese ati soṣe-selu, Eni ti o ba kapa lori atako pelu ọwọ tabi ahon, ti o wa tako iyen fun won o ti la kuro nibi ese ati kikopa nibe, Sugbon eni ti o ba yonu si ise won ti o si tele won lori re, o maa parun geṣe bi won se parun.

Leyin naa won bi Anabi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- leere pe: Nje a ko nii ba awon adari ti won se pe eyi ni iroyin won ja? O wa ko fun won kuro nibe, o wa so pe: Rara, lopin igba ti won ba si n gbe irun duro laaarin yin.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ninu awon itoka ije anabi Anabi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- ni sisọ nnkan ti o maa ṣelẹ ninu awon kọkọ ati ṣiṣele re bi o se so.
2. Iyonu si ibaje ko leto tabi kikopa nibe, titako o si je dandan.

3. Ti awọn adari ba da nnkan ti o tako Sharia silẹ, itele wọn nibi iyẹn ko lẹtoṣo.
4. Ailẹtoṣo jijade si awọn adari Musulumi; nitori nnkan ti o wa ninu iyẹn ninu ibajẹ ati ita eṣe silẹ ati lílọ ifọkanbale, itẹmọra ibajẹ awọn adari eṣeṣe, ati ṣiṣe suuru lori suta wọn rọrun ju iyẹn lo.
5. Irun, ọrọ rẹ tobi, oun ni iyatọ laarin aigbagbo ati Isilaamu.

(3481)

(45) – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(45) – Lati ọdọ ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: "Imotaraeni-nikan maa wa ati awọn àlámòrí kan ti ẹ maa takò wọn" wọn sọ pe: Ire ojiṣe Ọlọhun, ki ni nnkan ti o maa pa wa láṣe? O sọ pe: "E maa pe ẹto ti o jẹ dandan fun yin, ẹ si maa beere lẹwo Ọlọhun nnkan ti o jẹ ti yin". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe awọn adari kan maa jẹ lori awọn Musulumi ti wọn ma maa wuwa imotaraeninikan pelu awọn dukia Musulumi ati eyi ti o yàtò si i ninu awọn àlámòrí aye, ti wọn ma maa na an geṣe bi wọn se fe, ti wọn ma maa kọ fun awọn Musulumi nibi ẹto wọn nibe. O si maa waye lati ọwo wọn, awọn àlámòrí kan ti wọn kọ ninu ẹsin. Awọn saabe- ki Ọlọhun yonu si wọn-beere pé: Ki ni awọn maa se nibi isesi yẹn? Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ fun wọn pe didana owo wọn ko lee kọ fun yin lati jẹ ki ẹ kọ nnkan ti o jẹ dandan fun yin si wọn ninu gbigbo ati itele, bi ko se

pe ki ẹ ẹ suuru ki ẹ si gbọ ki ẹ si tele, ẹ ko si gbọ ẹ fa àlámòrí mọ wọn lọwọ, ki ẹ si beere ẹtọ ti o jẹ ti yin lọdọ Ọlọhun, ati pe ki O tun wọn ẹ, ki O si ti aburu wọn ati abosi wọn lọ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Hadiisi naa wa ninu awọn itọka ijẹ anabi rẹ- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nigba ti o sọ nnkan ti o maa şelẹ ninu ijọ rẹ ti o si şelẹ gege bi o ẹ sọ.
2. Şişe lẹtọọ sisọ fun ẹni ti adanwo fe kan nípa nnkan ti wọn maa mu şelẹ si i ninu àdánwò; lati pese ara rẹ kale, ti o ba ti wa de ba a yoo jẹ onisuuru ti o maa reti ẹsan lati ọdọ Ọlọhun.
3. Idirọmọ Kuraani ati sunnah maa n mu ni jade kuro nibi awọn fitina ati iyapa.
4. Şišenilojukokoro lori gbigbọ ati itele fun awọn adari pelu daadaa, ati aima jade le wọn lori, ko da ki abosi şelẹ lati ọdọ wọn.
5. Lilo ọgbón ati itele sunnah ni asiko awọn fitina.
6. O jẹ dandan fun ọmọniyan lati ẹ ẹtọ ti o jẹ dandan fun un, ko da ki nnkan kan şelẹ si i ninu abosi.
7. Ẹri n be nibe lori ipile: Şişe ẹsa eyi ti o rọrun julọ ninu aburu meji tabi eyi ti o fuyẹ julọ ninu inira meji.

(46) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(46) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ 'Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji-dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Gbogbo yín ni adaranje, ẹni ti a maa beere awọn ti o dajẹ lowo re ni ẹni koṣkan yín,, adari fun awọn eniyan je adaranje, oun ni wọn maa bi leere nipa wọn, ọkunrin ni adaranje lori awọn ara ile re, oun ni wọn maa bi leere nipa wọn, obinrin ni adaranje lori ile baale re ati ọmọ re, oun ni wọn maa bi leere nipa wọn, ẹru je adaranje lori dukia olowo re, oun ni wọn maa bi leere nipa re, ẹ tẹti ẹ gbó, gbogbo yin ni adaranje ati pe gbogbo yin ni wọn maa bi leere nipa ẹni ti o dajẹ". [O ni alafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju ojúṣe kan je dandan fun gbogbo Musulumi ni awujọ ti o ma maa sọ ọ ti o si maa gbe e ru, Imam ati adari je adaranje nibi nnkan ti Ọlọhun fi wọn sọ, sisọ awọn ofin wọn je dandan fun un, ati didaabo bo wọn kuro loṣo ẹni ti o ba se abosi si wọn, ati gbigbe ogun ti ota wọn, ati aima ra awọn eto wọn lare, Ati pe ọkunrin nipa awọn ara ile re je ẹni ti ninawo fun wọn je dandan le e lori, ati biba wọn lo daadaa, ati kikọ wọn nimọ ati kikọ wọn lekọọ, Ati obinrin ninu ile ọkọ re je adaranje pelu didari ile re daadaa, ati titọ awọn ọmọ re, oun ni wọn maa bi leere nipa iyẹn, Ati pe ọmọ ọdọ ti o je ẹrú ati alagbaṣe je adaranje nibi dukia olowo re pelu sisọ nnkan ti o n be lowo re lati ọdọ re, ati sinsin in, oun ni wọn maa bi leere nipa iyẹn, Ati pe gbogbo olúkúlùkù ni adaranje nibi nnkan ti wọn fi sọ, ati pe gbogbo olúkúlùkù ni wọn maa bi leere nipa ẹni ti o n dajẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ojúṣe ninu àwùjọ ti musulumi jẹ gbogboogbo, oníkálukú pèlú bi o ba ṣe mọ ni ati ikapa rẹ ati ojúṣe rẹ.
2. Titobi ojúṣe obinrin, iyẹn rí bẹẹ pèlú ṣíṣe iwọ ile ọkọ rẹ ati awọn ojúṣe rẹ si awọn ọmọ rẹ.

(5819)

(47) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَليَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَّ عَلَيْهِمْ فَاسِقُوقٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقَ بِهِمْ فَارْفَقَ بِهِمْ فَارْفَقَ بِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(47) – Lati ọdọ Aisha- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Mo gbọ lẹnu ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o n sọ ninu ilé mi yii pe: “Ìwọ Ọlọhun, ẹnikeṅi ti o ba jẹ alaṣe lori nṅkan kan ninu ijo mi, ti o wa fi ara ni wọn, ki O fi ara ni in, ẹnikeṅi ti o ba jẹ alaṣe lori nṅkan kan ninu ijo mi, ti o wa ṣe pèlẹ pèlú wọn, ṣe pèlẹ pèlú oun naa”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Ọjíṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ṣe èpè lé gbogbo eni tí ó bá jẹ alaṣe lori àlámòrí kan fun awọn Mùsùlùmí, bóyá o kéré ni tabi o tóbi, bóyá ti gbogbogboo ni tabi fun apá ibikan sọ, tí o wa fi ara ni wọn ti ko ṣàánú wọn, pe Ọlọhun ti ọla Rẹ ga maa san an ọṣan latara irú iṣe rẹ pèlú pe ki o fi ara ni oun náà.

Eni tí ó bá wa ṣàánú wọn ti o si ṣe àlámòrí wọn ni irọrun, pe ki Ọlọhun ṣàánú tiẹ naa ki O si ṣe àlámòrí rẹ ni irọrun.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. O di dandan fún ẹni tí o ba jẹ alaṣẹ lori nnkan kan ninu àlámọ̀rí àwọn Musulumi ki o ẹ pẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú wọn bi o ba ẹ kápá mọ.
2. Ẹsan maa wa latara iran iṣẹ.
3. Ọ̀ṣùwọ̀n ohun ti a maa kà kún ninu iwà pẹ̀lẹ̀ tabi ilekoko ni ohun ti ko ba ti tako Kuraani ati Sunna.

(5330)

(48) – عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ التَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(48) – Lati ọ̀dọ Tamiim Ad-Dariy- ki Ọ̀lọ̀hun yọnu si i- pe Anọbi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pe: “Ẹsin ìmọ̀ràn ni”, a sọ pé: Fún tani? O sọ pe: “Fún Ọ̀lọ̀hun, ati fun tira Rẹ, ati fun ojiṣẹ Rẹ, ati fun awọn aṣiwaju Mùsùlùmí ati apapọ wọn”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n sọ pe ẹsin duro lori imọkanga ati ododo, titi ti eeyan fi maa pé e gégé bi Ọ̀lọ̀hun ẹ ẹ e ni dandan, ni pípé láísí ikudie-kaato nibe tabi ireje.

Wọn wa sọ fun Anọbi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- pé: Ìmọ̀ràn fun tani? O sọ pe:

Akọkọ: Ìmọ̀ràn fun Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Rẹ ga: Pẹ̀lú mimọ iṣẹ kangá fun Un, ati ki èyàn ma da orogun pọ mọ Ọn, ki a si gbagbo ninu ije Oluwa Rẹ, ati iní-ẹ̀tọ si ijọsin Rẹ, ati awọn orúkọ Rẹ ati awọn iròyìn Rẹ, ati gbigbe ọ̀rọ Rẹ tobi, ati ipepe lọ sibi iní igbàgbọ si I.

Ìkejì: Ìmọ̀ràn fun tira Rẹ tii ẹ Kuraani Alapọn-ọ̀nle: Pẹ̀lu pe ki a ni adisọkan pe ọ̀rọ Rẹ ni, oun si ni tira Rẹ ti o keyin, o si ti pa gbogbo àwọn ofin ti o síwájú rẹ rẹ, a maa gbe e tobi, a si maa ka a bi o ẹ tọ. A

maa lo eyi ti ko ba rújú nínú ẹ, a si maa yonu si èyí ti o ba rújú ninu ẹ, a si maa le àwọn èyàn kuro nibi itukutuu àwọn ti n yi itumo ẹ padà, a si maa woye si awon wàásù ẹ, a si maa tan imo ẹ ka, a si maa pepe si i.

Ìkẹta: Ìmòrán fun ojìṣe Ẹ tii ṣe Muhammad- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Ẹ maa ba a-: Pẹlú ki a ni adisokan pe oun ni igbeyin àwọn ojìṣe, ki a si gba a lododo nibi nńkan ti o mu wa, ki a si tele àṣe ẹ, ki a si jinna si ohun ti o bá kò. Ki a si ma jòsìn fun Ọlọhun àyàfí pẹlú nńkan ti o mu wa, ki a si maa gbe iwò ẹ tobi, ki a si maa pọn ọn le, ki a si maa tan ipepe ẹ ká, ki a si maa fọn ofin ẹ ka, ki a si maa tako àwọn èsùn ti wọn ba fi kan an.

Ikerin: Ìmòrán fun awon aṣiwaju àwọn mùsùlùmí: Pẹlú riran wọn lówó lóri òdodo, ki eeyan ma si du àlámòrí naa mó wọn lówó, ki èyàn si maa tẹti ki èyàn si maa tele àṣe wọn nibi itele ti Ọlọhun.

Ikarun-un: Ìmòrán fun awon Mùsùlùmí: Pẹlú ṣiṣe dáadáa si wọn ati pípè wọn, ati ki èyàn má fi suta kan wọn, ati inifẹe oore fun wọn, ati kikun wọn lówó lori dáadáa ati ipayà.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Pipaṣe ìmòrán fun gbogbo èyàn.
2. Titobi ipò imoran ninu ẹsin.
3. Èsìn kó àwọn adisokan ati awon gbólóhùn ati awon iṣe sínú.
4. Lára imoran naa ni fifọ ẹmi mó kuro nibi ireje fun ẹni ti a gba ni imoran ati gbigbero oore fun un.
5. Ìkòni-daadaa Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Ẹ maa ba a- níbi ti o ti dárúkọ nńkan ni sókí, léyìn naa ni o wa sọ ọ ni ẹkúnréré.
6. Bibere pẹlu bi nńkan ba ṣe pàtàkì jù tó, nibi ti Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Ẹ maa ba a- ti bẹrẹ pẹlú ìmòrán fun Ọlọhun, léyìn naa fun tira Rẹ, léyìn náà fun ojìṣe Rẹ- ki ikẹ Ọlọhun ati

ọla Rẹ maa ba a- lẹyin nàà fun awọn aṣiwaju àwọn Mùsùlùmí, lẹyin naa fun gbogbo Musulumi ni apapọ.

(4309)

(49) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7].  
 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(49) – Lati ọdọ Aishah- ki Ọlọhun yọnu si i- o sọ pe: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ka aaya yii: {Ọun ni Ẹni tí Ó sọ Tírá kalẹ fún ọ; àwọn āyah aláinípọn-na wà nínú rẹ - àwọn sì ni ìpilẹ Tírá -, onípọn-na sì ni iyókù. Ní ti àwọn tí ìgbúnrí kúrò níbi òdodo wà nínú ọkàn wọn, wọn yòò máa tẹlẹ̀ èyí t’ó ní pọn-na nínú rẹ láti fí wá wàhálà àti láti fí wá itúmò (òdì) fún un. Kò sì sí ẹni t’ó nímò itúmò rẹ àfí Allāhu. Àwọn àgbà nínú ìmò ẹ̀sìn, wọn n sọ pé: “A gbà á gbọ. Láti ọdọ Olúwa wa ni gbogbo rẹ (ti sọkalẹ).” Kò sì ẹni t’ó n lo irántí àyàfí àwọn onílàákayè} [Aal Imraan: 7]. O sọ pe: Ọjise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Ti o ba ti ri awọn ti n tele ohun ti o ruju ninu ẹ, àwọn ti Ọlọhun sọ niyẹn, ki ẹ sọra fun wọn”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ka aaya yii: {Ọun ni Ẹni tí Ó sọ Tírá kalẹ fún ọ; àwọn āyah aláinípọn-na wà nínú rẹ – àwọn sì ni ìpilẹ Tírá -, onípọn-na sì ni iyókù. Ní ti àwọn tí ìgbúnrí kúrò níbi òdodo wà nínú ọkàn wọn, wọn yòò máa tẹlẹ̀ èyí t’ó ní pọn-na nínú rẹ láti fí wá wàhálà àti láti fí wá itúmò (òdì) fún un. Kò sì sí ẹni t’ó nímò

itumò rè àfi Allāhu. Àwọn àgbà nínú ìmò èsìn, wón n sọ pé: “A gbà á gbó. Láti ọ̀dò Olúwa wa ni gbogbo rè (ti sòkalè).” Kò sí ẹ̀ni t’ó n lo ìrántí àyàfi àwọn onílàákàyè}. Inú rẹ̀ ni Ọ̀lọ̀hun ti sọ pé Oun ni O sọ Kuraani kalẹ̀ fun Anọ̀bi Rẹ̀, eyi ti o ni àwọn aaya ti itumọ̀ wọn ko ruju, ti a si mọ̀ idajọ̀ wọn, àwọn ni ipilẹ̀ tira naa ati ibusẹ̀risi rẹ̀, àwọn naa ni ibusẹ̀risi nígbà tí a ba yapa, o tun n bẹ̀ ninu rẹ̀ àwọn aaya miiran ti a le fun ni itumọ̀ oríṣíríṣi, ti itumọ̀ wọn maa n daru lójú àwọn èyàn kan, tàbí ki o maa lero pe atako n bẹ̀ láàrin rẹ̀ ati aaya miiran, lẹ́yìn naa ni Ọ̀lọ̀hun wa ṣàlàyé bi àwọn èyàn ẹ̀ n lo pẹ̀lú àwọn aaya yii, àwọn ti igbunri kuro nibi ọ̀dodo n bẹ̀ ninu ọ̀kan wọn maa fi eyi ti ko ruju silẹ̀, wọn maa wa gba eyi ti o ruju mu, lati fi le da iruju silẹ̀ ati lati le ṣi àwọn èyàn lónà, wón a si maa yi itumọ̀ rẹ̀ pada si ohun ti o maa ba ife-inu wọn mu, ṣùgbón àwọn ti ẹ̀ṣẹ̀ wọn rinlẹ̀ ninu imọ̀ maa mọ̀ eyi ti o ruju yii, wón maa wa da a pada sibi eyi ti ko ruju, wón si maa gba a gbọ̀ pe ọ̀dọ̀ Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Rẹ̀ ga ni o ti wa, kò si rọ̀rùn ki o daru tabi tako ara wón, ṣùgbón Kò sí ẹ̀ni t’ó n lo ìrántí àyàfi àwọn onílàákàyè ti o ni alaafia. Lẹ́yìn naa ni Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- wa sọ fun iya àwọn mumini, Aishah- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i- pe ti o ba ti ri awon ti n tele eyi ti o ruju, àwọn yẹn ni Ọ̀lọ̀hun sọ̀ ninu ọ̀rọ̀ Rẹ̀ pe: {Ní ti àwọn tí ìgbúnrí kúrò níbi ọ̀dodo wà nínú ọ̀kàn wón}, ki ẹ̀ sọ̀ra fun wón, ki ẹ̀ si ma tẹ̀ti si wón.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. AL-MUHKAM ninu awon aaya Kuraani ni: Ohun ti itumọ̀ rẹ̀ ko pamọ̀, AL-MUTASHAABIH ni: Ohun ti o ni ju itumọ̀ kan lọ, ti o si bukaata si iwòye ati agboye.
2. Ìkìlò kuro nibi dídarapò mọ̀ àwọn ti n gbúnrí kuro nibi ododo, ati awon oni adadaale, ati awon ti maa n da iruju silẹ̀ lati ṣi àwọn èyàn lónà ati lati ko iyéméjì ba wón.
3. O n bẹ̀ nibi pipari aaya naa pẹ̀lú gbólóhùn Rẹ̀ pe: { Kò sí ẹ̀ni t’ó n lo ìrántí àyàfi àwọn onílàákàyè} ìdọ̀gbónbú awon ti wón

gbúnrí kuro nibi òdodo, ati ẹyìn fun awọn ti ẹsẹ wọn rinlẹ ninu imọ, o n tùmò si pe: Ẹni ti ko ba ti lo ìrántí, ti o wa tele ife-inu rẹ, onítòhún ko si ninu awọn onilaakaye.

4. Itele nnkan ti o ruju maa n fa igbunri ọkàn kuro nibi òdodo.
5. Dandan ni ki a da àwọn aaya to ruju ti a le ma gbọ itumọ wọn yé pada si awọn aaya ti ko ruju.
6. Ọlọhun ẹ apá kan ninu Kuraani ni nńkan ti ko ruju, O si ẹ apá kan ni ohun ti o ruju; ki o maa jẹ àdánwò fun awọn èyèyàn ki awọn onigbagbọ le yatọ si awọn ẹni anù.
7. O n bẹ nibi wíwà nnkan ti o ruju nínú Kuraani: Àfihàn ọlẹ àwọn onimimọ lori awọn to yatọ si wọn, ati mí mú làákàyè mọ nipa ikudie-kaato rẹ; ki o le jupa-juse sile fun Ẹni ti O da a, ki o si jẹwọ ikagara rẹ.
8. Ọlẹ ti n bẹ fun ki ẹsẹ o rinlẹ ninu imọ ati ijédandan iduroşinşin nibe.
9. Ọrọ meji ni àwọn to n şàlàyé itumọ Kuraani sọ nipa diduro nibi gbólóhùn {ALLOOHU} nibi ọrọ Rẹ ti O sọ pe {WA MAA YAH'LAMU TAHWIILAHUU ILLAA ALLOOHU WAR-RAASIKHUUNA FIL IL'M}, ẹni tí ó bá dúró lóri {ALLOOHU}, a jẹ wipe AT-TAHWIIL maa tùmò si mí mọ pàápàá nńkan ati ohun ti ko si bi eeyan ẹ fe mọ ọn bii ọrọ nipa ẹmí, ati igba ti ayé maa paré, ninu awọn nnkan ti o ẹ pe Ọlọhun nńkan ni O ni imọ nipa rẹ, àwọn ti ẹsẹ wọn rinlẹ ninu imọ maa gba a gbọ, wọn si maa fa imọ nipa pàápàá rẹ le Ọlọhun lówó, wọn si maa jupa-juse sile, şùgbón ẹni tí ko ba duro lóri gbólóhùn {ALLOOHU}, AT-TAHWIIL maa tùmò si itumọ ati àlàyé, o maa wa jẹ pe Ọlọhun mọ ọn, àwọn ti ẹsẹ wọn rinlẹ ninu imọ naa si mọ ọn, wọn maa wa gba a gbọ, wọn si maa da a pada sibi eyi ti ko ruju.

(50) – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(50) – Lati ọdọ Abu Sa’eed Al-Khudri- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo gbọ ti Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o n sọ pe: "Eni ti o ba ri ibajẹ kan ninu yin, ki o yi i pada pẹlu ọwọ rẹ, ti ko ba ni ikapa iyẹn, ki o yi i pada pẹlu ahọn rẹ, ti ko ba ni ikapa iyẹn, ki o yi i pada pẹlu ọkan rẹ, ati pe iyẹn ni o lẹ julọ ninu igbagbo". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n pàşẹ yiya ibajẹ- oun ni gbogbo nnkan ti Ọlọhun ati Ojise Rẹ kọ kuro nibẹ- pada, ni ibamu bi ikapa ba şe mọ, nitori naa ti o ba ri ibajẹ kan, yiya i pada pẹlu ọwọ jẹ dandan fun un ti ikapa ba n bẹ fun un, şugbọn ti o ba kagara kuro nibi iyẹn, ki o yi i pada pẹlu ahọn rẹ pẹlu pe ki o kọ fun eni ti o ba şe e ki o si şàlàyé inira ti o n bẹ nibẹ fun un, ki o si tọ ọ sọnà lọ si ibi daadaa dipo aburu yii, Tí o ba kagara kuro nibi ipo yii, ki o yi i pada pẹlu ọkan rẹ pèlú ki o korira ibajẹ yii, yoo si ni ipinnu pe ti oun ba ni ikapa lori yiya i pada ni ko ba şe bẹ, Yiya pada pẹlu ọkan jẹ eyi ti o lẹ julọ ninu awọn ipo igbagbo nibi yiya ibajẹ pada.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Hadisi naa jẹ ipilẹ nibi alaye awọn ipo yiya ibajẹ pada.
2. Àşẹ naa jẹ pẹlu díẹ díẹ nibi kíkọ kuro nibi ibajẹ, gbogbo eniyan ni ibamu si odiwọn ini ikapa rẹ ati ini gbara rẹ ni.

3. Kikọ kuro nibi ibajẹ jẹ abala kan ti o tobi ninu ẹsin ti ko bọ fun ẹnikẹni, ti a la a bọ Musulumi kòòkan lórun ni ibamu si ikapa rẹ.
4. Pipaṣẹ ohun rere ati kikọ kuro nibi ibajẹ wa ninu iwa igbagbọ, ati pe igbagbọ maa n lekun o si maa n dinku.
5. Wọṅ ẹ ni majemu nibi kikọ kuro nibi ibajẹ: Imọ nipa pe ki iṣẹ yẹn jẹ ibajẹ.
6. Wọṅ ẹ ni majemu nibi yiya ibajẹ pada: Ki ibajẹ ti o tobi ju iya lẹ ma jẹ yọ latara rẹ.
7. Àwọṅ ẹkọ ati awọṅ majemu n bẹ fun kikọ kuro nibi ibajẹ ti o lẹtọ fun musulumi lati kọ wọṅ.
8. Kíkọ ibajẹ bukaata si ọṣẹlú ti o ba sharia mu, ati imọ ati amọdaju.
9. Aikọ ibajẹ pẹlu ọkan n tọka sí lile igbagbọ.

(65001)

(51) - عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا حَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نُجُوا، وَنُجُوا جَمِيعًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(51) – Lati ọdọ An-Nu‘maan ọmọ Basheer - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - lati ọdọ ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o so pe: «Apejuwe ẹni ti o duro nibi aala Ọlọhun ati ẹni ti o ko sinu re, da gẹgẹ bi apejuwe awọn ijo kan ti wọn mu aje lori ọkọ oju-omi, ni apakan wọn wa bo si oke re ti apakan wọn si wa ni isale re, ti awọn ti wọn wa ni isale re ba ti wa fe bu omi mu wọn yio gba ọdọ awọn ti wọn wa l'oke wọn koja, ni wọn wa so pe: Ao ba si lu iho kan si ọdọ wa ki a ma fi fi suta kan awọn ti wọn wa ni oke wa, ti wọn ba fi wọn silẹ pelu nkan ti wọn gbero gbogbo wọn maa parun, ti wọn ba wa gba wọn ni ọwọ mu (ti wọn ko fun wọn) wọn o la (iyen awọn ti wọn gbero lati lu iho), ati pe gbogbo wọn pata ni yio la». [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - fi aperẹ le'le fun awọn ti wọn duro nibi aala Ọlọhun, awọn ti wọn duro deede lori aṣẹ Ọlọhun, awọn ti wọn n paṣe daadaa, awọn ti wọn n ko ibaje, Ati pe apejuwe awọn ti wọn ko sinu awọn aala Ọlọhun ti wọn n fi daadaa silẹ, ti wọn n wu iwa ibaje, ati oripa iyen nibi lila awujo, da bi apejuwe ijo kan ti wọn gun ọkọ oju-omi, ni wọn wa mu aje lati mo awọn ti wọn maa jokoo si oke ọkọ oju-omi ati awọn ti wọn maa jokoo si isale re, ni awọn kan wa wa ni oke re, ti awọn kan si wa ni isale re, ti awọn ti wọn wa ni isale ba wa fe pon omi wọn a lo si ọdọ awọn ti wọn wa ni oke wọn, Ni awọn ti wọn wa ni isale wa so pe: Ti awa ba le lu oju kan ni aaye wa ni isale ti a maa ti ibe mumi, ki a ma baa maa ni awọn ti wọn wa ni oke wa lara,



ti awon to wa l'oke ba fi won silẹ lati şe nkan yẹn, oko oju-omi yẹn a te gbogbo won ri, şugbon ti won ba dide lati ko fun won nibi iyẹn, awon ijo mejeeji ni yio la papo.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Pataki pipaşe daadaa ati kiko kuro nibi aidaa nibi dida aabo bo awon awujo ati lila re.
2. Ninu awon ona ikonileko ni fifi akawé lele, lati fi sun awon itumo mo opolo pelu aworan ti oju leri.
3. Şişe ibaje ti o han pelu aiko kuro nibe, aburu ni ti yio mu inira ba gbogboogbo.
4. Iparun awujo n be nibi fifi awon onibaje silẹ ki won o maa tan ibaje ka orile.
5. İwà ti kò tònà ati aniyan daadaa ko to fun didara işe.
6. Ojuşe ninu awujo Musulumi, ohun apawopoşe ni, kii şe ohun ti enikan maa dá şe.
7. Fifi iya je gbogboogbo pelu awon eşe awon kan nigba ti won o ba ti şe atako.
8. Awon onibaje maa n fi ibaje won han ni aworan daadaa ni awujo geşe bi awon munaafiki şe ri.

(3341)

(52) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(52) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Eni ti o ba pepe lo si ibi imona, iru awon eṣan ti o n be fun eni ti o ba tele e, maa wa fun un ninu eṣan, ti iyeṅ ko nii din nnkan kan ku ninu awon eṣan won, ati pe eni ti o ba pepe lo si ibi anu, iru awon eṣe ti o n be fun eni ti o ba tele e, maa wa fun un ninu eṣe, ti iyeṅ ko nii din nnkan kan ku ninu awon eṣe won". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣàlàyé pe dajudaju eni ti o fi eniyan mona ti o si toka ti o si se awon eniyan lojukokoro lo sibi oju ona kan ti ododo ati daadaa n be nibe pelu oro tabi ise, iru eṣan eni ti o tele e n be fun un laisi pe iyeṅ maa din nnkan kan ku ninu eṣan olutele náà. Ati pe eni ti o ba dari ti o si toka awon eniyan lo sibi oju ona ibaje ati aburu, ti eṣe ati aṣiṣe tabi ti alámòrí ti ko leto n be nibe, pelu oro tabi ise, iru eṣe eni ti o tele e n be fun un laisi pe iyeṅ maa din nnkan kan ku ninu awon eṣe won.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti o n be fun ipepe lo sibi imona, o kere ni tabi o tobi, ati pe dajudaju olupepe naa, iru eṣan eni ti o siṣe n be fun un, ati pe iyeṅ wa ninu titobi ọla Ọlọhun ati pipe ore Re.
2. Ewu ti o n be fun ipepe lo sibi anu, o kere ni tabi o tobi, ati pe dajudaju olupepe náà, iru eṣe eni ti o siṣe n be fun un.

3. Èsan wa ninu iran işe, eni ti o ba pepe lo sibi dáadáa, iru esan eni ti o se e n be fun un, eni ti o ba si pepe lo sibi aburu, iru eše eni ti o se e n be fun un.
4. O je dandan fun Musulumi lati şora ki won ma baa wo o koše pelu dida eše re ni gbangba, ti awon eniyan si n ri i, nitori pe yoo maa da eše pelu eni ti o ba koše re, koda ki o ma se e lojukokoro lori iyen.

(3373)

(53) – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَبْدِعُ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَذْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(53) – Láti òdò Ibnu Mas’ud Al-Ansaariy- ki Olohun yonu si i- o so pé: Okunrin kan wa ba Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- o wa so pé: Nnkan ogun mi ti ku, fun mi ni nnkan ti maa gun, ni o wa so pé: “Mi o ni”, arakunrin kan wa so pé: Ire ojisese Olohun, maa juwe fun un eni ti o maa fun un ni nnkan ti o maa gun, ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- wa so pé: “Eni ti o ba se amona lo sibi oore, o maa ni iru esan eni ti o ba se e”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Okunrin kan wa so do Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- o so pé: Rakunmi mi ti parun, ba mi wa rakunmi kan ti maa gun ti o maa gbe mi de ibi ti mo n lo, Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- mu awawí wa fun un pe oun ko nii nnkan ti o le gun, arakunrin kan ti o wa nibe wa so pé: Ire ojisese Olohun, maa juwe eni ti o maa fun un ni nnkan ogun fun un, ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- wa so pé

alabaakegbẹ nibi ẹsan ni fun ẹni ti o ba fun un ni nnkan ọ̀gùn; tori pe oun ni o júwe rẹ fun ẹni tí ó ni bukaata si i.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Şişenilojukokoro lori ìjúwe lọ sibi oore.
2. Igbanijanju lati şe rere je ọkan ninu awọn idi fun işọkan àwùjọ Musulumi ati pípé rẹ.
3. Fífẹ ọla Ọlọhun.
4. Hadiisi naa je ọfin kan ti o kari ti gbogbo işẹ olóore maa ko sinu rẹ.
5. Ti ọmọniyan ko ba ni ikapa lati şe nńkan ti ẹni tí n tọrọ nńkan lọdọ rẹ n fé, o maa júwe ẹlòmíràn fun un.

(5354)

(54) - عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ»، فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَانُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفِذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(54) – Lati oḍo Sahl oḗ Sa'd- ki Oḗhun yonu si i- dajudaju ojiṣe Oḗhun- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- so ni oḗo Khaibar pé: Dajudaju maa fun arakunrin kan ni asia yii ni oḗa ti Oḗhun maa ti ipase re fun wa ni iṣegun, o nífèṣe Oḗhun ati ojiṣe Re, Oḗhun ati ojiṣe Re naa nífèṣe re”, o so pe: Àwọn èniyàn sùn ní alé náà tí wón ń jiroro laarin ara wón tani wón yoo fun.” Nígba ti ilè mó, àwọn èyàn lo ba ojiṣe Oḗhun- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- ti oḗoḗkan ninu wón si n fe ki wón fun oun, o so pe: “Ibo ni ‘Ali oḗo Abu Talib wà”? Wón so pé: Ire ojiṣe Oḗhun, oḗu n dùn ún. O so pe: “E ranṣe si i”, wón si mu u wa ni ojiṣe Oḗhun- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- wa tutó si oḗu re mejeeji, o si ṣe adura fun un, o si gbadun geḗe bii pe inira kan kan ko mu u, o wa fun un ni asia náà. Ali wa so pe: Ire ojiṣe Oḗhun, ki n maa ba wón ja titi wón fi maa da bii wa? O so pe: “Maa lo ni peḗpeḗ titi waa fi dé agbegbe wón, leyin naa pe wón sinu Isilaamu, so nnkan ti o je dandan le wón lori ninu eto Oḗhun fun wón nibe. Mo fi Oḗhun bura, ki Oḗhun fi arákunrin kan soṣo moṇa latara re, o loore fun e ju ki o ni rākúnmi pupa lo”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi enu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so fun awon saabe nipa isegun awon musulumi lori awon Juu Khaibar ni ojo keji, iyen maa waye lati owo arakunrin kan ti oun maa fun un ni asia, oun naa ni asia ti awon omogun maa n fi se amiwon, Ati pe arakunrin yii ninu awon iroyin re ni pe o nifee Ọlọhun ati ojise Re, ti Ọlọhun ati ojise Re naa si nifee re, Awon saabe si sun ni ale ti won n jiroro ti won si n soro nipa pe tani won maa fun ni asia naa? Ni ti ife si iyi nla yii, Nigba ti o di aaro won lo sodo Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a-, gbogbo won ni won n nireti pe awon a gba iyi yi,

Ni Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa beere nipa 'Ali omogun Abu Talib- ki Ọlọhun yonu si i-?

Won so pe: O re e, oju re mejeeji n dun un.

Ni Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ba ranse si i, won si de pelu re, o wa tu ito si oju 'Ali mejeeji ninu ito re abiyi, o se adura fun un, o si gbadun nibi aisan re, o wa da gege bii pe inira kan ko mu u tele, o wa fun un ni asia naa, o pa a lase pelu pelupele titi o fi maa sunmo aaye aabo awon ota ti o si maa fi gbigba Isilaamu lo won, ti won ba da a lohun; o maa so fun won nnkan ti o je dandan fun won ninu awon oran-anyan.

Leyin naa, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- salaye fun 'Ali nipa ọla ti o n be fun ipepe lo si oju ona Ọlọhun ati pe ti ipepe ba je okunfa itosona arakunrin kan sošo iyen loore fun un ju ki rakunmi pupa je tire lo, eyi ti o se pe oun ni o niye lori julon ninu awon dukia larubawa, yio ni i tabi ki o fi ta ore.

### **Lara awon anfanani hadisi naa:**

1. Ọla ti o n be fun 'Ali omogun Abu Talib- ki Ọlọhun yonu si i-, ati ijerii ojise- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- fun un, pelu ife Ọlọhun ati ojise Re fun un, ati ife re fun Ọlọhun ati ojise Re.
2. Işojukokoro awon saabe lori daadaa ati iyara won lo sibe.

3. Şíşe ẹkọ nibi ija lofin ati gbigbe aironujinlẹ ju silẹ ati awọn ohun tii ko inira ba eniyan ti ko si bukaata fun un.
4. Ninu awọn itọka ije anabi re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ni ifunni ni iro re nipa ibori awọn Juu, ati wiwo oju mejeeji 'Ali omọ Abu Talib san lati owo re mejeeji pelu iyonda Ọlọhun.
5. Nnkan ti a gba lero ti o tobi julọ ninu ijagun soju ona Ọlọhun ni ki awọn eniyan wonú Isilaamu.
6. Dajudaju ipepe maa n şelẹ díẹ díẹ ni, won kókó maa ni ki alaigbagbo o wonu Isilaamu pelu sisọ gbolohun ijerii mejeeji, leyin naa won maa pa a lase pelu awọn oran-anyan Isilaamu leyin iyẹn.
7. Ọla ti o n be fun ipepe lo sinu Isilaamu, ati nnkan ti o wa nibẹ ninu oore fun eni ti won n pe ati olupepe, eni ti won n pe le mona ti won si maa san olupepe lesan ti o tobi.

(3409)

(55) – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ

فَهُوَ مِنْهُمْ». [حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]

(55) – Lati odọ Ibnu Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o so pe: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pé: “Enikeni tí ó bá fara wé àwọn èniyàn kan jẹ ọkan nínú wọn.” [O daa] - [Abu Daud ati Ahmad ni won gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n so pe eni ti o ba fara wé àwọn èniyàn kan ninu awọn keferi, tabi awọn arúfin, tabi awọn eni rere- pelú pe ki o se nnkan kan ninu awọn iròyin ti a mọ won mọ nibi

adisokan, tabi awon ijosin tabi awon asà - okan ninu won ni; tori pé àfarawé won lóde máa n yorí sí àfarawé won ní inú, kò sì sí àní-àní pé àfarawé àwon èyàn máa n jeyo latara ijolójú ni. Ó sì lè jé kí won nífèé won, kí won sì máa gbé won tobi, kí won sì tè sí ọ̀dò won, èyí sì lè mú kí èyàn máa fara wé won titi dori inú ti o pamọ̀ àti ijosin – ki Olohun so wa kùrò nibẹ̀-.

### **Lára àwon ànfààní hadiisi naa:**

1. Ikilo kuro nibi ifarawe àwon keferi ati awon obileje.
2. Şişenilojukokoro lori fifi ara we àwon eni rere ati ikoşe won.
3. İşe àfarawé ni gbangba maa n je ki èyàn nífèé dé inú.
4. Omoniyani maa to si adéhùn iyà ati eşe bi o ba şe şe àfarawé to ati irú iran àfarawé ti o ba şe.
5. Kiko afarawe awon alaigbagbo ninu esin won ati ninu awon asa won ti o je ti won nikan ni, şugbon nibi ohun ti ko ba ri beş, geşe bii kiko işe şşe awon nikan ati iru beş, ko si ninu ewo naa.

(5353)



(56) - عن تميم الداري رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بَعْرَ عَزِيزٍ أَوْ بَدَلٌ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُدِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ» وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشَّرْفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلَّ وَالصَّعَارَ وَالْحِزْيَةَ. [صحيح] - [رواه أحمد]

(56) – Lati ọdọ Tamīm ad-Dāriy - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Mo gbọ ti ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ pe: «**O daju pe ẹsin yii a de gbogbo ibi tí oru ati ọsan de, ati pe Ọlọhun o nii fi ile kankan silẹ bóyá ilé alámmò ni abi ilé onírún ayafi ki O mu ẹsin yii wọ ibẹ, pẹlu iyi abiyi tabi iyẹpẹre ẹni yẹpẹre, ni iyi kan ti Ọlọhun maa fi fun Isilaamu niyi ati iyẹpẹre kan ti Ọlọhun maa fi yẹpẹre iṣe keferi**» Tamīm ad-Dāriy maa n sọ pe: Mo mọ iyẹn ni ara awọn ara-ile mi, oore ati iyì ti ṣẹlẹ fun ẹni tí o gba Isilaamu nínú wọn, ti iyẹpẹre ati sísan isakọlẹ si ṣẹlẹ fun ẹni ti o jẹ keferi ninu wọn. [O ni alaafia] - [Ahmad ni o gba a wa]

## Àlàyé:

Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe dajudaju ẹsin yíi maa pada kari gbogbo àwọn ipin ilẹ, èyíkéyíi aaye ti oru ati ọsan de ni ẹsin yíi maa pada de, Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ko nii fi ile kan sílẹ lááláé ni awọn ilu ati awọn oko tabi ni aṣalẹ afi ki O mu ẹsin yii wonu rẹ, Ẹni ti o ba gba ẹsin yii ti o si ni igbagbo ninu rẹ dajudaju o maa di abiyi pẹlu iyi Isilaamu, Ẹni ti o ba kọ ọ ti o saigbagbo pẹlu rẹ o maa di ẹni yẹpẹre ati ẹni ẹtẹ.

Lẹyin naa, saabe ti o n jẹ Tamiim Ad-Daari- ki Ọlọhun yonu si i- sọ pe oun mọ iyẹn ti ojiṣe Ọlọhun sọ lara awọn ara ile rẹ, tori pé ẹni ti o gba Isilaamu ninu wọn ri oore ati iyì, ẹni ti o ṣe aigbagbo ninu wọn si ri iyẹpẹre ati ẹtẹ pẹlu owo ti o tun n san fun awọn Mùsùlùmí.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Iro idunnu fun awọn Musulumi pe dajudaju ẹsin wọn maa pada fónka si gbogbo ipin ilè.
2. Iyi jẹ ti Isilaamu ati awọn Musulumi ti iyeperẹ si jẹ ti aigbagbo ati awọn alaigbagbo.
3. Ẹri n bẹ nibe ninu awọn ẹri ijé anabi ati ami ninu awọn ami rẹ pẹlu pe ọrọ náà şelè gege bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şe sọ.

(11220)

(57) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(57) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: "Mo fi Ẹni ti ẹmi Muhammad n bẹ lẹwọ Rẹ bura, ẹnikeni ko nii gbó nipa mi ninu ijọ yíi, Juu ni tabi Nasara, leyin naa o wa ku ti ko si ni igbagbo pẹlu nnkan ti wọn fi ran mi, afi ko wa ninu awọn ara ina". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n bura pẹlu Ọlọhun pe ẹnikeni ko nii gbó nipa oun ninu ijọ yíi, Juu ni tabi Nasara tabi ẹni ti o yatọ si awọn mejeeji, ti ipepe Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- de etiigbo rẹ, leyin naa o wa ku ti ko si ni igbagbo ninu rẹ afi ki o wa ninu awọn ara ina ti o maa şe gbere nibe lailai.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Kikari ìránṣẹ́ Anabi- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- si gbogbo aye, ati pe itẹle rẹ jẹ dandan, ati pipa gbogbo àwọn ofin rẹ pẹlu Sharia rẹ.
2. Ẹni ti o ba ẹ aigbagbọ si Anabi- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ini adisọkan igbagbọ rẹ pẹlu ẹni ti o yàtò si i ninu awọn Anabi- ki ikẹ́ Ọlọhun maa ba wọn patapata- ko nii ẹ e ni anfaani.
3. Ẹni ti ko ba gbọ nipa Anabi- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-, ti ipepe Isilaamu ko si de etiigbọ rẹ, oun jẹ ẹni ti o ni àwíjàrẹ, alamọri rẹ ni ọrun si wa lọwọ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-.
4. Ẹ́ṣe anfaani pẹlu Isilaamu maa wa si ìmúṣẹ koda ki o jẹ pe o ku diẹ ti eeyan maa ku, koda ki o jẹ ninu aare ti o le koko, niwọn igba ti ẹmi ko ba i tii de ọna ọfun.
5. Titun ẹsin awọn alaigbagbọ ẹ- ti Juu ati Nasara n bẹ ninu wọn- jẹ aigbagbọ.
6. Didarukọ Juu ati Nasara- ninu hadiisi náà- jẹ itaniji fun ẹni ti o yàtò si wọn; iyẹn rí bẹẹ nitori pe iwe n bẹ fun Juu ati Nasara, ti ọrọ wọn ba wa ri báyií, a jẹ pe ẹni tí o yàtò si wọn ti iwe ko si fun wọn ni ẹtọ si i ju wọn lọ, ati pe gbogbo wọn, wiwọ inu ẹsin rẹ jẹ dandan fun wọn ati itẹle rẹ- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-.

(3272)

(58) - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: «الْقَطُّ لِي حَصَى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى الْحَدْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: «أُمَّتَالِ هَوْلَاءِ فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَيَّاكُمْ وَالْعُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ». [صحيح] - [رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد]

(58) – Lati ọdọ ọmọ 'Abbas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ ni àárò jiju okuta ipari, ti o si wa lori rakunmi re pé: "Ba mi mu okuta kekere kan" mo wa mu awọn okuta kekere meje fun un, awọn ni okuta kéékèkéké tí a maa n fi ika méjì jù, o wa bèrè si nii ju wọn si atẹlẹwọ re, o si n sọ pe: "Awọn iru awọn wonyi ni ẹ maa ju" leyin naa o sọ pe: "Eyin eniyan, ẹ sọra kuro nibi aṣeju nibi ẹsin, dajudaju nnkan ti o pa àwọn ti wọn síwájú yin run ni aṣeju nibi ẹsin". [O ni alaafia] - [Ibnu Maajah ati Nasaa'iy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Ọmọ 'Abbas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- n sọ pe oun wa pẹlu Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ni ojo iduran ni àárò jiju okuta jamratul ákọbà ni hajj idagbere, Bayii ni o ba pa a láṣe ki o ba a sa okuta ti o maa jù, o si ba a sa okúta meje, ikan nibẹ da geṣe bii èso himmas tabi èso bunduk, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- gbe wọn si ọwọ re leyin naa o m̀i wọn, o wa sọ pe: Irú wọn ní ìwòn ni ki ẹ jù, Leyin naa, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣekilo nipa aṣeju ati imu nnkan le koko ati kikoja aala nibi awọn alamori ẹsin, ati pe kikoja aala ko iparun ba awọn ijo isáájú ati aṣeju ati imu nnkan le koko nibi ẹsin.

## Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Kiko kuro nibi aṣeju nibi ẹsin, ati alaye aida igbeyin re, ati pe o je okunfa fun iparun.
2. Ìwòye sí àwọn ti wọn ṣáájú wa ninu awọn ijo lati jina si nnkan ti wọn kósí ninu awọn aṣiṣe.

### 3. Isenilokokoro lori kikoṣe sunnah.

(3395)

(59) – عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»

قالها ثلاثاً. [صحيح] - [رواه مسلم]

(59) – Lati oḍo Abdullah oṃo Mas'ud ó sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pé: "Awọn alakatakiti ti parun " ó sọ beḗ ni eḗmeta. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

#### **Àlàyé:**

Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n fún wa niroo nipa ipòfo ati ipadanu awọn onilekoko - laisi imòna ati imò - ninu eṣin ati igbesi aye wọn, ati ninu awọn oṣo wọn ati awọn iṣe wọn, awọn tí wọn máa n tayọ aala ofin sharia tí Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - mú wá fún wa.

#### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Eewọ ni ilekoko ati tipátipá ninu gbogbo nkan, kí a sì gbiyanju lati jina si mejeeji ninu ohun gbogbo; paapaa julọ ninu awọn ijọsin wa ati igbe-titobi fun awọn eṣin.
2. Wíwá lati ṣe ijọsin ati awọn ohun miiran ní pípé jẹ nkan dáadáa; ó sì ni lati jẹ pẹlu titẹle ofin sharia.
3. Wọn fẹ kí a maa tẹnumọ ọrọ pataki, nitori pé Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - tún gbolohun yii sọ ni eḗmeta.
4. Ìròrùn eṣin Islam ati àilekoko rẹ.

(3420)

(60) - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالتَّصَارِيُّ ضَالَّةٌ». [صحيح] - [رواه الترمذي]

(60) – Lati ọdọ 'Adiyyu ọmọ Haatim, lati ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: "Awọn Juu ni awọn ti a binu si, ti awọn Nasara je awọn ẹni anu". [O ni alaafia] - [Tirmiziy ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju awọn Juu ni ijo kan ti Ọlọhun binu si wọn, nitori pe wọn mọ ododo wọn ko si şişe pelu re. Ati pe awọn Nasara ni ijo ẹni anu; nitori pe wọn şe işe laini imọ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Idapọ laaarín imọ ati işe je igbala kuro ni oju ọna awọn ti a binu si ati awọn ẹni anu.
2. Ikilọ kuro ni oju ọna awọn Juu ati Nasara, ati didunnimọ oju ọna taara ti o şe pe oun ni Isilaamu.
3. Olukuluku ninu awọn Juu ati Nasara ni ẹni anu ti a binu si, şùgbón eyi ti o je ẹsa ju ninu awọn iroyin awọn Juu ni ibinu, ti eyi ti o je ẹsa ju ninu awọn iroyin awọn Nasara ni anu.

(65061)

(61) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمِائَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(61) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Amru ọmọ ‘Aas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o sọ pe: Mo gbọ ti ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: "Ọlọhun kọ kadara awọn ẹda síwájú ki O to da sanmọ ati ile fun egberun lónà aadọta ọdun, o sọ pe: Aga ọla Re wa ni ori omi". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju Ọlọhun kọ nnkan ti o maa şelè ninu awọn kadara awọn ẹda ni ifosiwewe ninu isemi ati iku ati arisiki ati nnkan ti o yatọ si iyẹn sinu Wálàà ti A n sọ síwájú ki O to da sanmọ ati ile fun egberun lónà aadọta ọdun, ti yoo maa şelè ni ibamu si nnkan ti Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbong- ti kadara, Gbogbo nnkan ti o n be n be pelu idajo Ọlọhun ati kadara Re, Nnkan ti o ba şelè si eru won ti kọ ọ pe ko nii fo o ru, nnkan ti o ba fo o ru won ti kọ ọ pe ko nii şelè si i ni.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jijẹ dandan nini igbagbọ ninu idajo ati kadara.
2. Kadara ni: Imọ Ọlọhun nipa gbogbo nnkan ati kiko won Re ati fifẹ Re ati dida Re ti O da won.
3. Nini igbagbọ pe awọn kadara je nnkan ti won kọ síwájú dida sanmọ ati ile, igbagbọ yii maa şeso iyonu ati jijupa-juse silẹ.
4. Dajudaju aga ọla Ọba Ajọke-aye wa lori omi síwájú dida sanmọ ati ile.

(62) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتَتُبُ: رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيَّ أُمِّ سَعِيدٍ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(62) – Láti òdò Abdullah ọmọ Mas’huud- ki Ọlọhun yonu si i-: Ojiṣe Ọlọhun- kí ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ba wa sọrọ, olódodo ni, ẹni tí a sọ òdodo fún si ni: “Wípé wọn maa kó ẹdá ẹnikan nínú yín jọ sínú ikùn iyá rẹ fún ogójì ojọ, lẹyin náà yòò di eje dídi fun ogójì ojọ, lẹyin naa yoo di baasi eran fun ogójì ojọ, lẹyin náà wọn maa ran malaika si i, wọn maa pa a láṣe pèlú gbólóhùn merin kan, wọn maa waa kọ: Arisiki re, ati àsìkò re, ati iṣe re, ati pe se oloriburuku ni abi oloriire, lẹyin naa wọn maa fé ẹmí si i lára, dájúdájú ẹnikan ninu yin yoo maa se isẹ ọmọ alujanna, titi ti ohun ti o ṣeku láàrin re ati láàrin alujanna ko fi nii ju apá lọ, àkòsílẹ maa wa borí re, yoo waa maa se isẹ ọmọ iná, yoo si wọ ọ, dájúdájú ẹnikan nínú yin, yoo maa se isẹ ọmọ ina, titi ti ohun ti o ṣeku láàrin re ati láàrin iná ko fi nii ju apá lọ, àkòsílẹ maa wa borí re, yoo waa maa se isẹ ọmọ alujanna, yoo si wọ ọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Ibnu Mas’ud sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ba wa sòrò, olódodo ni nibi ọrò re, ẹni tí wọn sọ òdodo fun ni; torí pé Ọlọhun ti ọla Re ga sọ òdodo fun un, O sọ pe: Dajudaju ẹnikan nínú yin, wọn ko ẹdá re jọ, iyẹn ni pe ti ọkùnrin ba sunmọ iyàwó re, wọn maa ko àtò re ti o fónka jọ ninu ikun obìnrin ti o maa wa ni àtò fun ogójì



ojó, Léyìn náà yoo di èjè dídí, oun naa ni eje ti ó ki ti kò sà̀n, eyi ni ogóji ojó kejì, Leyin naa yoo di baasi ẹran, oun naa ni egige kan ninu ẹran ni odiwọ̀n ǹnkan ti a le rún lẹnu, èyí ni ogóji ojó kẹta, Leyin naa ni Olohun maa ran malaika si i lati fẹ ẹmí si i lára leyin ti ogóji ojó kẹta bá parí, Wọ̀n maa pa malaika naa láşẹ ki o kọ àwọ̀n ǹnkan mériin kan, àwọ̀n naa ni: Arisiki rẹ, oun naa ni odiwọ̀n ohun ti o maa rí ninu idera ni ayé rẹ, Ati asiko rẹ, òun naa ni igba ti o fi maa wa láyé, Ati işe rẹ, ki ni? Ati pe şe oloriburuku ni abi oloriire. Léyìn naa ni Anọbi- ki ike Olohun ati ọla Rẹ maa ba a- búra pé ẹnikan yoo maa şe işe ọmọ alujanna, ti işe rẹ maa jé işe rere ni eyi ti o hán si awọ̀n èyà̀n, yoo wà bẹ̀ẹ̀ titi ti ohun ti o maa wa láàrin rẹ ati alujanna ko fi nii ju apá lọ, itumọ ni pe: Ohun ti o maa ku fun un lati de inu alujanna naa maa da gege bii ẹni tí ohun ti o şeku láàarin rẹ ati ààyè kan lóri ilẹ ko ju déédéé apá lọ, àkọsilẹ maa wa borí rẹ ati ohun ti wọ̀n kadara fun un, igbà náà ni yoo maa şe işe ọmọ ina, yoo si pari ayé rẹ lóri ẹ, yoo si wọ ina; Torí pé májẹmú gbígba işe ni ki èyà̀n má kúrò lóri rẹ, ki o si ma yi i pada, àwọ̀n èyà̀n míràn ma maa şişe ọmọ iná titi ti o fi maa sunmọ ki o wò ọ, ti ohun ti o maa şeku láàarin rẹ àti ina ko nii ju odiwọ̀n apá ninu ilẹ lọ, ni àkọsilẹ ati kádàrá ba maa borí rẹ, yoo waa maa şişe ọmọ alujanna, yoo si wò ọ.

### **Lára àwọ̀n ànfààní hadiisi naa:**

1. Ìkángun àwọ̀n àlámọ̀rí ni igbeyin naa ni ohun ti o ba ti şiwaju ninu kadara.
2. Ikilọ kúrò nibi gbígba ẹtan pẹlú àwọ̀n àwòrán işe; torí pé igbeyin gan ni işe.

(65037)

(63) – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَبَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(63) – Lati ọdọ ọmọ Mas'ud - ki Ọlọhun yonu si i - ó sọ pé: Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Alujanna súnmọ ikòòkan nínú yín ju okùn bàtà rẹ lọ, Iná naa sì rí bẹẹ". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – fún wa niroo pé Alujanna ati Ina súnmọ èniyàn gege bi okùn bàtà tó máa n wà lókè ẹsẹ ẹ súnmọ, nitori pé ó ẹe ẹ kí eniyan ẹ iṣe ijọsin kan, kí iṣe yii sì mu un rí iyonu Ọlọhun, yoo sì mu un wọ Alujanna, ó sì ẹe ẹ kó dá ẹṣe kan, kí ẹṣe yii sì jẹ okunfa fun un tí yoo fí wọ Ina.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìmúni nífẹ́ẹ́ láti maa ẹ rere kódà bí ó bá kéré, ati ilenisa kuro nibi ẹṣe aburu kódà bí ó bá kéré.
2. kò sí tabi-ṣugbọn fún musulumi nibi pé kí ó kó irankan ati ìbèrù papọ ninu aye rẹ, kí ó sì maa bẹ Ọlọhun Ọba ni gbogbo igba pé kí Ó mú oun duro sinsin lori ododo tí tí oun ó fi là, tí iṣesi tí oun wà ò fi nii kó itanjẹ bá oun.

(3581)

(64) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(64) – Lati ọdọ Abu Hurairah - ki Ọlọhun yonu si i - ó ní dajudaju Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Wọn fi awọn adùn tí eniyan n fẹ nifekufẹe rokirika Iná ọrun, wọn sì fi awọn nkan tí ọkàn eniyan koriira rẹ rokirika Alujanna". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n ṣe alaye pé dajudaju awọn nkan tí ẹmí eniyan n fẹ ni o wa ní ayika Iná ọrun, gege bii ṣiṣe awọn nkan tí Ọlọhun ṣe ní eewọ tabi ikudie-kaato nibi awọn oranyan; Nitori naa ẹnikeni tí ó bá tẹlé ifeṣenu rẹ nibi iye, onitohun ti leto si wiwo Ina ọrun, ati pé dajudaju awọn nkan tí ẹmi eniyan koriira rẹ ni o wa ní ayika Alujanna; gege bii ṣiṣe awọn nkan tí Ọlọhun pa wá láṣe rẹ déédé ati gbigbe awọn nkan eewọ jù sílẹ̀ àti ṣiṣe suúrù lori wọn, tí eniyan bá wá tiraka, tí ó sì gbiyanju pẹ̀lú ẹmi ara rẹ lẹ́tí ṣe bẹ̀, onitohun ti leto si wiwo Alujanna.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ninu awọn okunfa tí eniyan fi n kó sínú ifekufẹe adun aye ni kí èṣù kó ọṣọ bá awọn nkan naa, tí ó jẹ nkan buruku tí kò dara, títí eniyan o fi ri i pé ó dara, yoo sì sẹ́rí lọ si idi rẹ.
2. Àṣe jíjìnà sí awọn adùn aye tó jẹ eewọ; nitori pe ọ̀nà ati wọ iná ni, ati ṣiṣe suuru lori awọn nkan tí ẹmi wa koriira rẹ; nitori pe ọ̀nà ati wọ Alujanna ni.
3. Ọlá tí n bẹ fún jija ẹmí ara ẹni lógun, ati gbígbiyànjú nibi ijọsin fun Ọlọhun, ati níní suuru lori awọn nkan ti èyàn koriira ati inira tí ó wà níbi titele ti Ọlọhun.

(65) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالتَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُقَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَى التَّارِ وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. فَأَمَرَ بِهَا فَحُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

(65) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o so pe: “Nígbà tí Ọlọhun da alujanna ati ina, O ran Jibril- ki ọla maa ba a- lo sí alujanna, O wa so pé: Wò ó, ki o si wo ohun ti Mo pèsè kalè fun awon omọ alujanna ninu re. Ni o ba wo o, o si şeri pada, ni o wa so pe: Mo fi agbara Re bura, ko si eni kankan ti o maa gbọ nipa re ti ko nii wò ó. Ni O ba paşẹ ki won fi àwon nnkan ti emi korira rokirika re, O wa so pé: Tún lo sibe, ki o si wo o ati ohun ti Mo pèsè kalè fun àwon omọ alujanna nínú rẹ. Ni o wa wo o, o si ba a pe won ti fi àwon ohun tí emi korira rokirika re, o wa so pé: Mo fi agbara Re bura, èrù n ba mi ki eni kankan ma wọ ibẹ. O so pé: Lo wo ina ati ohun ti Mo pèsè kalẹ fun awon omọ ina nínú ẹ. O wo inu re, ni o wa ri i ti o n gun ara won, o şeri pada, o si so pé: Mo fi agbara Re bura, ko si eni kankan ti o maa wọ ó. Ni O wa ni ki won fi àwon nnkan ti emi maa n gbádùn rokirika re, o padà, o si so pé: Mo fi agbara Re bura, mo n paya ki eni kankan má là kúrò nibe ayafi ki o wọ ó”. [O daa] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Nasaa'iy ni won gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pe dajudaju Ọlọhun, nigba ti O da alujanna ati ina, O so fun Jibril- ki ike Ọlọhun maa ba a-

pé: Lọ si alujanna ki o si wo o, bayii ni o şe lọ, o si wo o, leyin naa o şeri pada, Jubril si sọ pé: Ire Oluwa mi, mo fi agbara Re bura enikeni ko nii gbó nipa re ati nipa nnkan ti o n be nibe ninu idera ati awon oore afi ko fe lati wo o, ki o si maa şe işe nitori re. Leyin naa Olohun wa fi awon nnkan ti emi korira ati awon nnkan ti o le rokirika alujanna bii şise awon nnkan ti won pa wa laşe ati jijina si awon nnkan ti won ko; o wa je dandan fun eni ti o ba fe wo o lati re koja awon nnkan ti emi korira yen. Leyin naa Olohun- Alagbara ti O gbongbon- sọ pé: Ire Jibril! Lọ ki o lọ wo alujanna, leyin igba ti O rokirika re pelu awon nnkan ti eniyàn korira, O si lọ wo o, leyin naa o sọ pe: Ire Oluwa mi, mo fi agbara Re bura, mo n paya ki enikeni ma wo o pelu okunfa awon ilekoko ati awon wahala ti won wa ni oju ona re. Nigba ti Olohun da ina, O sọ pe: Ire Jibril! Lọ ki o lọ wo o, o si lọ wo o, Leyin naa ni o de, Jibril wa sọ pé: Ire Oluwa mi, mo fi agbara Re bura, enikeni ko nii gbó nipa iya ati awon wahala ati ifiyaje ti o wa ninu re afi ki o korira lati wo o ki o si jina si awon okunfa re. Leyin naa Olohun- Alagbara ti O gbongbon- fi awon adun rokirika ina, O si şe won ni oju ona lọ si ibe, leyin naa, O sọ pe: Ire Jibril, lọ ki o si wo o, Jibril si lọ o si wo o, leyin naa o de, o si sọ pe: Ire Oluwa mi, mo fi agbara Re bura, dajudaju mo paya eru si ba mi pe ki eni kankan ma la kuro nibe; fun nnkan ti o rokirika re ninu awon adun.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Nini igbagbo pe alujanna ati ina n be bayii.
2. Jije dandan nini igbagbo ninu kòkò ati gbogbo nnkan ti o wa lati odo Olohun ati lati odo Ojise Re (ki ike Olohun ati ola Re maa ba a).
3. Pataki şise suuru lori awon nnkan ti eniyàn korira; nitori pe awon ni oju ona ti o de alujanna.
4. Pataki jijina si awon nnkan eewo; nitori pe awon ni oju ona ti o de ina.

5. O ɕe alujanna ni nnkan ti wɔn fi àwɔn ǹnkan ti ɛmi korira rokirika, O si ɕe ina ni ǹnkan ti wɔn fi àwɔn ad̀n rokirika, oun ni ǹnkan ti id̀anwò isɛmi ayé n béèrè fun.
6. Oju ɔna alujanna ɕoro o si le, o si bukaata si ɕiɕe suuru ati atɛmɔra pɛlu igbagbo, ati pe oju ɔna ina kun fun adun ni aye.

(65034)

(66) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ. قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(66) – Láti ɔ̀dò Abu Huraira- ki Olohun yonu si i- pé Anabi- ki ike Olohun ati ɔla Re maa ba a- so pe: “Iná yin je èyà kan nínú èyà aádòrin ti ina Jahannama ni”, wɔn so pé: Ire ojise Olohun, iná ayé gan ti tó. O so pe: “Ina Jahannama ju ti aye lo pèlú èyà mɔkandinlaadòrin, gbígbóná ɔkɔkan ninu ɛ da gege bii gbígbóná iná ayé”. [O ni alafia] - [Ohun ti wɔn fi ɛnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ɔla Olohun o maa ba a, so fun wa pe ina aye yii je ɔkan ninu aadòrin awon ɛya ina Jahannama, Gbígbóná iná ojò ikeyin lágbára ju gbígbóná iná ayé lo pèlú èyà mɔkandinlaadòrin, èyà kòòkan nínú rɛ ɕe déédéé gbígbóná ina ayé. Wɔn so pé: Ìwò Òjísé Olohun, iná ayé yì ti tó láti fi fi iyà je àwɔn ti wɔn ba wò ɔ, O so pé: Ina Jahannama ju ina ayé lo pèlú èyà mɔkandinlaadòrin, ɔkòòkan nínú rɛ da gege bii rɛ nibi gbígbóná gidi gan.

### Lára àwɔn ànfààní hadiisi naa:

1. Ikilò kúrò nibi iná ki awon èyàn le jinnà sí àwɔn isɛ ti o maa mú èyàn wò ɔ.

## 2. Titobi ina Jahannama ati iya re, ati gbígbóná gidi gan re.

(65036)

(67) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِمِمينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(67) – Lati oḍo Abu Hurayra - ki Olohun yonu si i - o so pe: Mo gboto ojiṣe Olohun - ki ike ati oḷa Olohun maa ba a - n so pe: «**Olohun a gba ile mu, yoo si tun ka sanmo pelu owo otun Re, leyin naa ni Yoo waa so pe: Emi ni Oba, gbogbo oba (olukapa) ori ile da?**». [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati oḷa Olohun maa ba a - funni niroo nipa pe dajudaju Olohun ti oḷa Re ga Yio gba ile mu ni ijo igbende ti yio si pa a po, ati pe yio ka sanmo pelu owo otun Re ti Yio si ka a lori ara won tii Yio si pa a re, leyin naa ni Yio wa so pe: Emi ni Oba, gbogbo oba (olukapa) orile da?!

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Irannileti pe oḷa Olohun ni yio maa seku ati pe oḷa eni ti o yatoto si I nkan ti yio ye ni.
2. Gbigbonngbon Olohun ati titobi ikapa Re ati agbara Re ati pipe oḷa Re.

(65028)

(68) - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَّكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِمَخْلَقِ اللَّهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(68) – Lati ọḍọ 'Aaisha iya awọn olugbagbọ- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wọle ti mi, mo si ti bo apoti iko-nnkan-si ti o je temi pelu aṣo kan ti awọn aworan n be nibe, nigba ti o wa ri i, o fa a ya ti oju re si pon, o wa sọ pe: "Ire 'Aaisha, Eni ti o maa le koko julọ ninu awọn eniyan ni ti iya ni ojo igbedide ni awọn ti wọn n se afijo ẹda Ọlọhun" 'Aaisha sọ pe: "A si ge e, a si sọ o di irori kan tabi irori méjì". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wọle ti 'Aaisha- ki Ọlọhun yonu si i- ninu ile re, lo ba ri ti wọn ti bo apoti iko nnkan si kekere ti wọn gbe ẹru sinu re pelu aṣo kan ti awọn aworan abemi n be nibe, awo oju re si yipada ni ti ibinu nitori Ọlọhun, o si fa a ya, o wa sọ pe: Eni ti o maa le koko julọ ninu awọn eniyan ni ti iya ni ojo igbedide ni awọn ti wọn n se afijo ẹda Ọlọhun pelu awọn aworan wọn. 'Aaisha sọ pe: A si sọ o di irori kan tabi irori méjì.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Kikọ ibajẹ ni asiko riri re ati aima lora nibi iyẹn, nigba ti ko ba si aburu nla ti o ju iyẹn lo nibe.
2. Iya ni ojo igbedide maa yatọ nibamu si titobi eṣe.
3. Yiya aworan awọn abemi wa ninu awọn eṣe ti wọn tobi julọ.
4. Ninu oḡbọn ti o n be nibi ṣiṣe leewo yiya aworan ni afijo ẹda Ọlọhun- ti ọla Re ga- boya oluyaworan gbero afijo tabi ko gbero re.



5. Ojúkòkòrò sharia lori sisọ awọn dukia pẹlu ẹ́ṣe anfaani latara rẹ lẹyin gbigbe e jina si nnkan ti wọn ẹ leewọ nibe.
6. Kikọ kuro nibi ẹ́ṣe awọn aworan abẹmi lori èyíkẹyíí ńrísí ti o le jẹ, koda ki o jẹ iyíflẹ.

(5931)

(69) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ، وَيَبْضَعَ الْحِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(69) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: "Mo fi ẹni ti ẹmi mi n bẹ lọwọ Rẹ bura, o maa ku díẹ ki ọmọ Maryam sọkalẹ si aarin yin ni adajo oluṣedeede, ti o maa run agbelebuu, ti o maa pa ẹlédè, ko nii jẹ ki wọn san isakọlẹ mọ, ti owo maa pọ titi ẹni kankan ko fi nii gba a mọ". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n bura lori sisunmọ sisokalẹ Isa ọmọ Maryam- ki ikẹ Ọlọhun maa ba a- lati maa ẹ idajo laarin awọn eniyan pẹlu deede pẹlu Sharia ti Muhammad, Ati pe o maa pada run agbelebuu ti awọn Nasara n gbe tobi, Atipe Isa- ki ikẹ Ọlọhun maa ba a- maa pa ẹlédè, Ati pe Isa- ki ikẹ Ọlọhun maa ba a- ko nii jẹ ki wọn san isakọlẹ mọ, o si maa jẹ ki gbogbo èyàn wọnú Isilaamu. Ati pe dajudaju owo maa pada maa da ti ẹni kankan ko nii gba a; iye maa rí bẹẹ fun pipọ rẹ, ati rirọrọ gbogbo ẹni kọkan pẹlu nnkan ti o n bẹ ni ọwọ rẹ mejeeji, ati sisokalẹ alubarika ati itele-ara-wọn awọn oore.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Fifi sisọkalẹ́ Isa- ki ikẹ́ Ọlọhun maa ba a- rinlẹ́ ni igbẹyin ìgbà, ati pe o wa ninu awọn ami ojo igbende.
2. Sharia Anabi- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ́ maa ba a- eyi ti o yàtò si i ko lee pa a rẹ́.
3. Sisọkalẹ́ awọn alubarika sibi owo ni igbẹyin igba, pẹlu irayesa awọn eniyan nibẹ́.
4. Iro idunnu pẹlu şışẹku eşin Isilaamu nigba ti Isa- ki ikẹ́ Ọlọhun maa ba a- maa şe idajo pẹlu rẹ́ ni igbẹyin igba.

(65025)

(70) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ: **أَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي فَرَيْشُ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَجْرُ لِأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص:

[56]. [صحيح] - [رواه مسلم]

(70) – Láti ọ̀dọ́ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o so pe: Ọ́jísẹ́ Ọlọhun- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ́ maa ba a- so fun àbúrò bàbá rẹ́ pé: “So pe: LAA ILAAHA ILLALLOOH, maa fi jẹrii fun ọ ni Ọjọ Àjínde”, o so pe: Ti kii ba şe pe àwọn Quraysh maa bu mi ni, ti wọn maa so pé: Ìbèrù ni o mu un so ọ, mi o ba fi dùn ọ nínú. Ni Ọlọhun wa so aaya yii kalẹ: {Dájúdájú iwọ kò lè fi ọ̀nà mọ ẹni tí o fẹ̀ràn, şùgbón Allāhu l’Ó n fi ọ̀nà mọ ẹni tí Ó bá fẹ́} [Al-Qasas: 56]. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ́ Ọlọhun ati ọla Rẹ́ maa ba a- wa lati ọ̀dọ́ aburo baba rẹ́ tii şe Abu Toolib ti o si n pókàkà ikú lówó- pe ki o pe LAA ILAAHA ILLALLOOH, ki o fi le şipẹ́ fun un ni Ọjọ Àjínde, tí o si maa jẹrii fun un pe o gba Isilaamu, ó kò lati wí gbólóhùn ijẹrii naa ni ipayà pe ki

awon Quraysh ma bu oun, ti won a maa so nipa oun pe: O gba Isilaamu tori iberu ikú ati òlẹ! O wa so fun Anobi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- pe: Ti kii ba se iyen ni, mi o ba dun o ninu pelu ki n wi gbolohun ijerii naa, mi o ba se nikan ti o n fe titi ti waa fi yonu! Ni Olahun ti ola Re ga wa so aaya kale ti n toka si pe Anobi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- ko ni ikapa itosona ti konge sinu Isilaamu, sugbon Olahun ti O lagoon ti O gbongbon nikan ni O maa n fi eni ti O ba fe se konge. Ati pe Anobi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- maa n fi eda mona pelu itoka ati alaye ati itosona ati ipepe lo si oju ona taara.

### **Lára awon anfaani hadisi naa:**

1. A kii fi ododo silẹ ni iberu ohun ti awon eeyan maa so.
2. Anobi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- ni ikapa itosona ti itoka ati ijuwe, sugbon ko ni ikapa itosona ti konge.
3. Abewo Keferi ti o n se aisan lati pe e sinu Isilaamu je nikan ti o ba ofin sharia mu.
4. Ojukokoro Anobi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- lori ipepe lo si odo Olahun ti ola Re ga ni gbogbo isesi.

(65069)

(71) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٌ، مَاءُهَا أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهَا أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكَيْزَانُهُ كَنْجُومُ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(71) – Lati ọḍọ Abdullah ọmọ Amr, ki Olohun yonu si awon mejeeji, o so pe: Anabi, ki ike ati ọla Olohun maa ba a, so pe: Abàtà mi, irin oşu kan ni, omi re funfun ju wara lo, ọorun re dun ju alumisiki lo , ife re si da bii irawo oju ọrun, eni ti o ba mu ninu e, ọungbe ko nii gbe e laelae.”  
[O ni alafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ọla Olohun o maa ba a, so pe oun yoo ni abata kan ni Ojo Ajinde, ti oro re yoo je irin oşu kan, ti ibu re naa si maa je irin oşu kan, Omi re funfun ju wara lo, Oorun re dun ju ti alumisiki lo, Awon age omi re po bi irawo oju ọrun, Enikeni ti o ba fi age omi naa mu omi ninu abata naa, ọungbe ki yo gbe e mo laelae.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Abata ojise Olohun- ki ike ati ọla Olohun maa ba a- je ibi ti omi ko jo si ti o tobi ti awon onigbagbo ninu ijo re maa wa sibere ni ojo alukiyaamo.
2. Sisele igbadun fun eni ti o ba mu ninu abata naa, ọungbe ko nii gbe e mo laelae.

(65030)

(72) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوقَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبِشٍ أَمْلَحَ، فَيَنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَسْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَسْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَهُ، فَيُدْبِحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} [مريم: 39]، وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلَ الدُّنْيَا {وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [مريم: 39]». [صحيح] - [متفق عليه]

(72) - Lati oḍo Abu Sa'eed Al-Khudri- ki Oḷohun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Oḷohun- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- sọ pe: “Won maa mu ikú wá ni irísí àgbò ti o ni dúdú ati funfun lára, olupepe kan maa pè pé: Èyin oḡo alujanna, won maa garùn won si maa wò, yoo wa sọ pé: Njé ẹ mọ èyí? Won maa sọ pé: Beṇi, èyí ni ikú, gbogbo won ni won si ti ri i, leyin naa o maa pe pe: Èyin oḡo iná, won maa garùn won si maa wò, o maa waa sọ pe: Njé ẹ mọ èyí? Won maa sọ pé: Beṇi, èyí ni ikú, gbogbo won ni won si ti ri i, won maa du u, leyin naa o maa sọ pé: Èyin oḡo alujanna, gbére, ko si ikú mọ, eyin oḡo iná, gbére, ko si ikú mọ, leyin naa ni o ka: {Şèkilò oḡo àbámò fún won nígbà tí A bá parí ọrò, (pé kò ní sí ikú mọ, àmọ) won wà nínú igbàgbéra báyí ná} [Maryam: 39], àwon wònyí wa ninu igbagbera ni àwon ará ayé, {won kò sì gbàgbò} [Maryam: 30]”. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi, ki ike ati oḷa Oḷohun o maa ba a, ṣalaye pe won yoo mu iku wa ni oḡo Ajinde, geḡe bii irisi akọ agutan ti o ni funfun ati dudu ninu re, Won maa pè pé: Èyin oḡo alujanna! Won maa garun, won maa gbe ori won sókè, won si maa wò, Ó maa sọ fún won pé: “Şé ẹ mọ èyí? Won maa sọ pé: Bèè ni, ikú niyí, gbogbo won si ti ri i, won si mò ọn. Leyin naa ni olupepe naa maa pe pe: Èyin oḡo ina, won maa ga orun won, won maa gbe ori won sókè, won si máa wò, Ó maa sọ pé: “Şé ẹ mọ èyí? Won maa sọ pé: Bèè ni, ikú niyí, gbogbo won si ti ri i, won si mò ọn;

Wọn maa du u, lẹyin naa ni olupepe naa maa sọ pé: Èyin ọmọ alujanna, ẹ maa wa nibẹ gberẹ, ko si ikú, ẹyin ọmọ ina, ẹ maa wà nibẹ gberẹ, ko si ikú. Ki iyẹn le jẹ alekun idera àwọn mumini, ati ijìyà fun awọn Kèfèrí. Lẹyin náà ni Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa ka: {Şèkilò ọjò àbámò fún wọn nígbà tí A bá parí ọrò, (pé kò ní sí ikú mó, àmó) wọn wà nínú ìgbàgbéra báyii ná, wọn kò sì gbàgbó}. Ni ọjọ igbedide, wọn maa ya àwọn ọmọ alujanna ati awọn ọmọ ina si ọtòtòtò, ọkọ̀ọkan wọn si maa wọ ibi tí ọrò rẹ ba kangun si ti yoo si ẹ gberẹ nibẹ, Alaburu maa ká abamọ; torí pé ko ẹ dáadáa, ati ẹnì tí ó ẹ to kù díẹ kaato; torí ko lékún nibi işẹ rere.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ìkángun ọmọniyan ni ọjọ ikeyin ni gberẹ nínú alujanna tabi iná.
2. Işonilara ti o lagbara nipa ibẹru ọjọ igbedide, àti pé ọjọ abamọ ni.
3. Alaye şişe gberẹ idùnnú àwọn ọmọ alujanna, ati şişe gberẹ ibanujẹ àwọn ọmọ iná.

(65035)

(73) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.» [صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(73) – Láti òdò Umar ọmọ Al-Khattaab- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Oun gbọ ti Anọbi Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe: “Ti o ba je pe ẹ n gbẹkele Ọlọhun gege bi o ti ye ki ẹ gbẹkele E ni, Oun iba pese fun yin gégé bí O ti pese fun awọn ẹye, ti wọn maa jade ni owuro pelu ebi, ti wọn si maa pada ni irọle ti wọn si ti yó.” [O ni alaafia] - [Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Ọjísẹ Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, gba wa niyanju lati gbẹkele Ọlọhun lati mu anfaani wa ati lati yago fun ipalara ninu ọrò aye ati ẹsin. Ko si ẹni ti o le fun èyàn ni nńkan tabi fi nńkan dun èyàn, tabi ko inira ba èyàn tabi ẹ èyàn ni anfaani ayafi Ọlọhun Ọgá-ògo, Ki a si ẹ awọn okunfa ti o maa mu anfaani wa, ti o si maa dènà ipalara, pelu gbigbẹkele Ọlọhun ti òdodo, ti a ba ẹ bẹẹ, Ọlọhun maa pese fun wa bi O ti n pese fun awọn ẹye ti wọn n jade ni owuro pelú ebi. Léyìn naa wọn maa pada ni irọle ti ikun wọn si ti kún, ati pe iṣe ti ẹye yii je ọkan ninu awọn ọnà igbiyanju lati wa jíje-mímu, laisi igbẹkele asán ati iméle.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọlá ti n bẹ fun igbẹkele, ati pe o je ọkan ninu awọn ọna ti o tobi julọ ti a fi maa n wa jíje-mímu.
2. Igbẹkele ko tako ẹṣe awọn okunfà; tori pe o sọ pe jíjádé ni owuro ati pípadà ni irọle lati wa jíje-mímu ko nii tako igbẹkele otitọ.
3. Akolekan Sharia si awọn iṣe ti awọn ọkan; tori pe igbékèlé jé iṣe àtọkànwá.

4. Isomọ awọn okunfa nikan jẹ aipe ninu ẹsin, ti gbigbe awọn okunfa ju silẹ si jẹ aipe ni làákàyè.

(4721)

(74) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(74) – Lati ọdọ Abu Hurairah - ki Ọlọhun yonu si i - ó ọọ pé: Ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ọọ pé: «**Eni ti o n gun nkan ni o maa salamọ si eni ti o n rin, eni ti o n rin ni o máa salamọ si eni ti o jokoo, awọn ti onka wọn kere ni wọn maa salamọ si awọn ti onka wọn ọọ**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ọọ itọsona lo sibi ẹko sisalamọ laarin awọn eeyan "As salaamu alaykum wa rahmotuLloohi wabarakātuHu". Ọmode o wa salamọ si agbalagba, eni ti o n gun nkan o si salamọ si eni ti o n rin, eni ti o n rin o salamọ si eni ti o jokoo, awọn ti onka wọn kere o salamọ si awọn ti onka wọn ọọ.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jijẹ sunnah sisalamọ lori bi hadīth naa ọọ gbe e wa, ti eni ti o n rin ba salamọ si eni ti o n gun nkan ati eyiti o yatọ si iyẹn ninu nkan ti wọn ọọ yẹn, o lẹtọ, sugbọn iyẹn yapa si eyi ti o fi n lọla julọ.
2. Titan salamọ ka lori ọna ti o gba wa ninu hadīth naa ninu awọn okunfa ifẹ ati asopọ lo wa.



3. Ti wọn ba ẹ deede ara wọn ti wọn ba ara wọn dọgba nibi nkan ti wọn darukọ yẹn, nigba naa ẹni ti o loore julọ ninu wọn ni ẹni ti o ba kọkọ salamọ.
4. Pipe ofin yii nibi ẹ́ṣe alaye gbogbo nkan ti ọmọniyan bukaata si.
5. Ikọni ni awọn ẹkọ Isilaamu ati fifun oni iwọ ni iwọ rẹ.

(4243)

(75) - عن أبي ذر رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُمْكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفَجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنِّي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(75) – Láti òdò Abu Dharr- ki Ọlọhun yonu si i-: Láti òdò Anọbi- ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a- ninu ohun ti o gba wa lati ọdọ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- O sọ pe: “Èyin ẹrusin Mi, Emi ẹ abosi ni eewọ fun ara Mi, Mo si ẹ e ni eewọ laarin yin, ẹ ma ẹ abosi si ara yin, ẹyin ẹrú Mi, gbogbo yin ni ẹ sọ̀nù, ayafi ẹni tí Mo ba ẹ imona fun; nitori naa ẹ wa imona lódò Mi, Emi yoo si ẹ amona yin, ẹyin ẹrú Mi, ebi n pa gbogbo yin ayafi ẹni ti mo ba bó; nitori náà, ẹ wá ounjẹ lódò Mi, ẹmi yòò sì bó yín. Èyin ẹrú Mi, gbogbo yin ni ẹ wa ni ihoho ayafi ẹni ti Mo ba da aṣo bo; nitori naa ẹ wa dida aṣo bo yin lódò Mi, maa da aṣo bo yín, ẹyin ẹrú Mi, ẹ n da ẹṣe loru ati ni ọsan, Mo si maa n ẹ aforijin àwọn ẹṣe pata, ki ẹ yaa wa aforijin Mi, maa forí jin yin, ẹyin ẹrú Mi, ẹ ko le de ibi inira Mi débi pé ẹ maa ni Mi lara, ẹ ko si lee debi anfaani Mi debi pe ẹ maa ẹ mi ni anfaani. Èyin ẹrusin Mi, ti ẹni akọkọ yin ati ẹni ti o kẹhin ninu yin, eniyan yin ati awọn alujannu yin, tí wọn ba wa lori ọkàn arákùnrin kan ti o páyà Ọlọhun jù lọ ninu yin, iyẹn ko le nńkan kan kun ninu ọla Mi. Èyin ẹrusin Mi, ti ẹni akọkọ yin ati ẹni ti o kẹhin ninu yin, eniyan yin ati awọn alujannu yin, tí wọn ba wa lori ọkàn arákùnrin kan ti o yapa Ọlọhun jù lọ ninu yin, iyẹn ko ẹ́n nńkan kan kù ninu ọla Mi. Èyin ẹrusin Mi, ti ẹni akọkọ yin ati ẹni ti o kẹhin ninu yin, eniyan yin ati awọn alujannu yin, tí wọn ba dúró lóri ilẹ kan, ki wọn wa maa ẹtọ ẹlọwọ Mi, ki n wa maa fun ẹ̀yàn kòòkan ni ohun ti n beere, iyẹn ko ẹ́n nńkan kan ku ninu ohun ti n be ẹlọwọ Mi, àyàfi gẹgẹ bii ohun ti abere maa dinku ti wọn ba ki i bó inu omi òkun, ẹyin ẹrusin Mi, Mo n ẹ akọsile iṣe yin fun yin, leyin naa Mo maa san ẹsan rẹ fun yin, ẹnikeni ti o ba ri oore, ki o dúpẹ fun Ọlọhun, ẹni ti o ba si ri yatọ si iyẹn, ki o ma ẹ bu ẹnikan ayafi ara rẹ”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Ojiṣe Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, ẹ alaye pe Ọlọhun Oba sọ wipe Oun ti ẹ àbòsí ni eewọ fun ara Oun, O si ẹ àbòsí ni eewọ láarin àwọn ẹ́dá Rẹ; nitori naa ki ẹni kankan má ẹ abosi fun ẹlómíràn, Ati pe gbogbo ẹ́da ni o ẹ́nina kúrò ni oju ọna otitọ afi ẹlẹ itosona ati

kòngé Ọlòhun, ẹnìkẹni ti o ba beere rẹ lọwọ Ọlòhun, Ọlòhun yoo fun un ni kongẹ ati itọsọna, Ati pe awọn ẹda n bukaata si Ọlòhun, wọn si nilo Rẹ ni gbogbo awọn bukaata wọn, ẹnìkẹni ti o ba beere lọwọ Ọlòhun, yoo gbọ bukaata rẹ, yoo si tó o, Wọn sì n dẹsẹ lóru àti ní ọsán, Ọlòhun Ọgá Ọgo a sì máa bo àşírí, a si maa şe amojukuro nígbà tí ẹrú bá tọrọ àforíjín, Wọn ko si ni ikapa lati fi ara ni Ọlòhun tabi şe E ni anfaani kankan, Ti wọn ba si wa lori ọkàn arákùnrin kan ti o paya Ọlòhun ju lọ, ipaya wọn ko şe alekun ọlá Ọlòhun, Ti wọn ba si wa lori ọkàn arákùnrin kan ti o yapa Ọlòhun jù, iyapa wọn ko din nńkan kan kù ninu ọla Ọlòhun; torí pé ọlẹ ni wọn ti wọn si n bukaata si Ọlòhun ni gbogbo işesi ati asiko ati aaye, Oun si ni Ọlórò, mimọ ni fun Un, Ti wọn ba duro ni ààyè kan, èyàn wọn ati alujannu wọn, akọko wọn ati ikeyin wọn, ti wọn wa n tọrọ nńkan lódò Ọlòhun, ki O wa maa fun ẹnì kọọkan wọn ni ohun ti n beere, iyẹn ko din nńkan kan ku ninu ohun ti n bẹ ni ọdọ Ọlòhun, o da bii abere ti wọn ba ki i bọ inu ọkun, leyin naa ki wọn wa mu u jáde, nńkan kan ko dínkù ninu ọkun pẹlú iyẹn, eléyí ri bẹẹ tori pípé ọrò Rẹ, ọgo ni fun Un.

Ati pe Ọlòhun, mimọ ni fun Un, pa işẹ awọn ẹru Rẹ mọ, O si şe àkọsílẹ wọn, leyin naa yoo san wọn ni ẹsan lori rẹ ni Ọjọ Ajinde, ẹnì tí ó bá ri ẹsan işẹ rẹ ni oore, ki o dúpẹ fun Ọlòhun lori pe O fi şe kongẹ lati tele àşe Rẹ, ẹnìkẹni tí ó bá sì rí ẹsan işẹ rẹ ní ohun miiran yàtò sí èyí, kò gbódò dá ẹnì kan lébi bí kò şe ẹmí rẹ ti maa n paşe aburu, èyí tí ó mú kí ó pàdánù.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Hadiisi yii wa nínú ohun ti Anabi, ki ikẹ ati ọla Ọlòhun o maa ba a, gba wa lati ọdọ Oluwa rẹ, ati pe a n pe e ni Hadith Qudsiy tabi Hadith Ilaahiy, oun ni eyi ti gbólóhùn rẹ ati itumọ rẹ wa lati ọdọ Ọlòhun. Sibesibe, ko ni awọn iròyìn Al-Qur'an ti o şe iyatọ rẹ si ohunkohun miiran, gege bii ijọsìn pẹlú kika rẹ, ati síşe imọra ti a ba fẹ kà á, ati ipeniya, ati àní ikapa lati mu irú rẹ wa, ati bẹẹ bẹẹ lọ.

2. Ohun ti ó bá şelè sí àwọn ẹrú bíi ìmò tàbí ìtòsónà, pèlú ìtòsónà àti èkó Ọlòhun ni.
3. Ohunkohun ti o ba şelè si ẹrú ni oore, ninu ọlá Ọlòhun t'O ga ni, ohunkohun ti o ba si şelè si i ni aburú, lati ọdọ ara rẹ ati ife-inu rẹ ni.
4. Ẹnikẹni tí ó bá şe dáadáa jé nípa kongẹ Ọlòhun, ẹsan rẹ sì jé ọlá láti ọdò Ọlórùn, ọpẹ ni fún Un, ẹni tí ó bá sì şe aburú, kò gbọdọ bu ẹni kankan bí kò şe ara rẹ.

(4810)

(76) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(76) – Lati ọdọ Jaabir ọmọ Abdullahi- ki Ọlòhun yonu si awọn mejeeji-dajudaju ojişẹ Ọlòhun- ki ike Ọlòhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: "Ẹ paya abosi, nitori pe abosi jẹ awọn okunkun ni ojo igbedide, ẹ paya ahun, nitori pe ahun lo pa awọn ti wọn şáájú yin run, o ti wọn lati maa ta awọn eje wọn silẹ wọn si sọ awọn eewo wọn di ẹto" [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlòhun ati ọla Rẹ maa ba a- şekilo kuro nibi abosi, ninu rẹ ni: Şişe abosi awọn eniyan ati abosi ara ẹni ati şişe abosi nibi iwọ Ọlòhun- ti ọla Rẹ ga-, Oun ni gbigbe funfun ẹni ti o ni ẹto ni ẹto rẹ ju silẹ, ati pe şişe abosi jẹ okunkun fun awọn ti wọn n şe e ni ojo igbedide latara şişelẹ awọn ile koko ati awọn ibeju, O tun kọ kuro nibi ash-shuhhu, oun ni eyi ti o le koko ninu ahun pẹlu ojúkòkòrò, ninu rẹ ni aşeeto nibi pipe awọn iwọ ti owo ati ilekoko ojúkòkòrò lori aye, Ati pe iran yii ninu abosi ti pa awọn ti wọn şíwájú wa run ninu awọn ijo,

nigba ti o ti wọn lọ sibi pipa awọn kan ninu wọn, ati şişe nnkan ti Olohun şe leewo ninu awọn nnkan eewo leto.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Nina owo ati biba awọn omọ iya kédùn wa ninu awọn okunfa ini ife ara ẹni ati irepo.
2. Ahun ati apoju ahun maa n ti ẹni lọ sibi iyapa ati awọn ibaje ati eşe.
3. İwòye si awọn isesi awọn ijọ İşáájú.

(5787)

(77) – عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيُنْبِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: «{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: 102]» [صحيح] - [متفق عليه]

(77) – Láti òdò Abu Musa- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- so pe: “Dajudaju Olohun maa n lo alabosi lara, titi ti yoo fi mu u ti ko si nii je ki o bo”, o so pe: Leyin naa ni o ka: “{Bayen ni igbamu Olúwa re. Nigba ti Ó ba gba awon ilu alabosi mu, dajudaju Ó maa gba a mu pelu iya eleta-elero t’o le} [Hud: 102]” [O ni alafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Ano- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- n so wa lara kuro nibi itesiwaju ninu abosi dida ese ati şise ebo, ati şise abosi fun awon eeyan nibi eto won; tori pe Olohun maa n lo alabosi lara, O si maa n je ki emi re o gun ti dukia re si tun maa po, ko waa ni kanju fi iya je e, ti ko ba wa ronupiwada, O maa mu u ti ko si nii fi i silẹ fun abosi re ti o po.

Léyìn naa ni Anṓbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa ka: {Báyẹn ni ìgbámú Olúwa re. Nígba tí Ó bá gbá àwọn ilú alábòsí mú, dájúdájú Ó máa gbá a mú pẹlú iyà ełeta-eléro t'ó le} [Huid: 102].

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. O di dandan fun onilaakaye ki o tètè yara ronupiwada, ki o si ma fi aya bale nibi ète Ọlọhun ti o ba ọ wa lori àbòsí.
2. Bi Ọlọhun ọ n lọ àwọn alabosi lara ti ko tete fi iya ọ wọn lati de wọn lẹke ni ati lati ọ adipele iya wọn ti wọn ko ba ronupiwada.
3. Abosi wa ninu awọn okùnfà iyà Ọlọhun fun awọn èyàn.
4. Ti Ọlọhun ba pa abúlé kan run, àwọn ẹni rere le wa ninu ẹ, àwọn wònyí wọn maa gbe wọn dide ni Ọjọ Àjínde lori nńkan ti wọn ku le lori ninu daadaa, ki iya naa o ko wọn sinu ko ni wọn lara.

(5811)

(78) – عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يروي عن ربه عزَّ وجلَّ قال: قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». [صحيح] - [متفق عليه]

(78) – Lati ọdọ Ibnu Abbaas (ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji) Lati ọdọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ninu nńkan ti o gba wa lati ọdọ Oluwa re ti O lágbara ti O gbongbong, o so pe: “Dájúdájú Ọlọhun ko daadaa ati aburu, leyin naa O şalaye iyen, eni ti ó bá gbèrò dáadáa, ti ko wa se e, Ọlọhun maa ko ọ fun un ni ọdọ Re ni dáadáa ti o pé, ti o ba wa gbero re, ti o wa se e, Ọlọhun maa ko ọ fun un ni ọdọ Re ni dáadáa mewáa titi de ilópo eđegberin, titi de ilópo ti o pọ, eni ti o ba gbèrò aburu, ti ko wa se e, Ọlọhun maa ko ọ fun un ni ọdọ Re ni dáadáa ti o pe, ti o ba wa gbero re ti o si se e, Ọlọhun maa ko ọ fun un ni aburu eyokan”. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Ọjíşé Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n şàlàyé pe Ọlọhun ti kádàrá dáadáa ati aburú, leyin naa O şàlàyé fun awon malaika mejèjèjì bi won se maa ko ọ:

Eni ti ó bá gbèrò şíşe dáadáa, won maa ko ọ fun un ni dáadáa eyokan koda ki o ma se e, ti o ba wa se e, won maa se adipele re pelu ilópo mewáa irú re titi de ilópo eđegberin, titi de ilópo ti o pọ, alekun naa maa wa ni ibamu si bi okan ba se ni imokanga sí, ati bi awon èyàn ba se se anfaani latara re si, ati ohun ti o jo iyen.

Eni ti ó bá gbèrò lati se aburu, leyin naa o wa gbe e ju silẹ, won maa ko ọ fun un ni dáadáa, ti ko ba wa raye se e pelu pe ko se awon okunfa re, won ko nii ko nńkan kan, ti o ba gbe e ju silẹ ni ti ikagara, won maa ko aniyàn re fun un, ti o ba wa se e, won maa ko ọ fun un ni aburu eyokan.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şiṣe àlàyé ọ̀la Ọ̀lọ̀hun ti o tobi lori ijo yii nibi adipele àwọn dáadáa ati kikọ̀ wọn ni ọ̀dọ̀ Rẹ̀, ati à̀sísí adipele fun aburu.
2. Pataki aniyan ninu awọn iṣe ati oripa rẹ.
3. Ọ̀lá Ọ̀lọ̀hun ati aanu Rẹ̀ ati dáadáa Rẹ̀ ni pe ẹnì tí o ba gbèrò dáadáa tí kò wá ẹ̀, Ọ̀lọ̀hun maa kọ̀ ọ̀ ní dáadáa.

(4322)

(79) – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْوَخِدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(79) – Lati ọ̀dọ̀ Ibnu Mas’ud- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i-, o sọ̀ pe: Arakunrin kan sọ̀ pe: Irẹ̀ Ọ̀jísé Ọ̀lọ̀hun, nje wọn maa ba wa wí nípa nnkan tí a ẹ̀ ní asiko aimọkan? O sọ̀ pe: “Eni tí o ba ẹ̀ daadaa ninu Isilaamu wọn kò ní ba a wí nípa nnkan tí o ẹ̀ ní asiko aimọkan, ati pe ẹnì tí o ba ẹ̀ aburu ninu Isilaamu wọn maa ba a wí nípa akọ̀kọ̀ ati igbeyin”. [O ni alaafia] - [Ohun tí wọn fí ẹnù kò lé lórí ní]

## Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- n şàlàyé ọ̀la tí o n bẹ̀ fun wiwo inu Isilaamu, Ati pe dajudaju ẹnì tí o ba gba Isilaamu tí Isilaamu rẹ̀ sí daa tí o sí je olumọkanga olododo; wọn kò ní ẹ̀ işirò işé nnkan tí o ba ẹ̀ ní asiko aimọkan ninu awọn eṣe, Ati pe ẹnì tí o ba ẹ̀ aburu ninu Isilaamu pèlú ki o je şoḃe-şelu tabi ki o şeri pada kuro nibi eṣin rẹ̀; wọn maa ẹ̀ işirò işé nnkan tí o ẹ̀ ninu aigbagbo ati nnkan tí o ẹ̀ ninu Isilaamu.

## **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Àkólékàn awọn Sọhaba- ki iyọnu Ọlọhun maa ba wọn- ati ipaya wọn ninu nnkan ti o n bẹ fun wọn ninu awọn işe ti wọn şe ni asiko aimọkan.
2. Isenilojukokoro lori iduroşinşin lori Isilaamu.
3. Ọla ti o n bẹ fun wiwo inu Isilaamu ati pe dajudaju o maa n pa awọn işe işáájú ré ni.
4. Ẹni ti ko şe Isilaamu mo ati şoşe- şelu, wọn yoo şe işirò gbogbo işe kọọkan fun un eyi ti o şáájú ni asiko aimọkan, ati gbogbo eşe kọọkan ti o şe ninu Isilaamu.

(65002)

(80) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَرَزَّوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لِحَسَنٍ، لَوْ نُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَتَزَلُّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68]، وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]. [صحيح] - [متفق عليه]

(80) – Lati ọdọ ọmọ Abbās – ki Ọlọhun yọnu si awọn mejeeji: Dajudaju awọn eeyan kan ninu awọn ẹlẹbọ (awọn ti wọn mu orogun mọ Ọlọhun), ti wọn si pa ọpọlọpọ eeyan, ti wọn tun ti ẹ ọpọlọpọ agbere, ni wọn wa ba Muhammad – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – ni wọn wa sọ fun un pe: Dajudaju nkan ti o n sọ ti o si n pepe si, nkan ti o daa ni, ti o ba fun wa niroo pe aforijin n bẹ fun nkan ti a ẹ, nigba naa ni o sọkalẹ pe {(Àwọn ni) àwọn tí kò pe ọlọhun mīràn mọ Allāhu. Wọn kò pa ẹmí tí Allāhu ẹ (pípa rẹ) ní èèwò àfi ní ọ̀nà ẹ̀tọ. Àti pé wọn kò ẹ zīnā} [Al-Furqān: 68], o tun sọkalẹ pe: {Sọ pé: “Èyin ẹrúsìn Mi, tí ẹ ti dẹ̀sẹ̀ púpọ̀ sí ẹmí ara yín lórùn, ẹ má ẹ sòrètí nù nípa iké Allāhu} [Az-Zumar: 53]. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Awọn ọkunrin kan ninu awọn ẹlẹbọ (awọn ti wọn n mu nkan mii mọ Ọlọhun) wa ba Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, wọn si ti pa eeyan lọpọlọpọ ti wọn ti ẹ ọpọlọpọ agbere, ni wọn wa sọ fun Anabi pe: Dajudaju nkan ti o n pepe si ninu Isilaamu ati awọn ẹkọ rẹ nkan ti o daa ni, sọgbon bawo ni ọrọ wa o ẹ wa jẹ pelu nkan ti a ti ko si ni imu orogun mọ Ọlọhun ati awọn ẹsẹ nlanla, nje ipèsèrẹ wa fun un bi?

Nitori naa ni aaya mejeeji yii ba sọkalẹ, nibi ti Ọlọhun ti gba ironupiwada lẹwọ awọn eeyan pelu pipọ awọn ẹsẹ wọn ati titobi rẹ, ati pe bi ko ba ẹ titori iyen wọn o ba si wa lori sise keferi wọn ati àgbéré wọn, wọn ba si ma wọ inu ẹsin yii.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun Isilaamu ati titobi rẹ, ati pe dajudaju o maa n bi awọn ẹṣẹ ti o ṣaaju rẹ wo.
2. Gbigbaaye ike Ọlọhun pẹlu awọn ẹru Rẹ ati aforijin Rẹ ati amojukuro Rẹ.
3. Ẹṣẹ mimu orogun mọ Ọlọhun ni eewọ, ati Ẹṣẹ pipa ẹmi ni ọna ailetọọ ni eewọ, ati Ẹṣẹ agbere ni eewọ, ati Ẹṣẹ adehun iya fun ẹni ti o ba ẹ awọn ẹṣẹ wonyii.
4. Ironupiwada ododo ti o so papọ mọ imọkanga ati iṣẹ daadaa maa n pa gbogbo ẹṣẹ nla rẹ titi dori iṣẹ keferi si Ọlọhun ti ọla Rẹ ga.
5. Ẹṣẹ ijakan ati kiko irewesi nibi ike Ọlọhun ti mimọ n bẹ fun Un ni eewọ.

(65071)

(81) - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَتُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصَلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَلِمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(81) – Lati ọdọ Hakeem omọ Hizaam- ki Ọlọhun yonu si i-, o sọ pe: Mo sọ pé: Ire Ọjísẹ Ọlọhun, fun mi ni iro nipa nnkan ti mo maa n se wọn ni asiko aimọkan bii saara Ẹṣẹ ati bibọkun kúrò lẹrun ẹru ati dida ibi pọ, nje ẹsan wa nibe? Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “O gba Isilaamu lori nnkan ti o ṣájú ninu daadaa”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n ṣàlàyé pe alaigbagbo ti o ba gba Isilaamu wọn maa san an ẹsan lori nnkan ti o n ẹ ni asiko

aimokan síwájú gbigba Isilaamu rẹ ninu awon işe oloore bii saara işe ati bibokun kúrò lorun eru tabi siso ibi papo.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Dajudaju awon daadaa ti alaigbagbo ba se won ko nii san an lesan lori won ni orun ti o ba ku lori işe aigbagbo rẹ.

(65016)

(82) – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(82) – Lati odo Anas omo Malik- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- so pe: “Dajudaju Olohun ko nii se abosi olugbagbo kan ni ti daadaa ti o ba se, won yoo fun un ni esan re ni aye, won si tun maa san an ni esan pelu re ni orun, sugbon alaigbagbo won maa fun un ni ounjẹ je pelu awon daadaa nnkan ti o ba se ni işe nitori Olohun ni aye, ti o ba ti wa de orun, daadaa kan ko nii maa je tire ti won maa san an lesan pelu re”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- n şalàyé titobi ola Olohun lori awon olugbagbo, ati işe deede Re pelu awon alaigbagbo. Şugbon olugbagbo, esan daadaa ti o ba se ko nii dinku; bi ko se pe won maa fun un ni dáadáa pelu re ni aye lori itele re, pelu nnkan ti won maa fi pamo fun un ninu esan ni orun; won si le toju gbogbo esan naa fun un ni orun. Şugbon alaigbagbo, Olohun maa fun un ni esan nnkan ti o ba se ninu awon daadaa pelu awon daadaa aye, ti o ba ti wa de orun, ko nii si esan kan ti won yoo san an lesan re; nitori pe işe rere ti yoo şeni ni anfaani ni aye ati orun dandan ni ki eni ti o se e je olugbagbo.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Dajudaju ẹni ti o ba ku lori aigbagbo iṣe kankan ko lee ṣe e ni anfaani.

(65015)

(83) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَخْبِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، أَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(83) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu si i-: Lati ọ̀dọ̀ Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a-, ninu nńkan ti o gba wa lati ọ̀dọ̀ Olúwa re tí Ó lágbara ti O gbọ̀nngbọ̀n, O sọ pe: “Eru mi da eṣe kan, o wa sọ pé: Ire Ọ̀lọ̀hun, fi ori eṣe mi jin mi, Ọ̀lọ̀hun Àlekè-ọ̀la wa sọ pé: Erú Mi da eṣe kan, o si mọ pe oun ni Olúwa kan ti maa n ṣe àforíjìn eṣe, ti O si maa n fi iya eṣe je eeyan, leyin naa o tun ṣeri pada si idi eṣe, o wa tun sọ pé: Ire Oluwa mi, fi ori eṣe mi jin mi, Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Re ga tun sọ pé: Erú Mi da eṣe kan, o si mọ pe oun ni Olúwa kan ti maa n ṣe àforíjìn eṣe, ti O si maa n fi iya eṣe je eeyan, leyin naa o tun ṣeri pada si idi eṣe, o wa tun sọ pé: Ire Oluwa mi, fi ori eṣe mi jin mi, Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Re ga tun sọ pé: Erú Mi da eṣe kan, o si mọ pe oun ni Olúwa kan ti maa n ṣe àforíjìn eṣe, ti O si maa n fi iya eṣe je eeyan, maa ṣe ohun ti o ba fé, mo ti fi ori jin ọ̀”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọ̀n fi ẹnụ kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- n gba egbawa láti ọ̀dọ̀ Olúwa re pe ti erú ba da eṣe kan, ti o wa sọ pé: Ire Ọ̀lọ̀hun, fi ori eṣe mi

jin mi, Olohun ti o la Re ga so pe: Erú Mi da eše kan, o wa mo pe oun ni Olúwa kan ti maa n še àforìjìn eše, ti yoo waa bo o ni àšírí, ti yoo si še amojukuro fun un, tabi ki O fi iyà jẹ e lori e, Mo ti fi ori jin in. Léyìn naa ni o tun tun eše da, o wa so pé: Ire Oluwa mi, fi ori eše mi jin mi, Olohun wa so pé: Erú Mi da eše kan, o wa mo pe oun ni Olúwa kan ti maa n še àforìjìn eše, ti yoo waa bo o ni àšírí, ti yoo si še amojukuro fun un, tabi ki O fi iyà jẹ e lori e, Mo ti fi ori jin erú Mi. Léyìn naa ni o tun tun eše da, o wa so pé: Ire Oluwa mi, fi ori eše mi jin mi, Olohun wa so pé: Erú Mi da eše kan, o wa mo pe oun ni Olúwa kan ti maa n še àforìjìn eše, ti yoo waa bo o ni àšírí, ti yoo si še amojukuro fun un, tabi ki O fi iyà jẹ e lori e, Mo ti fi ori jin erú Mi. Ki o maa še ohun ti o ba fẹ lópin igbà ti o ba jẹ pe ti o ba ti n da eše naa ni yoo maa fi eše naa sílè, ti yoo si ká abamo, ti yoo si pinnu pé oun ko nii pada síbè mo, şugbón emí re maa borí re, yoo tun wa da eše naa pada, lópin igbà ti o ba n še báyií, ti o n da eše, ti o si n ronupiwada, maa fi ori jin in; torí pé ìrònúpìwàdà maa n wó ohun ti o ba şáájú re ni.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Gbigbaaye aanu Olohun si awon eru Re, ati pe eše yòowù ki omoniyan da, ohunkóhun yòowù ki o še, ti o ba ti ronupiwada, Olohun maa gba ìrònúpìwàdà re.
2. Eni ti o gbagbo ninu Olohun maa ni irètí amojukuro Olúwa re, o si maa paya iyà Rẹ, yoo waa tètè yára lo ronupiwada, ko si nii tesiwaju nibi eše naa.
3. Májèmú ironupiwada ti o ni alaafia ni: Jijawo kuro nibi eše, ati kika abamo lori e, ati ipinnu pe èyàn ko nii pada sibi eše naa mo. Tí ìrònúpìwàdà naa ba jẹ kúrò nibi awon àbòsí ti a še fún awon èyàn nipa dúkiá, tabi omoluwàbí, tabi emí, o maa še alekun májèmú kerin, oun naa ni: Bíbọ kuro lowo eni tí ó ni eto, tabi fifun un ni eto re.

4. Pataki imọ nipa Ọlọhun, eyi ti yoo sọ ẹrú di onimimọ nipa awọn alamọri ẹsin rẹ, yoo wa maa ronupiwada nígbàkúùgbà ti o ba ti ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀, ko nii sọreti nu, ko si nii ẹ̀siwaju.

(4817)

(84) - عن عليّ قال: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجلٌ من أصحابه استخلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإني حدثني أبو بكرٍ، وصدق أبو بكرٍ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجلٍ يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له»، ثم قرأ هذه الآية: {والَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 135]. [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد]

(84) – Lati ọdọ ‘Aliyy o sọ pe: Dajudaju mo jẹ ọkunrin kan ti o ẹ pe ti mo ba ti gbọ ọrọ kan lati ọdọ ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - Ọlọhun maa n fi nkan ti O ba fẹ ẹ mi ni anfaani pelu rẹ, ti enikeniba wa soro fun mi ninu awon saabe rẹ (Anabi) maa ni ki o bura, ti o ba ti wa bura fun mi maa gba a gbọ, Abubakar wa soro fun mi, ododo si ni Abubakar so, o so pe: Mo gbọ ti ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n so pe: «**Ko si enikankan ti yio da esẹ kan, leyin naa ni o wa dide ti o si se imora, leyin naa ni o wa kirun, leyin naa o wa aforijin Ọlọhun, ayaafi ki Ọlọhun se aforijin fun un**», leyin naa ni o wa ka aaya yii: {Awon ti (o je pe) nigba ti won ba se ibaje kan tabi ti won ba sabosi si emi ara won, won a rantí Allāhu, won a si toro aforijin fun esẹ won} [Āl ‘Imraan: 135]. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Nasaa'iy ni won gba a wa nínú al-Kubro, ati Ibnu Maajah ati Ahmad]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - funni niroo pe dajudaju ko si ẹru kan ti yio da esẹ kan, ti yio wa se aluwala daadaa, leyin naa ti yio ki irun rakaah meji pelu aniyani ituuba kuro nibi esẹ rẹ yii, leyin naa ti



o wa aforijin Ọlọhun, ayaafi ki Ọlọhun fi ori jin in. Leyin naa ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa ka ọrọ Ọlọhun ti ọla Re ga ti o so pe: (Àwọn tí (ó jé pé) nígbà tí wọn bá ẹ ibàjé kan tàbí tí wọn bá ẹ̀sẹ̀ sí sí ẹ̀mí ara wọn, wọn á rántí Allāhu, wọn á sì torọ̀ àforíjìn fún ẹ̀sẹ̀ wọn, - Ta sì ni Ó n forí àwọn ẹ̀sẹ̀ jin (ẹ̀dá) bí kò ẹ̀ Allāhu. Wọn kò sì takú sórí ohun tí wọn ẹ̀ nígbà tí wọn mò (pé ẹ̀sẹ̀ ni).) [Āl ‘Imraan: 135].

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şiṣe lojukokoro lori irun leyin naa wiwa aforijin leyin eṣe.
2. Gbigbaaye aforijin Ọlọhun ti O biyi ti O gbongbọn ati gbigba tituba ati iwaforijin Re.

(65063)

(85) – عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(85) – Lati ọdọ Abu Mūsa - ki Ọlọhun yonu si i - lati ọdọ Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o so pe: «**Dajudaju Ọlọhun ti O biyi ti O gbongbọn maa n tẹ ọwọ Re ni oru lati gba tuuba ẹni ti o ba da eṣe ni ọsan, O si tun maa n tẹ ọwọ Re ni ọsan lati gba tuuba ẹni ti o da eṣe ni oru titi oorun o fi yọ ni ibi ti o ti maa n wọ**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n funni ni iro pe: Dajudaju Ọlọhun ti ọla Re ga maa n gba tituba awon eru re, ti eru ba da eṣe kan ni ọsan ti o si tuuba ni oru Ọlọhun o gba tuuba re, ti o ba si da eṣe ni oru ti o wa tuuba ni ọsan Ọlọhun a gba tuuba re, Ọba ti mimọ n be fun Un maa n tẹ ọwọ Re fun tuuba ni ti idunnú si i ati gbigba a, ati pe ilekun

tituuba o ye ni nkan ti won maa si sile titi oorun o fi yo nibi ti o ti n wo ni ti ikede titan ayé, ti o ba ti wa yo dajudaju ilekun tituuba ti di titi niyen.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Gbigba tuuba n te síwájú lopin igbà tí ilekun re ba si wa ni şişì sile, ati pe won maa ti ilekun re pelu yiyò oorun ni ibuwo re, ati pe ki omoniyan o tuuba siwaju ipoka iku, oun naa ni ki emi de onà ofun.
2. Ki eeyan ma so irèti nu tori eše, dajudaju amojukuro Olohun ti mimò n be fun Un ati ike Re nkan ti o gbaaye ni, ati pe ilekun tituuba wa ni şişì sile.
3. Awon majemu tituuba: Akoko: Jijawo kuro ninu eše, elekeji: kika abamo l'ori şise é, eleketa: Ipinnu lati ma pada si ibe mo laélalé, eyi ni nibi awon eto Olohun ti ola Re ga, amo ti o ba wa sokò mo eto awon eru, nigba naa won se e ni majemu tituuba ki o da eto yen pada si odo eni ti o ni i, tabi ki eni ti o ni eto yen o yaafi re.

(4318)

(86) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

[متفق عليه] - [صحيح]

(86) – Lati ọdọ Abu Hurayra – ki Ọlọhun yonu si i– dajudaju Ojiṣe Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: «**Oluwa wa ti ọla Re ga maa n sọkalẹ ni gbogbo oru si sanmọ aye nigba ti o ba ṣeku idamẹta igbeyin, yio wa maa sọ pe: «Tani yio pe Mi ki n maa da a lohun? Tani yio bi Mi leere ki n si maa fun un? Tani yio wa aforijin Mi ki n si ṣe aforijin fun un?»**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ṣe alaye pe dajudaju Ọlọhun ti ọla Re ga maa n sọkalẹ ni gbogbo oru si sanmọ aye nigba ti o ba ku idamẹta igbeyin ninu oru, O si tun n ṣe awọn ẹru Re ni ojukokoro ki wọn o pe E, pe Oun yio jẹ ipe ẹni ti o ba pe Oun, O si tun ṣe wọn ni oju oyin ki wọn o bi I leere nkan ti wọn n fẹ, pe Oun yio fun ẹni ti o ba bi Oun leere, O si tun pe wọn sibi ki wọn wa aforijin Re nibi awọn ẹṣe wọn pe Oun maa n ṣe aforijin fun awọn ẹru Oun ti wọn jẹ olugbagbo ododo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun idamẹta ti o gbeyin ni oru ati irun kiki ati adua ṣiṣe ati wiwa aforijin ninu rẹ.
2. O tọ fun Musulumi nigba ti o ba gbọ hadiisi yii ki o pọ ni ojúkòkòrò lori lilo awọn asiko gbigba adua.

(10412)

(87) - عن الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - وَأَهْوَى الثُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(87) – Láti òdò An-Nuhmaan oṃo Basheer- ki Oṣhun yonu si i- o so pé: Mo gbọ lenu ojise Oṣhun- ki ike Oṣhun ati ọla Re maa ba a- ti o n so pe- An-Nuhmaan wa na ika re méjèjè si etí re méjèjè: “Dajudaju nṅkan ẹto fi ojú hàn, dájúdájú nṅkan eewo naa fi ojú hàn, o wa n be láàrin àwọn méjèjè àwọn nṅkan ti wọn ruju, ti ọpọlọpọ àwọn èyàn ko si mo wọn, ẹni tí ó bá ọra fun awon iruju naa, o ti wa mimo fun ẹsin re ati omoluwabi re, ẹni tí o ba ko sinu àwọn iríjú naa, yoo ko sinu nṅkan eewo, o da gege bii adaranje ti n da ẹran je ni etí ilẹ ti wọn dá ààbò bọ, o sunmo ki o da ẹran wo inu re. E teti e gbọ, dájúdájú gbogbo o ba ni o ni ilẹ ti wọn dá ààbò bọ. E teti e gbọ, ile Oṣhun ti a da ààbò bọ ni àwọn nṅkan ti O se ni eewo, e teti e gbọ, dájúdájú baasi ẹran kan n be ninu ara, ti o ba ti daa, gbogbo ara ti daa, ti o ba si ti baje, gbogbo ara ti baje, e teti e gbọ, oun naa ni okan”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anoḃi- ki ike Oṣhun ati ọla Re maa ba a- n ṣàlàyé òfin kan ti o kári nibi awon nṅkan, o si pin si meta ninu ọria: Ẹto ti o fi ojú hàn, ati eewo ti o fi ojú hàn, ati awon alamori kan ti wọn ruju ti idajo wọn kò hàn nipa pe se ẹto ni abi eewo, ọpọlọpọ ninu awon èyàn ko mo idajo wọn.

Eni ti o ba gbe awon nṅkan iruju yen ju sile, ẹsin re maa ni àlàáfia pẹlu jíjinnà sí kiko sinu nṅkan eewo, omoluwabi re naa si maa ni àlàáfia kuro nibi ọrò àwọn èyàn pẹlu nṅkan ti wọn yoo fi maa bu u ti o ba se nṅkan iríjú yii. Eni ti ko ba jinnà si awon nṅkan iríjú, ninu ki o ko sinu

ǹnkan eewo, tabi ki awon eeyan bu enu ate lu omoluwabi re. Ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- fi akawe kan lele lati salaye isesi eni ti o ba n se awon ǹnkan iruju pe o da gege bii adaranje ti n da eran re je ni tosi ile kan ti eni ti oni i ti da aabo bo o, o sunmo ki awon eran re je ninu ile ti a da aabo bo yii tori wiwa won ni tosi ibe, be naa ni eni ti n se nkan ti iriju wa ninu e, pelu iyen o ti n sunmo ǹnkan eewo, o si sunmo ki o ko sinu re. Leyin re ni Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- wa so pe baasi eran kan n be ninu ara (oun naa ni okan), ara yoo maa daa pelu didara re, o si maa baje pelu bibaje re.

### **Lara awon anfani hadisi naa:**

1. Sisenilokokoro lati gbe ǹnkan iruju ju sila, eyi ti idajo re ko han.

(4314)

(88) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنْتُ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَحُدُّهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

[صحيح] - [رواه الترمذي]

(88) – Lati oḍo Ibnu Abbas- ki Olohun yonu si awon mejeeji- o so pe: “Mo wa leyin Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ni ojo kan, o wa so pe: “Ire omokunrin yii, emi yoo ko o ni awon oro kan pe: Maa so Olohun, yoo si daabo bo o. Maa so Olohun, iwọ yoo ri I ni iwaju re. Ti o ba beere, beere lowo Olohun, ati pe nígba tí o ba wa iranlowo, wa iranlowo Olohun. Mo pe ti gbogbo eḍa ba pejo lati se nkan lati se anfaani fun o, won ko nii se anfaani kankan fun o rara ayafi pelu nkan ti Olohun ti ko fun o. Ati pe ti won ba pejo lati se nkan lati se ipalara fun o, won ko nii se ipalara fun o rara ayafi pelu nkan ti Allah ti ko fun o. Won ti gbé awon ikowe soko, awon takada si ti gbe.” [O ni alafia] - [Tirmiziy ni o gba a wa]

## Àlàyé:

Ibnu Abbaas- ki Olohun yonu si i- n so pe oun kere nigba ti oun n gun nkan ogun pelu Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a-, o wa so pe: Mo maa ko e ni awon nkan kan ti Olohun maa je ki won se o ni anfaani:

So Olohun pelu siso awon ase Re ati jijnna si awon nkan ti O ko, ki O maa ri o nibi itele ase Re ati awon ise ti a fi n sunmo Olohun, ki O si ma ri o nibi awon iyapa ati ese, ti o ba se be, esan re ni ki Olorun daabò bo o lowo nkan ikorira ayé ati ojo ikeyin, yoo si ran o lowo ninu ise re nibikibi ti o ba lo.

Ti o ba fe toro nkan, Olohun nikan ni ki o bi; tori pe Oun nikan ni O maa n da onibeere lohun.

Ti o ba fe iranlowo, Olohun nikan ni ki o wa iranlowo Re.

Ki o ni amọdaju pe anfaani kankan ko lee şelè si ẹ kódà ki gbogbo àwọn ará ilè kójọ lati şe ọ ni anfaani ayafi ohun ti Ọlọhun ba kọ fun ẹ, inira kankan ko si lee şelè si ẹ kódà ki gbogbo àwọn ara ilè kójọ láti fi inira kan ọ àyàfi ohun tí Ọlọhun ba ti kádàrá fun ẹ.

Ati pe Ọlọhun ti kọ àlámòrì yii, O si kádàrá rẹ ni ibamu si ogbón àti imọ Rẹ, ko si àyípadà fun nńkan ti Ọlọhun kọ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Pataki kíkọ àwọn ọmọ kéékèèké ni ọrọ ẹsin bii imọ imu-Ọlọhun-lọkan àti àwọn ẹkọ ati nńkan ti o yatọ si ìyẹn.
2. Ẹsan maa wa latara iran işẹ.
3. Pipaşẹ igbarale Ọlọhun, ati igbẹkẹle E yatọ si ẹlomiran, Ó sì dára ni Alámòójútó.
4. Igbagbọ nínú kádàrá ati yiyọnu si i, ati pe Ọlọhun ni O kádàrá gbogbo nńkan.
5. Ẹni ti o ba ra àşẹ Ọlọhun lare, Ọlọhun maa ra oun naa lare, ko si nii şọ ọ.

(4811)

(89) – عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِيمَ». [صحيح] - [رواه مسلم وأحمد]

(89) – Lati ọdọ Sufyan ọmọ Abdullahi Ath-Thaqoofiy- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo sọ pé: Ire ojise Ọlọhun, sọ ọrọ kan fun mi ninu Isilaamu ti mi ko nii bi enikeni leere nipa re yàtò si e, o sọ pe: "Sọ pe: Mo gbagbo ninu Ọlọhun, leyin naa ki o duro deede". [O ni alaafia] - [Muslim ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Saabe Sufyan ọmọ Abdullahi- ki Ọlọhun yonu si i- bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere lati kọ oun ni ọrọ kan ti o ko awon itumọ Isilaamu sinu, ti oun maa dirọ mọ ọn, ti oun ko si nii bi eni ti o yàtò si i leere nipa re? Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ fun un pé: sọ pe Mo mu Ọlọhun lẹkan, mo si gbagbo pe Oluwa mi ni ati Ọlọhun mi ati Aşedá mi ati Eni ti maa maa jọsin fun lododo ti ko si orogun fun Un, Leyin naa, yoo te fun itele Ọlọhun pelu şise awon ọran- anyan Ọlọhun ati gbigbe awon eewo Ọlọhun ju silẹ ti yoo si maa tesiwaju lori re.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ipile esin ni nini igbagbo ninu Ọlọhun pelu ije Oluwa Re ati ije Ọlọhun Re ati awon oruko Re ati awon iroyin Re.
2. Pataki iduro şinşin leyin igbagbo, ati itesiwaju nibi ijọsin, ati fifi esẹ rinle lori iyen.
3. Igbagbo je majemu itewogba awon işe.
4. Nini igbagbo ninu Ọlọhun, ko nnkan ti adisokan re je dandan sinu ninu awon adisokan igbagbo ati awon ipile re, ati nnkan ti o tele iyen ninu awon işe okan, ati itele ati gbigba fun Ọlọhun ni kọkọ ati ni gbangba.



5. Iduro şinşin ni ki èyàn má kúrò ni oju ọna, pẹlu şişe awọn nnkan ti wọn je dandan ati gbigbe awọn nnkan ti a ko ju silẹ.

(65018)

(90) – عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى». [صحيح] - [متفق عليه]

(90) – Lati oḍo An-Nu‘mān oṃo Bashīr - ki Oḷohun yonu si i - o so pe: Ojişe Oḷohun - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - so pe: «Apejuwe awọn Mumuni nibi nini ife ara won ati kike ara won ati nini aanu ara won da gege bi apejuwe odidi ara, nigba ti orike kan ba n ke irora gbogbo ara yoku ni yio para po pẹlu re nibi aisun ati igbona. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - se alaye pe dajudaju o je dandan ki isesi awon Musulumi pẹlu ara won o maa je nibi nini ife daadaa ati ike ati ikunlowo ati aranşe, ati titara pẹlu nkan ti o ba sele si won ni inira, gege bii ara kan soso, nigba ti orikée kan ninu re ba se aisan, gbogbo ara ni yio ba a se papo nibi aisun ati igbona.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. O to (o je dandan) gbigbe awon iwọ awon Musulumi tobi ati sişe ojokoro lori ikun won lowo ati ki apakan won o maa şàánú apa miran.
2. O to (o je dandan) ki o maa be laarin awon olugbagbo ife ati aranşe.

(4969)

(91) – عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(91) – Lati oḍo Uthman oḗo Affan- ki Oḗhun yonu si i- o so pe: Ojiṣe Oḗhun- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- so pe: “Eni ti o ba ṣe aluwala ti o si ṣe aluwala naa daadaa, awon aṣiṣe re maa jade kuro lara re titi yoo fi maa jade lati abe awon eekanna re”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- n so pe dajudaju eni ti o ba ṣe aluwala pelu ṣiṣe akiyesi awon sunna aluwala ati awon ekore, iyen maa wa ninu awon okunfa pipa awon esere ati pipa asise re, titi awon esere re yoo fi jade labere awon eekanna owo re mejeeji ati ti esere re mejeeji.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣenilojukokoro lori ini akolekan kikore aluwala ati sunnah re ati awon ekore, ati ṣiṣe isere pelu iyen.
2. Oḗa ti o n bere fun aluwala, ati pe o jere ipa esere keekeke re, sugbon awon esere nla, ironupiwada jere dandan lati pa won re.
3. Majemu jijade awon asise ni pipe aluwala ati ṣiṣe e laisi alebu kankan gege bi Anabi- ki ike Oḗhun ati oḗa Re maa ba a- se salaye re.
4. Pipa esere re ninu hadisi yii jere nnkan ti a dere pelu ijina si awon esere nla ati ironupiwada kuro nibere, Oba ti oḗa Re ga so pere: (Ti ere ba jinnasi awon esere nlanla ti A kore fun yin, A maa pa awon iwada adaa yin re fun yin) (An-Nisa: 31).

(6263)

(92) - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيصَ بُنَيْتٍ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرَفْنَا، وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى. [صحيح] - [متفق عليه]

(92) – Lati oḍo Abu 'Ayyub Al-Ansari- ki Oḷohun yonu si i-, dajudaju Anabi- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- so pé: «**Ti ẹ ba ti wa si aaye igbõnse yin ẹ ko gbõḍo da oju kọ kibula, ẹ ko si tun gbõḍo da eyin kọ o, amọ ẹ daju kọ ila oorun tabi iwọ oorun**» Abu Ayyūb so pe: A wa si Shām ti a si ri awon ile igbõnse ti won ti mo daju kọ kibula, nitori naa a maa n ye si egbe, ti a si tun maa n wa aforijin Oḷohun ti oḷa Re ga. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a- kọ fun eni ti o ba fe gbọ bukaata ito tabi igbe ki o da oju kọ kibula ati agbegbe kaaba, ki o si ma tun da eyin kọ o; amọ o je dandan fun un ki o yi si ila oorun tabi iwọ oorun ti kibula re ba jo kibula awon ara Madinah. Leyin naa ni Abu Ayyūb wa funni ni iro pe nígà tí won de Shām won ri awon ile igbõnse nibe ti won ti pese kale fun gbigbo bukaata ti won da oju won kọ kaaba, nitori naa won maa n yi ara won kuro ni kibula, ti won si tun maa n toro aforijin Oḷohun pelu bẹ.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ogbon ti o n be nibi iyen ni gbigbe kaaba abiyi tobi ati sise aponle re.
2. Wíwá aforijin leyin jijade kuro ni aaye igbo bukaata.
3. Didara ikonileko Anabi - ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a -; latari pe nígà tí o daruko nkan ti won kọ, o toka si eyi ti o letoo naa.

(93) – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(93) – Lati ọdọ Abu Qatāda- ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**Ẹnikeni ninu yin o gbọdọ fi ọwọ ọtun re mu nkan ọmọkunrin re nigba ti o ba n tọ, ko si gbọdọ fi ọwọ re ọtun ṣe imọra nibi igbọnsẹ, ko si gbọdọ fẹ atẹgun si inu ife imumi**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣàlàyé awọn ẹkọ kan; nigba ti o kọ ki ọkunrin fi ọwọ ọtun re gba oko re mu nigba ti o ba n tọ, ati lati mu ẹgbin kuro niwaju tabi ẹyin pelu ọwọ re ọtun; nitori pe ọwọ ọtun wọn pese re fun awọn iṣe rere ni, Gege bi o se ko fun ọmọniyan lati mi sinu igba ti o fe mu nibe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye gbigba iwaju Isilaamu ninu awọn ẹkọ ati imọtoto.
2. Jijina si awọn nnkan idòtí, ti ko ba wa si ibuyẹ afi ki o se e, ki o yaa je pelu ọwọ osi.
3. Alaye iyi ti o n be fun ọwọ ọtun ati ọla ti o n be fun un lori ọwọ osi.
4. Pipe Sharia Isilaamu ati kikun awọn ẹkọ re.

(3079)

(94) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(94) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - lati ọdọ Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o sọ pe: «**Ọlọhun o nii gba irun ẹnikeni ninu yin ti o ba ti ni ẹgbin lara titi ti yio fi ẹ aluwala**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹ alaye pe dajudaju ninu awọn majemu nini alafia irun ni: Imọra, nitori naa o je dandan fun ẹni ti o ba fe ki irun ki o ẹ aluwala ti o ba ẹ pe ọkan ninu awọn nkan ti o maa n ba aluwala je ba ẹle si i; gege bii igbe tabi ito tabi oorun tabi nkan ti o yatọ si i.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Wọn o nii gba irun ẹni ti o ni ẹgbin lara titi ti yio fi ẹ imọra pelu iwe kuro nibi ẹgbin nla ati pelu aluwala kuro nibi ẹgbin kekere.
2. Aluwala oun ni bibu omi ati yi yi i po ninu ẹnu ati titu u jade, leyin naa ni fifi eemi re fa omi si inu imu, leyin naa ni fifin in jade, leyin naa ni fifọ oju ni ẹmẹta, leyin naa ni fifọ ọwọ mejeeji de igunpa ni ẹmẹta, leyin naa ni pipa gbogbo ori ni ẹkan, leyin naa ni fifọ ẹse mejeeji de koko ẹse ni ẹmẹta.

(3534)

(95) – عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى. [صحيح بشواهده] - [رواه مسلم]

(95) – Lati oḍo Jaabir - ki Olohun yonu si i - o so pe: Umar omo Khatob fun mi niroo pe: Dajudaju arakunrin kan še aluwala ni o wa fi aaye eekanna silẹ nibi eṣe re, ni Anabi - ki ike ati oḷa Olohun maa ba a - wa ri i ti o si so pe: «Pada ki o si lo še aluwala re daadaa» ni o ba pada, leyin naa ni o kirun. [O ni alaafia pẹlú àwọn ẹrì re] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Umar - ki Olohun yonu si i - funni niroo pe dajudaju Anabi - ki ike ati oḷa Olohun maa ba a - ri arakunrin kan ti o ti pari aluwala re, ti o wa fi deede eekanna silẹ nibi eṣe re ti ko mu omi aluwala de ibe, Ni o wa so leni ti o na'ka si aaye aṣeeto yen: Pada ki o lo še aluwala re daadaa ki o si pe e ki o si tun fun oríkèe koḷokan ni eto re ninu omi, Ni arakunrin naa ba pada ti o si lo pe aluwala re leyin naa ni o kirun.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jije dandan yiyara lati paṣe daadaa, ati titọ alaimoḷokan ati onigbagbe sona, pataki julọ ti bibaje ijosin ba maa je yo latara aidara yen.
2. Jije dandan fifi omi kari gbogbo ara, ati pe eni ti o ba fi ipin (aaye) kan ninu oríkèe ara silẹ - koda ki o ma to nkankan - aluwala re o ni alaafia o si tun je dandan fun un ki o tun un še tí alaafọ yen ba ti gun.
3. Ṣiṣe imaa še aluwala daadaa ni ofin, ati pe iyen ni pipe e ati ṣiṣe e daadaa lori ojupona ti ofin fi paṣe re.
4. Eṣe mejeeji ninu awon oríkèe aluwala ni won wa, pipa mejeeji o si leṣe to, bí kò še pe ko si ibuyẹ kuro nibi fifo (eṣe mejeeji).

5. Yiyara ɓe awon orikée aluwala tele ara won je nkan to leɗ to, ni eyi ti o ɓe pe yio fo orikée koƙkan ŝiwájú ki eyi tí o ɓaaju re o to gbɛ.
6. Aimoƙan ati igbagbe won o lee bi oranyan wo, nkan ti won le mu kuro ni eɓe, nitori naa arakunrin ti ko ɓe aluwala re daadaa latara aimoƙan re Anabi - ki ike ati ɔla Olohun maa ba a - o bi oranyan wo fun un, oun naa ni aluwala, o tun pa a l'aɓe ki o tun un ɓe ni.

(8386)

(96) – عن عمرو بن عامرٍ عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزئُ أحدنا الوضوء ما لم يُحدِث. [صحيح] - [رواه البخاري]

(96) – Lati odo ‘Amru omo ‘Aamir lati odo Anas omo Malik o so pe: Anabi – ki ike ati ɔla Olohun maa ba a – je eni ti maa n ɓe aluwala fun gbogbo irun, mo wa so pe: Bawo ni eyin ɓe maa n ɓe? O so pe: Aluwala eyoƙan maa n to fun enikenin ninu wa lopin igba ti ko ba ti da egin. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ɔla Olohun maa ba a – je eni ti maa n ɓe aluwala fun gbogbo irun oranyan koda ki aluwala re o ma baje; iyen ni lati fi gba eƙan ati ɔla.

O si tun letoo ki o ki ju irun oranyan eyoƙan lo pelu aluwala eyoƙan lopin igba ti o ba si ni aluwala.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Eyi ti o poju ninu ise Anabi – ki ike ati ɔla Olohun maa ba a – oun ni siɓe aluwala fun gbogbo irun; lati fi wa eyi ti o pe juloo.

2. Ǹnkan ti a fẹ ni ̀sife aluwala fun gbogbo irun.
3. Liletojo kiki irun ti o po ju eyokan lo pelu aluwala eyokan.

(65080)

(97) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً. [صحيح] - [رواه البخاري]

(97) – Lati odo omọ Abbās – ki Olọhun yonu si awon mejeeji – o so pe: Anabi – ki ike ati ola Olọhun maa ba a - se aluwala ni eyokokan. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ola Olọhun maa ba a – je eni ti o se pe ni awon igba miran ti o ba se aluwala yio fo orikée kokan ninu awon orikée ara re ni ekan, ti yio fo oju – ninu re ni yiyo enu ati fifin imu -, ati owo mejeeji ati ese mejeeji ni ekan, ati pe eleyii ni odiwon ti o je dandan.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Eyi ti o je dandan nibi fifo awon orikée ara ni ifo ekan, eyi ti o ba si lekun nkan ti won fe ni (sunnah).
2. Sife aluwala ni eyokokan ni ofin ni awon igba miran.
3. Nnkan ti a se lofin nibi pipa ori ni ekan.

(65081)



(98) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

[صحيح] - [رواه البخاري]

(98) – Lati ọḁo Abdullahi ọmọ Zaid- ki Ọlọhun yọnu si i-: Dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ẹe aluwala leẹmeji meji. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- nigba mii ti o ba fe ẹe aluwala, o maa n fo gbogbo orikee ninu awon orikee aluwala leẹmeji, o maa fo oju- ti gbigbo enu ati fifa omi simu n be nibe- ati owọ mejeeji ati esẹ mejeeji leẹmeji.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Eyi ti o je dandan ni fifo awon orikee lekan ati pe eyi ti o ba lekun je nnkan ti a fe.
2. Sise lofin sise aluwala leẹmeji meji nigba mii.
3. Nnkan ti a se lofin nibi pipa ori ni ekan.

(65082)

(99) - عَنْ مُحَمَّدَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رَجُلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ حَوْ وَضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ حَوْ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(99) – Lati ọḍọ Humraan ẹru Uthman ọmọ ‘Affan pé o ri Uthman ọmọ ‘Affan ti o beere fun omi aluwala, o ti ọwọ rẹ mejeeji bọ inu igba rẹ, o fọ mejeeji leḗmẹta, leyin naa o ti ọwọ rẹ ọtun bọ inu omi aluwala, leyin naa o fi omi yọ ẹnu rẹ o si fin in simu o si fin in síta, leyin naa o fọ oju rẹ leḗmẹta, ati ọwọ rẹ mejeeji titi de igunpa rẹ mejeeji leḗmẹta, leyin naa o pa ori rẹ, leyin naa o fọ gbogbo ẹṣẹ rẹ leḗmẹta, leyin naa o sọ pe: Mo ri Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o n ẹ aluwala gege bi mo ẹ ẹ aluwala mi yi, o wa sọ pe: “Eni ti o ba ẹ aluwala gege bi mo ẹ ẹ aluwala mi yii leyin naa o wa ki rakah meji ti ko ba ẹmi rẹ soro nibi mejeeji, Ọlọhun yoo fori nnkan ti o síwájú ninu ẹṣẹ rẹ jin in”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Uthman- ki Ọlọhun yonu si i- kọ wa ni bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ẹ maa n ẹ aluwala pelu oju ọna fifi ẹ ẹ ẹ; ki o le baa kun ni alaye, leyin naa o beere fun omi ninu igba, o wa da a si ọwọ rẹ mejeeji leḗmẹta, leyin naa o ti ọwọ rẹ ọtun bọ inu igba, o fi bu omi o si da a si ẹnu rẹ o si mu u jáde, leyin naa o fin omi fun ara rẹ sinu imu rẹ, leyin naa o mu u sita o si fin in síta, leyin naa o fọ oju rẹ leḗmẹta, leyin naa o fọ ọwọ rẹ mejeeji pelu igunpa rẹ mejeeji leḗmẹta, leyin naa o mu ọwọ rẹ re koja lori ori rẹ ni nnkan ti o tutu fun omi leḗkan, leyin naa o fọ ẹṣẹ rẹ mejeeji pelu kokose rẹ mejeeji leḗmẹta.

Nigba ti Uthman- ki Ọlọhun yonu si i- pari o sọ fun wón pe dajudaju oun ri Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o ẹ aluwala gege

bii aluwala yii, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa fun wọn ni iro idunnu pe dajudaju ẹni ti o ba ẹ aluwala gẹgẹ bii aluwala rẹ, ti o wa ki rakah meji, ni ẹni ti o n wa ni irelẹ ti ọkan rẹ si wa lori irun niwaju Oluwa rẹ- Alagbara ti O gbongbon- nibi mejeeji, dajudaju Ọlọhun yoo san an lẹsan lori aluwala ti o pe yii ati irun ti o mọ kanga yii pelu aforijin nnkan ti o ẹiwájú ninu awon ẹẹ rẹ.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Ẹṣe fifọ ọwọ mejeeji ni nnkan ti a fẹ ẹiwájú titi mejeeji bọ inu igba ni ibere aluwala, ti o ba ẹ pe ko dide lati ojú orun, ẹgbón ti o ba ẹ pe o ji lati oju orun oru, fifọ mejeeji jẹ dandan.
2. O tọ fun olukọ lati tọ oju ọna ti o sunmọ julọ sibi agboye ati irinlẹ imọ lodọ oluwa imọ, ninu iyẹn ni kikọ awon eniyan lẹkọ pelu iṣe.
3. O tọ fun olukirun lati ti awon ero ti wọn so pọ mọ awon airoju aye dānù, ati pe pipe irun n bẹ nibi ki emi wa nibẹ, ti ko ba ri bẹ, àtilà nibi awon ero maa n ẹoro, o wa jẹ dandan fun un lati ja emi rẹ logun ki o si ma túra silẹ nibi iyẹn.
4. Ẹṣe bibere pelu apa otun ni nnkan ti a fẹ nibi aluwala.
5. Ẹṣe titotelela laaarín fifi omi yọ ẹnu ati fifin omi simu ati fifin in sita lofin.
6. Ẹṣe fifọ oju ati ọwọ mejeeji ati ẹẹ mejeeji lẹmẹta ni nnkan ti a fẹ, ati pe eyi ti o jẹ dandan ni fifọ wọn lẹkan.
7. Aforijin Ọlọhun fun nnkan ti o ẹiwájú ninu awon ẹẹ wa lori akojọpọ alamọri méjì: Aluwala, ati kiki rakah méjì, lori iroyin ti wọn darukọ ninu Hadiisi.
8. Aala n bẹ fun gbogbo orikee ara kọkan ninu awon orikee aluwala: Aala oju ni: Lati ibi ti irun ori ti bẹrẹ, titi de ibi ti o

wálẹ̀ ninu irungbọ̀n ati agbọ̀n ni òró, ati lati eti kan si keji ni ibu. Aala ọ̀wọ̀ ni: Lati awọ̀n eteeti awọ̀n ọ̀mọ̀nika titi de igunpa, oun ni ibi asopọ̀ laaarín ọ̀wọ̀ ati apa. Aala ori ni: Lati ibi ti irun ti maa n saaba hù nibi ẹ̀gbẹ̀ oju si oke ọ̀run, ati pe pipa eti mejeeji wa lara ori. Aala ẹ̀şẹ̀ ni: Gbogbo ẹ̀şẹ̀ pata pelu ibi asopọ̀ ti o wa laaarín rẹ̀ ati laaarín ojugun.

(3313)

(100) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثَمًّا لِيَنْتُرُ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ». ولفظ مسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(100) – Lati ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu si i- dajudaju ojişẹ̀ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- sọ̀ pe: "Ti ẹnikẹ̀ni ninu yin ba şẹ̀ aluwala ki o ya fi omi si imu rẹ̀ lẹyin naa ki o fin in síta, ẹni ti o ba fẹ̀ fi okuta mọ̀ra ki o ya şẹ̀ e ni witiri, ti ẹnikẹ̀ni ninu yin ba ji lati oju orun rẹ̀ ki o yaa fọ̀ ọ̀wọ̀ rẹ̀ síwájú ki o to ti mejeeji bọ̀ inu omi aluwala rẹ̀, nitori pe ẹnikẹ̀ni ninu yin ko mọ̀ ibi ti ọ̀wọ̀ rẹ̀ wa moju". Ati ẹ̀gbawa Muslim: "Ti ẹnikẹ̀ni ninu yin ba ti ji lati oju orun rẹ̀, ki o ma ti ọ̀wọ̀ rẹ̀ bọ̀ inu igba titi yoo fi fọ̀ ọ̀ lẹmẹta, nitori pe ko mọ̀ ibi ti ọ̀wọ̀ rẹ̀ wa moju". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọ̀n fi ẹ̀nu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- şàlàyé awọ̀n kan ninu awọ̀n idajọ̀ imọ̀ra, ninu wọ̀n ni: Akọ̀kọ̀: Dajudaju ẹni ti o ba şẹ̀ aluwala, o jẹ̀ dandan fun un lati fi omi si imu rẹ̀ pelu èémí, lẹyin naa yoo mu u jade pelu eemi bakannaa. Ikeji: Ẹ̀ni ti o ba fẹ̀ mọ̀ ẹ̀gbin ti o n jade lati ara rẹ̀, ti o fẹ̀ mu u kuro pelu nnkan ti o yàtò si omi gẹ̀gẹ̀ bii okuta ati

nnkan ti o jọ ọ, ki mimọra rẹ jẹ lori onka ti meji o le pin ti eyi ti o kere julọ nibẹ jẹ mẹta, ti eyi ti o pọ julọ nibẹ jẹ nnkan ti nnkan ti o n jade fi maa dá pẹlu rẹ ti aaye naa si fi maa mọ. Ikẹta ni: Ẹni ti o ba ji lati oju orun oru ko nii ti atẹlẹwọ rẹ bọ inu igba lati ẹ aluwala titi yoo fi fọ ọ lẹmẹta sita igba, nitori pe ko mọ ibi ti ọwọ rẹ wa moju, ko lee fọkanbalẹ nipa ẹgbin lori rẹ, Shaitan ti le ba a sere ti o le ti gbe awọn nnkan ti o le ko inira ba eniyan sibẹ tabi nnkan ti o le ba omi jẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Fifin omi si imu jẹ dandan nibi aluwala, oun ni: Mimu omi wọle sinu imu pẹlu ọna eemi, gẹgẹ bẹẹ naa ni fifin omi síta, oun ni: Mimu omi jade lati inu imu pẹlu ọna eemi.
2. Ẹ́sẹ mimọra pẹlu okuta ni nnkan ti a fẹ ni witiri.
3. Ẹ́sẹ fifọ ọwọ mejeeji lofin lẹyin orun oru lẹmẹta.

(3033)

(101) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لِيَعْدَبَانِ، وَمَا يُعْدَبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالْتَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(101) – Lati ọdọ ọmọ Abbās - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - o sọ pe: Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - koja nibi saare meji kan, ni o wa sọ pe: «**Dajudaju wọn n je awọn mejeeji niya lọwọ, wọn o si je wọn niya nitori alamọri nla kan (ni iwoyesi awọn eeyan), ẹ o wa ri ọkan ninu awọn mejeeji o je ẹni ti kii mọra kuro nibi itọ, amọ ẹnikeji o je ẹni ti maa n gbé ọrọ ofofo kaakiri**» leyin naa ni o wa mu imọ ọpẹ tutu o si ya a si meji, ti o si tun ri ẹyọ kọọkan mọ saare kọọkan, wọn wa sọ pe: Irẹ ojìşẹ Ọlọhun, ki ni idi ti o fi şe eleyii? O sọ pe: «**O şee şe ki wọn o şe iya awọn mejeeji ni fufuyẹ lopin igba ti wọn o ba tii gbẹ (imọ ọpẹ)**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - koja nibi saare meji kan, ni o wa sọ pe: Dajudaju awọn meji ti wọn ni saare mejeeji yii wọn n je wọn niya lọwọ; ati pe wọn o je wọn niya lori alamọri ti o tobi ni iwoyesi yin, bi o tilẹ jé pé o tobi lọdọ Ọlọhun, Ẹ o wa ri ọkan ninu awọn mejeeji o je ẹni ti ko ni akolekan nipa şişọ ara re ati aşọ re kuro nibi itọ nigba ti o ba n gbọ bukaata re, Ati pe ikeji maa n şe ofofo laarin awọn eeyan, ti yio wa maa gbẹ ọrọ ẹni ti o yatọ si i ni erongba ifi-ara-ni ati dida iyapa ati ogun silẹ laarin awọn eeyan.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ofoto ati gbigbe imọran kuro nibi itọ jusilẹ wa ninu awọn iya eşẹ ati ninu awọn okunfa iya saare.

2. Ọlọhun ti mimọ n bẹ fun Un ẹ isipaya apakan ni awọn nkan ikọkọ - gege bii iya saare - lati ẹ afihan àmì jije anabi ẹ - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a.
3. Işe yii iyẹn ni yiya imọ ope si meji ati fifi i si ori saare je ẹsa fun Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a; nitori pe dajudaju Ọlọhun ti fi han an ịsesí awọn ti wọn wa ninu saare naa, nitori naa a ko le fi ẹni ti o yatọ si i (Anabi) ẹ deede ẹ, nitori pe ko si ẹni ti o mọ ịsesí awọn ti wọn wa ninu saare.

(3010)

(102) – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(102) – Lati ọdọ Anas - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti o ẹ pe ti o ba fe wọ aaye ẹgbin yio sọ pe: «**Allaahummọ inni a‘uudhu biKa minal khubuthi wal khabaaithi**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti o ẹ pe ti o ba fe wọ aaye ti yio ti biiya bukaata ẹ, itọ tabi igbe, yio wa ịsọra pelu Ọlọhun, yio si tun sa di I ki O la a nibi aburo awọn ẹsu ni takọ tabi tabo. Wọn si tu al-khubuthi ati al-khabaaith sí aburu ati awọn ẹgbin.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şiše ni sunnah şiše adua yii nigba ti a ba gbero wiwọ ile ẹgbin.
2. Gbogbo ẹda ni wọn bukaata si Oluwa wọn nibi titi nkan ti o le ẹ wọn ni şuta tabi ko inira ba wọn danu nibi gbogbo ịsesí wọn.

(3150)

(103) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السَّوَأُكَ مَطْهَرَةٌ»

[صحيح] - [رواه النسائي وأحمد]

(103) – Lati ọḍọ Aisha - ki Ọlọhun yonu si i - ó sọ pé: Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Pákò jẹ imọtoto fun ẹnu, ó sì jẹ okunfa iyonu Oluwa". [O ni alaafia] - [Nasaa'iy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ fún wa pé imáa ẹ imọtoto eyín pẹlu igi araak (pákò) tabi iru rẹ, ó máa n fọ ẹnu mó tonitoni kuro nibi awọn idoti ati oorun tí kò dara ni, ati pé ó jẹ ọkan ninu awọn okunfa iyonu Ọlọhun si ẹru Rẹ; nítorí pé ó jẹ itélé ti Ọlọhun àti idáhùn sí àṣẹ Rẹ, ati nítorí pé imótótó tí Ọlọhun Ọba nífẹ́ sí wà ninu rẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọlá ti n bẹ fún imaa run pákò, ati pé Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n gba awọn ijọ rẹ niyanju lati maa run pákò lọpọlọpọ ìgbà.
2. Líló igi araak lati fi run pákò ló lólá jùlọ, àmọ́ lílọ búróḍòṣì ati oṣẹ ifọyin máa n dipọ rẹ ni.

(3588)



(104) – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(104) – Lati ọdọ Abu Hurayra o sọ pe: Ojise Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: «**Ẹtọ ni lori gbogbo Musulumi ki o wẹ ni ojọ kan ninu gbogbo ojọ meje, ti yio wẹ ori rẹ ati ara rẹ**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnụ kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Ojise Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – royin pe: Dajudaju iwọ ti wọn kanpa mọ lori gbogbo Musulumi ti o ti balaga ti o ni laakaye ni ki o wẹ ni ojọ kan ninu gbogbo ojọ meje inu oṣẹ, nitori naa yio wẹ ni ojọ yii ori rẹ ati ara rẹ, lati fi wa imọra ati imọtoto, ati pe eyi ti o lọla ju ninu awọn ojọ yii ni ojọ jimọ, geṣe bi wọn se gbọ ọ ye ninu awọn egbawa miran, ati pe wiwe ni ojọ jimọ siwaju irun, nkan ti wọn fe (sunnah) ni ti fifẹ ti wọn kanpa mọ ni, koda ki o wẹ ni ojọ alaamisi fun aṣere, ati pe nkan ti o gbe ije dandan yẹn kuro ni gbolohun ‘Aisha – ki Ọlọhun yonu si i – pe: “Awọn eeyan je oṣise ara wọn, wọn si tun je ẹni ti o se pe ti wọn ba lo fun jimọ wọn yio lo pelu irisi wọn: Ni wọn wa sọ fun wọn pe: Eṣe ba si wa wẹ”, Bukhari lo gba a wa, ati pe ninu egbawa miran fun un (Bukhari): “Wọn ni awọn oorun” iye ni pe oorun oogun ati nkan ti o jo o, pelu beṣe wọn sọ fun wọn pe: “Eṣe ba si wẹ”, nitori naa ẹni ti o yatọ si wọn lo wa ni ipo ki o se e (Iwe) ju awọn lo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Akolekan Isilaamu pelu imọtótó ati imọra.
2. Iwe jimọ nkan ti wọn fe (sunnah) ni ni ti fifẹ ti wọn kanpa mọ fun irun.
3. Didaruko ori bo tie je wipe didaruko ara maa ko o sinu; lati le ni akolekan pelu rẹ ni.

4. Iwe jẹ dandan fun gbogbo ẹni ti wọn ba ri oorun ti ko daa ti awọn eeyan le maa ri inira pẹlu rẹ ni ara rẹ.
5. Ojọ ti o fi n kanpa julọ fun iwe (sunnah) ni ojọ jimo; latari ọla rẹ.

(65084)

(105) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ والاستِحْدَادُ وقَصُّ الشَّارِبِ وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ وَتَنْفُ الأَبَاطِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(105) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo gbọ ti Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Adamọ marun-un lo jẹ: Dida abẹ ati fifa irun abẹ ati gige tubomu ati gige awọn èékáná ati fifa irun abiya”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şàlàyé pe awọn iwa marun-un kan n bẹ ninu ẹsin Isilaamu ati ninu sunnah awọn ojişẹ:

Akoḳo nibẹ ni: Dida abẹ, oun ni gige awọ ti o lekun lori nnkan omokunrin lori adenderi, ati gige ori awọ ti o wa lori oju ara obinrin lori aye ibi ti nnkan omokunrin maa n wọle si.

Ikeji nibẹ ni: Fifa irun abẹ, oun ni irun oju ara ti o wa ni àyíká oju ara.

Ikẹta nibẹ ni: Gige tubomu, oun ni gige nnkan ti o hù jade lori ete okunrin oke nibi ti ete ti maa hàn.

Ikerin nibẹ ni: Gige awọn èékáná.

Ikarun-un nibẹ ni: Gige irun abiya.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Àwọn sunnah awọn ojişẹ ti Ọlọhun nífẹ́ẹ́ si wọn ti O si yonu si wọn ti O si pa wa láşẹ pẹlu wọn, wọn n pepe lọ si ibi pipe ati mimọ ati ẹwa.

2. Şiŝe àwọn nnkan yii láti ìgbà dégbà jẹ nnkan ti wọn ɛ lofin, ti a ko si gbodo gbàgbé wọn.
3. Àwọn anfaani ti aye ati ti orun n be fun awon iwa yii, ninu won ni: Titun irisi se, ati mimo ara, ati pipalemọ fun imora, ati yiyato si awon alaigbagbo, ati mimu aše Olohun se.
4. Won daruko alekun awon iwa naa ti won yatọ si awon maraarun-un yii ninu awon hadiisi miran, gege bii: Dida irungbon si, ati rirun pako, ati eyi ti o yatọ si won.

(3144)

(106) – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَن أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». وَلِلْبُخَارِيِّ: فَقَالَ: «تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(106) – Lati odo Aliy- ki Olohun yonu si i- o so pe: Mo je okunrin kan ti o maa n da ato ireke lopolopo, mo maa n tiju lati beere lowo Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- nitori ipo omobinrin re, mo wa pa Miqdad omo Al-Aswad lase o si beere lowo re, o so pe: "O maa fo nnkan omokunrin re yoo si se aluwala ". O n be fun Bukhari: O so pe: "Se aluwala ki o si fo nnkan omokunrin re". [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Aliy omo Abu Toolib- ki Olohun yonu si i- so pe ato ireke- oun ni omi funfun ti ko ki ti o maa n fa tikò, o maa n jade lati inu nnkan omokunrin nigba adun tabi siwaju ibalopo- maa n jade lara oun lopolopo, Ko si mo bi o se maa se pelu jijade re, o wa tiju lati beere lowo Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a-; nitori pe o je oko Fatimah omobinrin Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a-, O wa toro lodo Miqdad omo Al-Aswad lati beere lowo Anabi- ki ike Olohun

ati ọla Re maa ba a- nipa iyen, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- da a lohun pe: Ki o fọ nnkan ọmọkunrin re leyin naa ki o se aluwala.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ọla ti o n be fun Aliy ọmọ Abu Toolib- ki Ọlọhun yonu si i-, nigba ti itiju ko kodi re nibi gbigbe ibeere ju silẹ pelu alagata.
2. Nini eto yiyan eni kan lati lo ba eeyan beere idajo esin.
3. Nini eto sisọ fun ọmọniyan nipa ara re pelu nnkan ti o ba n ti i loju fun anfaani.
4. Jije egin atọ ireke, ati jije dandan fifọ o kuro ni ara ati aṣo.
5. Jijade atọ ireke wa ninu awọn nnkan ti n ba aluwala je.
6. Jije dandan fifọ nnkan ọmọkunrin ati koropon mejeeji nitori wiwa re ninu hadiisi mii.

(3348)

(107) - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُحَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِثْنَاءِ وَاحِدٍ، نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. [صحيح] - [رواه البخاري]

(107) - Lati ọdọ Aaisha Iya awọn Mumuni - ki Ọlọhun yọnu si i - o so pe: Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti o se pe ti o ba ti fe we janaba, yio fọ ọwọ re mejeeji, yio si tun se aluwala re ti maa n se fun irun, leyin naa yio we, leyin naa yio fi ọwọ re mejeeji ya irun re, titi ti yio fi ro ni emi re pe o ti kan awo isale irun re, yio wa da omi si ara ni eemeta, leyin naa yio we ara re yoku, ni o wa so pe: Mo je ẹni ti emi pelu ojişe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - maa n we papo ninu igba kan naa, ti a si jo maa n fi ọwọ bu omi papo ninu re. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti o se pe ti o ba fe we janaba yio bere pelu fifọ ọwọ re mejeeji, Leyin naa ni yio wa se aluwala gege bi o se maa n se aluwala fun irun, leyin naa yio fi ọwọ re mejeeji ya irun ori re, titi ti yio fi ni lokaan pe omi ti de isale irun, ti o si ti je ki awo ori mumi yo, yio waa da omi si ori ni eemeta leyin naa yio we ara re yoku. Aaisha - ki Ọlọhun yọnu si i - wa so pe: Mo je ẹni ti emi pelu ojişe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - maa n we ninu igba kan naa ti a o jo maa fi ọwọ bu omi ninu re papo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Iwe iran meji ni: Eyiti o toni ati eyiti o pe, eẹ wa ri iwe ti o toni, omoniyàn o da aniyani imora, leyin naa yio fi omi kari gbogbo ara re pelu fifi omi yo enu ati fifin omi si imu, şugbon iwe ti o pe, yio we gege bi Anabi se we ninu hadith yii.

2. Wọn maa n lo Janaba fun gbogbo ẹni ti o ba da atọ si ara, tabi ti o ba ni ibalopo koda ki o ma da atọ.
3. Jijẹ ẹtọ ki ọkọ ati iyawo o maa wo ihoho ara wọn, ati ki wọn maa wẹ papọ ninu igba kan naa.

(3316)

(108) - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. [صحيح] - [متفق عليه]

(108) – Lati ọdọ Ammār ọmọ Yāsir - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ran mi ni iṣe kan, ni mo ba ni janaba ti mi o si ri omi, ni mo ba po ara mọ erupe gege bi ẹranko ṣe maa n po ara mọ ọn, leyin naa ni mo wa ba Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a -, ni mo si sọ iyẹn fun un, o si sọ pe: «**O ti to fun ẹ ki o fi ọwọ rẹ mejeeji ṣe bayii**» leyin naa ni o fi ọwọ rẹ mejeeji lu ile ni ẹẹkan, leyin naa ni o fi osi pa ọtun, ati eyin ọwọ rẹ mejeeji ati oju rẹ». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ran Ammār ọmọ Yāsir - ki Ọlọhun yonu si i - lo si irin-ajo kan fun awọn bukaata rẹ kan, ni janaba ba ṣeṣe si i latara ibalopo tabi dida atọ pelu adun, ti ko si ri omi ti yíò fi wẹ, O jẹ ẹni ti ko mọ idajọ tayammam (Aluwala eleepe) fun janaba, amọ o mọ idajọ rẹ fun ẹgbin kekere, Ni o ba gbiyanju ti o si lero pe gege bi o ṣe maa fi iyẹpe ti o wa ni ori ile pa awọn orike aluwala kan nibi ẹgbin kekere, nitori naa tayammam fun janaba naa gbọḍo ṣeṣe pelu fifi iyẹpe kari gbogbo ara; lati fi ṣe deede omi, ni o ba yi ara mọ iyẹpe titi ti o fi kari ara ti o si lo kirun, Nigba ti o wa ba Anabi - ki ikẹ ati ọla

Ọlọhun maa ba a -, o sọ iyẹn fun un; ki o le mọ boya o wa loju ọna abi ẹẹkọ? Ni Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa ẹ alaye fun un bi a ẹ n ẹ imọran kuro nibi ẹgbin mejeeji kekere gẹgẹ bii itọ, ati nílá gẹgẹ bii janaba: Oun naa ni ki o fi ọwọ rẹ mejeeji lu ilẹ ni ẹẹkan, leyin naa ki o pa osi lori ọtun, ki o fi pa ẹyin ọwọ rẹ mejeeji ati oju rẹ.

### Lára àwọn ànfiàni hadiisi naa:

1. Jijẹ dandan wiwa omi siwaju tayammam (Aluwala eleepe).
2. Şişe tayammam (Aluwala eleepe) lofin fun ẹni ti o ni janaba ti ko si ri omi.
3. Tayammam (Aluwala eleepe) fun ẹgbin nla da gẹgẹ bii tayammam fun ẹgbin kekere.

(3461)

(109) - عَنْ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح] - [متفق عليه]

(109) – Lati ọdọ Al-Mughiirah - ki Ọlọhun yọnu si i - o sọ pe. Mo wa pẹlu Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ni irin-ajo kan, ni mọ ba bẹrẹ lati bọ abosẹsẹ alawọ rẹ mejeeji, ni o wa sọ pe: «**Fi wọn silẹ, nitori pe dajudaju mo ti mejeeji bọ ọ ni mimọ ni**» ni o wa fi ọwọ pa mejeeji. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa ni ọkan ninu awọn irin-ajo rẹ, ni o wa ẹ aluwala, Nigba ti o wa débi fifọ ẹsẹ mejeeji, Al-Mughiirah ọmọ Shu‘bah - ki Ọlọhun yọnu si i - na ọwọ rẹ mejeeji lati bọ nkan ti o wa ni ẹsẹ Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ni abosẹsẹ alawọ lati fọ ẹsẹ rẹ mejeeji. Ni Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa sọ pe: Fi mejeeji silẹ ma bọ wọn, tori pé dajudaju mo ti ẹsẹ mi mejeeji

bọ inu abọsẹsẹ alawọ mejeeji ti mo si wa lori imọra, Ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa fi ọwọ pa abọsẹsẹ alawọ rẹ mejeeji lati fi jirọ fifọ ẹsẹ mejeeji.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Jijẹ nńkan ti a ẹ lofin pipa abọsẹsẹ alawọ mejeeji a maa ẹlẹ nibi ẹsẹ aluwala latara ẹgbin kekere, amọ wiwẹ fun ẹgbin nla ko si ibuyẹ kuro nibi fifọ ẹsẹ mejeeji.
2. Pipa o maa jẹ ẹẹkan pẹlu mimu ọwọ ti o ti rin fun omi lọ bọ lori abọsẹsẹ alawọ yatọ si isalẹ rẹ.
3. Wọn ẹ ni majemu fun pipa abọsẹsẹ alawọ mejeeji ki wiwọ rẹ o jẹ lẹyin aluwala ti o pe ti yio fọ ẹsẹ rẹ mejeeji ninu rẹ, ati pe ki abọsẹsẹ alawọ naa o mọ, ki o si tun bo aaye ọranyan nibi ẹsẹ, ki pipa a na o waye nibi ẹgbin kekere, ki o ma jẹ nibi janaba tabi nkan ti o le sọ iwẹ di dandan, ati pe ki pipa naa o maa waye laarin asiko ti a là kalẹ ninu shariah oun naa ni ojo kan pẹlu oru kan fun onile ati ojo męta pẹlu oru rẹ fun arinrin-ajo.
4. Wọn o fi jọ ibọsẹ alawọ mejeeji gbogbo nkan ti o ba ti le bo ẹsẹ bi ibọsẹ olowuu ati nkan ti o yatọ si i, nitori naa o lẹtojo lati fi ọwọ pa a.
5. Didaa iwa Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ati ikonilekojo rẹ, latari pe o kọ fun Al-Mughiirah lati bọ ibọsẹ alawọ mejeeji, ti o si tun ẹ alaye idi rẹ fun un: Wipe dajudaju o wọ mejeeji ni mimọ; ki ẹmi rẹ le balẹ, ki o si tun mọ idajo.

(3014)



(110) - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». [صحيح] - [متفق عليه]

(110) – Lati oḍo Aaisha iya àwọn Mumuni - ki Oḷohun yonu si i - dajudaju Faatimah oṃo Abu Hubaysh bi Anabi - ki ikẹ ati ọla Oḷohun maa ba a - leere o wa sọ pe: Dajudaju mo jẹ ẹni ti maa n ri eḣe awaada ti mii si ki n si ni imọra, nḣe mo le fi irun silẹ? Ni o wa sọ pe: «**Rara, dajudaju eḣe iṣan niyẹn, ṣugbọn maa fi irun silẹ ni odiwọn awọn oḣo ti o fi maa n ri eḣe nkan oṣu, lẹyin naa ki o wa wẹ ki o si kirun**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnun kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Faatimah oṃo Hubaysh beere lowo Anabi - ki ikẹ ati ọla Oḷohun maa ba a - ni o wa sọ pe: Dajudaju eḣe o ki n da lara mi ati pe o si maa n wa titi di igba ti kii ṣe igba eḣe nkan oṣu, nḣe idajo iyẹn le jẹ idajo eḣe nkan oṣu bii ti maa wa maa gbe irun ju silẹ? Ni Anabi - ki ikẹ ati ọla Oḷohun maa ba a - wa sọ fun un pe: Dajudaju eḣe awaada ni, oun si ni eḣe aisan kan ti o maa n ṣeḣe lati ipasẹ jija iṣan kan nibi apo ibimọ, ati pe kii ṣe eḣe nkan oṣu, Ti asiko eḣe nkan oṣu ba de, eyi ti o maa n ri eḣe nkan oṣu níbẹ lori iṣesí oṣooṣu rẹ siwaju ki o to lugbadi aisan eḣe awaada, ki o yaa fi irun ati aawẹ ati nkan ti o yatọ si mejeeji silẹ ni awọn nkan ti wọn kọ fun ẹni ti n ri eḣe nkan oṣu kuro nibẹ ni asiko eḣe nkan oṣu. Ti odiwọn igba yẹn ba ti wa tan, nigba naa wa jẹ ẹni ti o ti mọra kuro nibi eḣe nkan oṣu, ki o yaa fọ aaye eḣe yẹn, lẹyin naa ki o wẹ ara rẹ ni iwẹ ti o pe lati gbe ẹgbin kuro, lẹyin naa ki o wa ki irun.

### Lára àwọn ànḣààní hadiisi naa:

1. Jijẹ dandan iwẹ fun obinrin nigba ti awọn oḣo nkan oṣu rẹ ba pari.
2. Jijẹ dandan irun fun ẹni ti n ri eḣe awaada.

3. Al-haydu ni: Eḡe adamo ti apo ibimo maa n ti i jade lati ibi abe obinrin ti o ti di eni okunrin, eleyii ti yio maa seḡe si i ni awon ojo ti a ti mo.
4. Al-Istihaadoh ni: Sisan eḡe ni igba ti kii se asiko re lati enu apo ibimo lai de ogun re.
5. Iyatoto ti o wa laarin eḡe nkan oḡu ati eḡe awaada ni pe: Dajudaju eḡe nkan oḡu dudu ti o ki ti oorun re o si tun daa, amo eḡe awaada pupa ti o san ni ti ko si si oorun ti ko daa fun un.

(3029)

(111) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(111) – Láti ododo Abu Huraira- ki Ololahun yonu si i- o so pe: Ojise Ololahun- ki ike Ololahun ati ola Re maa ba a- so pe: «**Ti enikeni ninu yin ba ri nkankan ninu ikun re, ti o wa ru u loju boya nkankan jade nibeta tabi ko jade, ki o ma se jade kuro ni masalaasi titi ti yio fi gbodohun, tabi ki o gbodoorun**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ola Ololahun maa ba a - se alaye pe dajudaju ti nkankan ba n ru ninu iku eni ti n kirun, ti ko wa mo boya nkan jade tabi nkankan o jade? Ko gbodo kuro ni ori irun, ko si gbodo ja a lati lo tun aluwala se, titi ti yio fi ri bibe egbin ni aridaju eleyii ti o le ba aluwala je; pelu pe ki o gbodo didun iso, tabi ki o gbodo oorun; tori pe dajudaju nkan ti a ti mo amodaju re ko lee ye pelu iyemeji, ati pe oun ti mo amodaju imora, ti egbin si je nkan ti n se iyemeji ninu re.

## **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Hadīth yii ipilẹ kan ni ninu awọn ipilẹ Isilaamu, o tun jẹ òfin kan ninu awọn ofin agbọye ẹsin, oun ni pe: Dajudaju amọdaju ko lee yẹ pẹlu iyemeji, ati pe ipilẹ ni wiwa nkan ti o n bẹ lori ohun ti o n bẹ lori rẹ, titi ti nkan ti o yatọ si iyẹn fi maa daju.
2. Iyemeji o ki n lapa nibi imọra, ati pe ẹni ti n kirun si wa lori imọra rẹ lopin igba ti ko ba tii ni amọdaju ẹgbin.

(65083)

(112) - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(112) – Lati ọdọ Umar ọmọ Al-Khattaab- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: «**Ti oluperun ba sọ pe: Allāhu Akbar Allāhu Akbar, ti ẹnikeṅi ninu yin naa wa sọ pe: Allāhu Akbar Allāhu Akbar, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Ash'adu an laa ilaaha illa Allāhu, ti o (olugbo) wa sọ pe: Ash'adu an laa ilaaha illa Allāhu, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Ash'adu anna Muhammadan roṣuuluLlaah, ti o (olugbo) wa sọ pe: Ash'adu anna Muhammadan roṣuuluLlaah, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Hayya'ala sọlaah, ti o (olugbo) wa sọ pe: Laa haola walā quwwata illā biLlāh, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Hayya'alal falaah, ti o (olugbo) wa sọ pe: Laa haola walā quwwata illā biLlāh, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Allāhu Akbar Allāhu Akbar, ti o (olugbo) wa sọ pe: Allāhu Akbar Allāhu Akbar, leyin naa o (oluperun) tun wa sọ pe: Laa illaha illā Allāhu, ti o (olugbo) wa sọ pe: Laa illaha illā Allāhu lati inu ọkan re wa yio wọ aljanna**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Irun pipe ni fifi mọ awọn eeyan wiwole asiko irun, ati pe awọn gbolohun irun pipe je awọn gbolohun ti wọn ko adisọkan igbagbo sinu.

Ati pe ninu hadith yii Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - se alaye nkan ti wọn se ni ofin nigba ti a ba n gbo ipe irun, oun naa ni ki eni ti n gbo o maa sọ gege bi oluperun se n sọ, nigba ti o ba sọ pe "Allāhu

Akbar" ɛni ti o n gbɔ naa maa sɔ pe: "Allāhu Akbar", bayii ni yio ʃe maa lɔ; ayaafi nigba ti oluperun ba sɔ pe "ayya'ala sɔlaah", "ayya'alal falaah", nigba naa ɛni ti n gbɔ maa sɔ pe: "Laa haola walā quwwata illā biLlāh".

Anabi - ki ikɛ ati ɔla Ọlɔhun maa ba a - si tun ʃe alaye pe dajudaju ɛni ti o ba paara nkan ti oluperun n wi ni ti imɔkanga lati inu ɔkan rɛ yio wɔ alujanna.

Itumɔ awɔn gbolohun irun pipe ni: "Allāhu Akbar": Itumɔ rɛ ni pe dajudaju Oun mimɔ fun Un ni O tobi julɔ, Oun ni o si tun gbɔnngbɔn ju gbogbo nkan lɔ.

"Ash'adu an laa ilaaha illa Allāhu ": Itumɔ rɛ ni pe ko si ɛni ti ijɔsin ododo tɔ si ayaafi Allāhu.

"Ash'adu anna Muhammadan rɔsuuluLlaah": Itumɔ rɛ ni pe mo n fi rinlɛ mo si tun n jɛrii pɛlu ahɔn mi ati ɔkan mi pe dajudaju Muhammad ojishɛ Ọlɔhun ni, ti Ọlɔhun ti O biyi ti O gbɔnngbɔn ran an ni'ʃe, ti itɛle e si jɛ dandan.

"Hayya'ala sɔlaah", itumɔ rɛ ni pe ɛ wa lɔ ki irun, ati pe gbogbo olugbɔ yio sɔ pe: "Laa haola walā quwwata illā biLlāh", itumɔ rɛ ni pe ko si ɛte kankan lati la kuro nibi awɔn nkan ti maa n dena titɛle aʃe, kò sɔ tun si agbara lati ʃe e, bɛɛ ni ko si ikapa lori ikankan ninu awɔn nkan wɔnyii ayaafi pɛlu kongɛ Ọlɔhun ti ɔla Rɛ ga.

"Hayya'alal falaah", itumɔ rɛ ni pe ɛ wa sibi okunfa ɔla, oun naa ni jijere pɛlu alujanna ati lila kuro nibi ina.

## **Lára àwɔn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ọla ti o wa fun imaa fesi fun oluperun pɛlu sisɔ iru nkan ti o n sɔ, ayaafi nibi hayya'ala mejeeji (hayya'ala solaah ati hayya'alal falaah), nigba naa yio sɔ pe: "Laa haola walā quwwata illā biLlāh".

(113) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(113) – Lati ọdọ Abdullāh ọmọ ‘Amru ọmọ al-‘Aas – ki Ọlọhun yonu si i – dajudaju o gbọ ti Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – n sọ pe: «Ti ẹ ba ti gbọ oluperun ki ẹ yaa maa sọ gẹgẹ bi o ẹ n sọ, leyin naa ki ẹ wa ẹ asalaatu fun mi, torí pé dajudaju ẹni ti o ba ẹ asalaatu kan fun mi Ọlọhun a fi ẹ mewaa fun un, leyin naa ki ẹ beere al-Wasiilah fun mi lọdọ Ọlọhun, ati pe dajudaju oun ni ipo kan ninu al-jannah, ti ko si letọọ ayaafi fun ẹru kan ninu awọn ẹru Ọlọhun, mo si fe ki o je emi, nitori naa ẹni ti o ba beere al-Wasiilah fun mi isipe ti di ẹtọ fun un». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – juwe ẹni ti o ba gbọ oluperun lo sibi pe ki o maa sọ tele e nnkan ti o ba n wi, nitori naa yio maa sọ iru ọrọ re (oluperun), yato si Hayya‘ala mejeeji (Hayya‘alas sọlaah ati Hayya‘alal falaah), yio sọ leyin mejeeji pe: Laa haola walā quwwata illā biLlāh, leyin naa yio ẹ asalaatu fun Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – leyin ti o ba pari irun pipe, torí pé dajudaju ẹni ti o ba ẹ asalaatu kan Ọlọhun a titori re ẹ asalaatu mewaa fun un, ati pe itumo asalaatu Ọlọhun fun ẹru Re ni: Eyin Re fun ẹru Re lọdọ awọn malaika.

Leyin naa ni o wa paşẹ pelu bibi Ọlọhun leere al-Wasiilah fun oun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, ati pe oun (al-Wasiilah) naa ni ipo kan ninu al-jannah, ati pe oun lo ga jùlọ ninu re, ko si letọọ beẹ ni ko rọrun ayaafi fun ọkan ninu gbogbo awọn ẹru Ọlọhun ti ọla Re ga, ti mo si n tanmoon ki n je ẹni naa, ati pe o sọ iyẹn – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – ni ti iteriba; torí pé dajudaju ti ipo giga yẹn o ba nii wa ayaafi fun

enikan, ko wa si eni ti o le je enikan yen ayaafi oun – ki ike ati ola Olohun maa ba a -; tori pe oun ni o lola julọ ninu awon eđa.

Leyin naa o – ki ike ati ola Olohun maa ba a - wa se alaye pe dajudaju eni ti o ba se adua al-Wasiilah fun Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – isipe re - ki ike ati ola Olohun maa ba a – a je tie.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Şişenilojukokoro lori ijepe oluperun (siso gege bi oluperun se so).
2. Ola ti n be fun şise asalaatu fun Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – leyin ijepe oluperun (siso gege bi oluperun se so).
3. Şişenilojukokoro lori bibeere al-Wasiilah fun Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – leyin şise asalaatu fun un.
4. Alaye itumo al-Wasiilah, ati giga ipo re, latari pe ko letoo ayaafi fun eru kan.
5. Alaye ola Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – latari pe won se ipo ti o ga yen ni esa fun un.
6. Eni ti o ba beere al-Wasiilah ni owo Olohun- ti ola Re ga- fun Anabi – ki ike ati ola Olohun maa ba a – isipe re (Anabi) ti di eto fun un.
7. Alaye iteriba re - ki ike ati ola Olohun maa ba a – latari pe o wa lati odo awon ijo re ki won se adua fun un pelu ipo yen, toun ti pe dajudaju ti e naa ni yio je.
8. Gbigbaaye ola Olohun ati ike Re, nitori naa ise rere kan ilopo mewaa iru re ni esan re.

(65087)

(114) - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَ اللَّهُ بِهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(114) – Lati ọdọ Sadu ọmọ Abi waqqoosi, ki Ọlọhun yonu si i, lati ọdọ ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o sọ pe: «Eni ti o ba sọ nigba ti o n gbọ oluperun pe ash-hadu an laa ilaaha illa Allāhu wahdahu laa sharika laHu, wa anna muhammadan ‘abduHu wa rosuuluhu, rodiitu bil Laahi robban wa bi muhammadin rosuulan wa bil Isilaami diina, wọn a fi ori eṣe re jin in. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - funni niroo pe dajudaju eni ti o ba sọ nigba ti o n gbọ oluperun pe Ash-hadu an laa illaha illā Allāhu wahdahu laa sharika laHu" itumọ re ni: Mo n fi rinle wipe dajudaju ko si eni ti ijosin ododo to si ayaafi Ọlọhun, ati pe gbogbo nkan ti wọn n sìn yatọ si i ibaje ni in. Wa anna muhammadan ‘abduHu wa rosuuluhu" itumọ re ni: Dajudaju eru ni wọn o ki n josin fun un, ati pe ojise ni ti ko ki n parọ, Rodiitu bil Laahi Robban" itumọ re ni: Pèlú ije Oluwa Re, ati ije Ọlọhun Re, ati awon oruko Re ati awon iroyin Re, Wa bi muhammadin rosuula" itumọ re ni: Pelu gbogbo nkan ti wọn fi ran an, ti o si mu un de etiigbo wa, wa bil Islam" itumọ re ni: Pelu gbogbo awon idájọ Isilaamu bii awon ase ati awon nnkan ti wọn kò, "Diinan" itumọ re ni: Ni ti adisokan ati itele, "Gufiro lahu dhanbuhu" itumọ re ni: Awon ese kekere.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Pipaara adua yii nigba ti a ba n gbọ irun pipe wa ninu awon nkan ti maa n pa ese re.



(115) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(115) – Lati ọdọ Abu Hurayra – ki Ọlọhun yonu si i – o sọ pe: Arakunrin afoju kan wa ba Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, o wa sọ pe: Ire Ojise Ọlọhun, ko si eni ti yio fa mi wa si moşalaşi, ni o wa bi Ojise Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – leere ki o se eḍe fun un ki o maa kirun ni inu ile re, ni o wa se eḍe fun un, nigba ti o wa yi eyin pada, o pe e, o wa sọ fun un pe: «**Nje o maa n gbọ ipe irun?**» O sọ pe: Beş ni, o sọ pe: «**Ki o ya dahun**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Arakunrin afoju kan wa ba Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, o wa sọ pe: Ire Ojise Ọlọhun, ko si loḍo mi eni ti o le maa ran mi lowo ti yio si maa fa mi wa si moşalaşi ni asiko awon irun maraarun, o n wa lati ọdọ Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – ki o se eḍe fun un nibi gbigbe irun janmoon ju sile, nigba naa ni o wa se eḍe fun un, nigba ti o wa yi eyin pada, o pe e, o wa sọ fun un pe: Nje o maa n gbọ ipe irun? O sọ pe: Beş ni, o sọ pe: Ki o yaa je ipe oluperun.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ije dandan irun janmoon; nitori pe şise eḍe ko le waye ayaafi nibi nkan ti o ba je dandan ti o si tun je tulaasi.
2. Gbolohun re: «**Fa ajib**» fun eniti o ba n gbọ ipe irun n toka si ije dandan irun janmoon; tori pé ipile aşe ni ki o maa tumo si ije dandan.

(11287)

(116) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(116) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju o gbọ ti ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe: "E sọ fun mi ti akeremodo kan ba wa ni ẹnu ọnà ẹni koọkan ninu yin ti o n wẹ nibe ni ojoojumọ lemarun-un, nje iyẹn le şe nnkan kan kù nínú idòtí re bi?" wọn sọ pe: Ko lee şe nnkan kan ku ninu idòtí re, o sọ pe: "Gege beẹ ni iru awon irun maraarun-un, Ọlọhun maa n pa awon aşışe re pelu re". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- fi àwọn irun maraarun-un lojoojumọ nibi imukuro re ati pipa awon eşe kéékèéké re ati awon aşışe, o fi we akeremodo kan ti o wa ni ẹnu ọnà omoniyan ti o n wẹ ninu re lojoojumọ ni ẹmarau-un, ti ko nii şe nnkan kan ku ninu idòtí re ati ẹgbin re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla yii je eşa fun pipa awon eşe kéékèéké re, sugbon awon eşe nla, ironupiwada je dandan nibe.
2. Ọla ti o n be fun kiki irun maraarun-un ati sisọ wọn pelu awon majemu wọn ati awon origun wọn ati awon dandan wọn ati awon sunnah wọn.

(4968)

(117) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَرَدُّهُ لَرَادَنِي. [صحيح] - [متفق عليه]

(117) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere pé: Ewo ninu işe ni Ọlọhun nifeş si julọ? O sọ pe: "Irun kiki ni asiko re", o sọ pe: Leyin naa èwo? O sọ pe: "Leyin naa şişe daadaa si awon obi mejeeji" o sọ pe: Leyin naa èwo? O sọ pe: "Jija ogun si oju ọna Ọlọhun" o sọ pe: O sọ won fun mi, ti mo ba wa alekun re dajudaju o maa se alekun re fun mi. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Won bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere pé: Ewo ninu işe ni Ọlọhun nifeş si julọ? O sọ pe: Irun oran-anyan kiki ni asiko re ti Oba aşofin pa aala re, Leyin naa, şişe daadaa si awon obi mejeeji, pelu şişe daadaa si awon mejeeji, ati mimojuto eto awon mejeeji, ati gbigbe şişe awon mejeeji ju silẹ, Leyin naa, jija ogun si oju ọna Ọlọhun, fun gbigbe ọro Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbong- soke, ati dida aabo bo esin Isilaamu ati awon Musulumi, ati fifi awon ami re han, iyen pelu emi ati owo.

Ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- sọ pe: O sọ awon işe yii fun mi; ti mo ba sọ fun un pe: Leyin naa èwo? Dajudaju o maa se alekun re fun mi.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ini-ọla-ju-ara-won-ọ awon işe laarin ara won wà nibamu si ife Ọlọhun fun won.
2. İşe Musulumi lojukokoro lori iko akolekan lori awon işe ti won dara julọ ati eyi ti o dara teşe e.

3. Iyatọ awọn idáhùn Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nipa eyi ti o dara julọ ninu awọn işe wà ni ibamu si yiyatọ awọn eniyan ati awọn işesi wọn, ati eyi ti o pọ julọ ni anfaani fun gbogbo ẹni kọọkan ninu wọn.

(3365)

(118) – عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(118) – Lati ọdọ 'Uthman- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo gbọ ti ojise Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: "Ko si ninu omoniyan to je musulumi ti irun oran-anyan kan wa ba a, ti o wa se aluwala re daadaa ati ipaya re ati rukuu re, afi ki o je ipa ese re fun nnkan ti o siwaju ninu awon ese, niwon igba ti ko ba mu ese nla wa, gbogbo igba si ni iyen maa ri be". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şalàyé pe dajudaju ko si ninu musulumi kan ti asiko irun oran-anyan maa wole ba a ti o si se aluwala re daadaa ti o si pe e, leyin naa o n paya nibi irun re pelu pe okan re ati awon orikee re gbogbo re dojuko Ọlọhun ti won n ranti titobi Re lori irun, O si pe awon işe irun gege bii rukuu ati iforikanle ati eyi ti o yatọ si i, afi ki irun yii je ipa ese re fun nnkan ti o siwaju ninu awon ese kekere, niwon igba ti ko ba ti da ese nla kan ninu awon ti o tobi ninu awon ese, ati pe ọla yii ma maa lo be pelu lilo igba ati nibi gbogbo irun.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Irun jẹ ipa eṣe re fun awon eṣe, oun ni eyi ti eru ba se aluwala re daadaa, ti o si ki i ni olupaya ti o fi wa oju rere Olohun- ti o la Re ga-
2. O la ti o n be fun idunnimo awon ijosin, ati pe o je okunfa fun aforijin awon ti won kere ninu awon eṣe.
3. O la ti o n be fun siṣe aluwala daadaa, ati kiki irun daadaa ati nini ipaya ni be.
4. Pataki jijina si awon ti o tobi ninu awon eṣe lati se aforijin awon eṣe keekেকে.
5. Awon eṣe nlanla ko see pare afe pelu ironupiwada.

(6254)

(119) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(119) – Lati odo Abu Huraira - ki Olohun yonu si i - o ni dajudaju Ojise Olohun - ki ike ati o la Olohun maa ba a - maa n so pe: "Awon irun wakati maraarun, Irun Jimo si Jimo, Ramadan si Ramadan, o maa n pa awon esese ti n be laarin won re ni, ti eniyan ba ti jinnà si awon esese nlanla". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati o la Olohun maa ba a - n so fun wa pe dajudaju awon irun oranyan wakati maraarun lojoojumọ, irun Jimo ni gbogbo ose, gbigba aawe oṣu Ramadan ni gbogbo odun, o maa n pa awon esese keekেকে ti eniyan ba da laarin won re ni, pelu majemu pe ki eniyan jinnà si awon esese nlanla, amọ awon esese nlanla, gege bii sina ati oti

mímu, wọn kò nii pa a rẹ àyàfi kí eniyan túúbá kúrò níbẹ kó sì ronúpìwàdà.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Awọn èşè yẹn, kéékèèké n bẹ ninu wọn, ñlánlá naa sì n bẹ ninu wọn.
2. Majemu pípa àwọn èşè kéékèèké rẹ ni jíjìnnà sí àwọn èşè ñlánlá.
3. Awọn èşè nlanla ni àwọn èşè ti ijiya wà lori rẹ ni aye, tabi ileri ijiya tabi ibinu Ọlọhun wà lori rẹ ní ọrun, tàbí ìdérùbani wà lori rẹ, tabi ibidandan Ọlọhun wà lori ẹnítí ó şe e, gẹgẹ bii şíná àti ọtí mímu.

(3591)

(120) – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». [حسن] - [رواه أبو داود]

(120) – Lati ọdọ Amru ọmọ Shu'aib lati ọdọ baba rẹ lati ọdọ baba baba rẹ, o sọ pe: Ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: "È pa awọn ọmọ yin láşẹ pẹlu irun ti wọn ba ti wa ni ọmọ ọdun meje, ẹ na wọn lori rẹ ti wọn ba ti wa ni ọmọ ọdun mẹwaa, ẹ şe opinya laaarín wọn nibi awọn ibusun". [O daa] - [Abu Daud ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şàlàyé pe dajudaju o jẹ dandan lori baba lati pa awọn ọmọ rẹ láşẹ- lẹkunrin ati lobinrin- pẹlu irun ti awọn ọjọ ori wọn ba wa ni ọdun meje, ki o si kọ wọn ni nnkan ti wọn bukaata si lati gbe e duro. Ti wọn ba ti pe ọdun mẹwaa, o maa

lekun ninu alamọri náà, o maa na wọn lori aṣeto nibẹ, o si maa ya wọn nibi ibùsùn.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Kikọ awọn ọmọ kekere ni awọn àlámọrí ẹsin siwaju bibalaga, ninu eyi ti o ẹ pataki nibẹ ni irun.
2. Nina maa n jẹ nitori kikọ lẹkọ, ko ki n ẹ tori ifiyajẹ, wọn maa na an ni nina ti o yẹ ẹ.
3. Ikolekan Sharia si sisọ ọmọluwabi, ati kikọdi gbogbo ọna ti o le ja sibi ibajẹ.

(5272)

(121) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي، -، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(121) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Mo gbó ti Ojìṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- sọ pé: Mo pin irun laaarín Mì ati ẹrú Mì sí mejì oḡbọḡgba, ati pe nnkan ti ẹrú Mì ba beere o maa jẹ tirẹ, ti ẹrú Mì ba sọ pe: (Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen), Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- maa sọ pé: Ẹrú Mì dupẹ fun mi, ti o ba sọ pe: (Ar-Rahmaanir-Raheem), Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- maa sọ pé: Ẹrú Mì yin Mì, ti o ba sọ pe: (Maaliki Yawmid-Deen), O maa sọ pé: Ẹrú Mì gbe Mì tobi, -O tun maa sọ nígbà miran pe: Ẹrú mi fí ọrọ rẹ le Mì lọwọ-, ti o ba sọ pe: (Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een), O maa sọ pe: Eleyii wa laaarín Mì ati ẹrú Mì ati pe nnkan ti ẹrú Mì ba beere, o maa jẹ tirẹ, ti o ba wa sọ pe: (Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem, Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril-maghdoobi ‘alaihim wa lad-daaalleen), O maa sọ pe: Eleyii jẹ ti ẹrú Mì ati pe nnkan ti ẹrú Mì ba beere, o maa jẹ tirẹ”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe dajudaju Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- sọ ninu hadiisi Qudusiy pe: Mo pin Suratul Fatiha lori irun laaarín Mì ati ẹrú Mì sí mejì oḡbọḡgba, idaji fun mi, ati idaji fun un.

Idaji rẹ akọkọ je: Ope ati eyin ati gbigbe titobi fun Ọlọhun, wọn maa san an ni eyi ti o daa ninu ẹsan lori rẹ.



Idaji rẹ keji jẹ: Idirẹbẹẹ ati àdùrà, Mo maa gba a Mo si maa fun un ni nnkan ti o beere.

Ti Olukirun ba sọ pe: (Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen) Olohun maa sọ pé: Eru Mi dupe fun Mi, ti o ba sọ pe: (Ar-Rahmaanir-Raheem), Olohun maa sọ pé: Eru Mi yin Mi o si jẹwọ kikari idera Mi lori ẹda Mi, ti o ba wa sọ pe: (Maaliki Yawmid-Deen), Olohun maa sọ pé: Eru Mi gbe Mi tobi, o si jẹ iyi ti o gbòdò.

Ti o ba sọ pe: (Iyyaaka na’budu wa Iyyaaka nasta’een), Olohun maa sọ pe: Eleyii wa laarin Mi ati eru Mi.

Idaji akọkọ ninu awọn ayah yii jẹ ti Olohun, Oun naa ni: (Iyyaaka na’budu) oun ni ijẹwọ pe Olohun ni O ni ẹto si ijọsin, ati idahun pẹlu ijọsin, ati pe pẹlu rẹ ni idaji ti o jẹ ti Olohun fi wa si opin.

Ati pe idaji keji ninu ayah naa, oun ni ti eru: (Iyyaaka nasta’een) wiwa iranlọwọ lati ọdọ Olohun, ati şişe adehun Rẹ pẹlu şişe iranlọwọ.

Ti o ba wa sọ pe: (Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem \* Siraatal-lazeena an’amta ‘alahim ghayril-maghdoobi ‘alahim wa lad-daaalleen), Olohun maa sọ pé: Eleyii jẹ idirẹbẹẹ ati adura lati ọdọ eru Mi, ati pe nnkan ti eru Mi ba beere, o maa jẹ tirẹ, dajudaju Mo ti gba adura rẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Titobi ipò Fatiha ati pe Olohun pe e ni (Irun).
2. Şişe alaye iko akolekan Olohun- ti ọla Rẹ ga- pẹlu eru Rẹ, nigba ti o yin in pẹlu okunfa idupe rẹ ati eyin rẹ ati gbigbe tobi rẹ, O si şadehun fun un lati fun un ni nnkan ti o ba beere.
3. Surah Alapọn-ọnlẹ yii ko ọpẹ sinu, ati iranti ọrun, ati pipe Olohun, ati imọ ijọsin kanga fun Un, ati ibeere imọna lọ si oju ọna taara, ati ikilọ kuro nibi titọ awọn oju ọna ibajẹ.
4. Ìní imọlára hadiisi yii fun olukirun- ti o ba ti ka Fatiha- yoo maa şe alekun ipaya rẹ lori irun.

(122) - عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». [صحيح] - [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(122) – Lati ọdọ Buraida- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojişę Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Dajudaju adehun ti o wa laaarin wa ati laaarin wọn ni irun, ẹni ti o ba gbe e ju silẹ, dajudaju o ti şę aigbagbo”. [O ni alaafia] - [Tirmiziy ati Nasaa'iy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şàlàyé pe dajudaju adehun ati majemu ti o wa laaarin awọn Musulumi ati laaarin awọn ti wọn yatọ si wọn ninu awọn alaigbagbo ati awọn şoḃe-selu ni irun kiki, ẹni ti o ba gbe e ju silẹ, dajudaju o ti şę aigbagbo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi ipo irun, ati pe oun ni ipinya ti o wa laaarin olugbagbo ati alaigbagbo.
2. Fifi awọn idajo Isilaamu rinle peḷu nnkan ti o ba han ninu isesi awọn eniyan yatọ si eyi ti o pamọ.

(65094)

(123) – عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(123) – Lati ọdọ Jaabir – ki Ọlọhun yonu si i– o sọ pe: Mo gbọ ti Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – n sọ pe: «**Dajudaju nkan ti n be laarin ọmọniyan ati mimu orogun mọ Ọlọhun ati şişe keferi ni gbigbe irun jù silẹ**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – kilọ kuro nibi gbigbe irun oranyan ju silẹ, o si tun sọ pe dajudaju nkan ti n be laarin ọmọniyan ati kiko sinu imu orogun mọ Ọlọhun ati işe keferi ni gbigbe irun ju silẹ, nitori naa irun ni origun keji ninu awon origun Isilaamu, ati pe ipo re tobi ninu Isilaamu, nitori naa eni ti o ba gbe e ju silẹ l’eni ti n tako ije dandan re o ti di keferi pelu apanupo gbogbo Musulumi, ati pe ti o ba gbe e ju silẹ patapata ni ti ifi ọwọ dengerẹ mu un ati ni ti oraju, o ti di keferi, won si tun gba ipanupo awon saabe wa lori iyen, ti o ba wa je pe o maa n fi i silẹ ni igba miran ti yio si tun ki i ni igba miran, nigba naa o ti ni eto si adehun iya to ni agbara yii.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Pataki irun kiki ati idunni mọ on, oun naa ni iyatọ laarin şişe keferi ati nini igbagbo.
2. Kikọ ti o le kuro nibi gbigbe irun silẹ ati rira a lare.

(65093)

(124) – عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صَلَّيْتُ فاسترحْتُ، فكأنَّهم عابُوا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا بلالُ، أقمِ الصَّلَاةَ، أرْحنا بها».

[صحيح] - [رواه أبو داود]

(124) – Lati ọdọ Saalim ọmọ Abul Jahd, o sọ pe: Arakunrin kan sọ pé: Ìbá ẹ pe mo ti kírun kí n sì sinmi, bí ẹni pé wọn dá a lẹbi fún iyẹn, ni o wa sọ pe: Mo gbọ ti ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Irẹ Bilal, gbe irun duro, fun wa ni isinmi pẹlu rẹ”. [O ni alaafia] - [Abu Daud ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Arakunrin kan ninu awọn saabe sọ pe: Ìbá ẹ pe mo ti kírun ni, kí n sì sinmi, ó dà bíi pé àwọn tó wà láyííkà rẹ dá a lẹbi lórí iyẹn, ni o wa sọ pe: Mo gbọ ti Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: Irẹ Bilal! Pe irun, ki o si gbe e dúró; ki a le sinmi pẹlu rẹ; iyẹn rí bẹẹ fun nnkan ti o n bẹ nibẹ ninu biba Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- sọrọ ni jẹjẹ, ati isinmi fun ẹmi ati ọkan.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Isinmi ọkan maa n wa pẹlu irun kiki; fun nnkan ti o n bẹ nibẹ ninu biba Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- sọrọ kélékélé.
2. Titako ẹni ti o pa ijọsin tì.
3. Ẹni ti o ba pe nnkan ti o jẹ dandan fun un, ti o si mọ ọrun rẹ kúrò nibẹ, isinmi maa şelẹ si i pẹlu rẹ ati níní ìmòlára ifayabale.

(65095)

(125) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(125) - Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- je ẹni ti o ẹ pe, ti o ba ti kabara nibi irun, o maa n dake fun igba diẹ ṣiwájú ki o to ka Fatiha, mo wa sọ pe: Ire ojiṣe Ọlọhun mo fi baba mi ati iya mi ẹ iràpadà fún ọ, nje o ri idake re laarin kikabara ati kika Fatiha, ki ni nnkan ti o maa n sọ? O sọ pe "mo maa n sọ pe: Al-Lahumma Bā`id Baynī Wa Bayna Khaṭāyāya Kamā Bā`adta Bayna Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Al-Lahumma Naqqinī Min Khaṭāyāya Kamā Yunaqqá Ath-Thawbu 'Illābyaḍu Mina Ad-Danasi Al-Lahumma Aghsilnī Min Khaṭāyāya Bith-Thalji Wa Al-Mā'i Wa Al-Barad". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Ti Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ba ti kabara, o maa n dake ni idake diẹ ṣiwájú ki o to ka Fatiha, o maa n bèrè irun re nibe pelu awon adura kan, ninu eyi ti o wa ninu awon adura yii ni orọ re pé: "Al-Lahumma Bā`id Baynī Wa Bayna Khaṭāyāya Kamā Bā`adta Bayna Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Al-Lahumma Naqqinī Min Khaṭāyāya Kamā Yunaqqá Ath-Thawbu 'Illābyaḍu Mina Ad-Danasi Al-Lahumma Aghsilnī Min Khaṭāyāya Bith-Thalji Wa Al-Mā'i Wa Al-Barad", O maa n be Ọlọhun- Alagbara ti O gbongbong- lati gbe awon aṣiṣe jinnà si oun ki oun ma ko si i, ni igbejinna kan ti ipadepo ko lee sele pelu re, gege bi ko se le si ipadepo laarin ibuyọ oorun ati ibuwọ oorun láéláé, ti oun ba wa ko si i, ki O fo oun mo kuro nibe ki O mu u kuro bi won se maa n mu idoti kuro lara aṣo funfun, pe ki O fo oun mo kuro nibi awon aṣiṣe

rẹ ki O bu tutu si eyi ti o n jo ti o si gbóná nibe, pẹlu awọn nńkan ti n mó nńkan ti o tutu yí; omi ati yinyin.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Kika adura ìşirun ni jẹjẹ koda ki irun jẹ eyi ti a maa n ki soke.
2. Ojúkòkòrò awọn saabe- ki Ọlọhun yonu si wọn- lori mimọ awọn isesi ojişẹ - ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nibi awọn lílọ bibọ rẹ ati iwalojukan rẹ.
3. Awọn agbekalẹ miiran wa fun adura işirun, ati pe eyi ti o daa julọ ni pe ki ọmọniyan tọ ipasẹ awọn adura işirun ti o wa ti o si fi eşẹ rinlẹ lati ọdọ rẹ- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-, ki o si mu eyi wa ni eşkan, ki o mu òmíràn wa nigba mii.

(3104)

(126) - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَدُّو مَنكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. [صحيح] - [متفق عليه]

(126) – Lati ọḍọ Ọmọ Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji-: Dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n gbe ọwọ re mejeeji si deede ejika re mejeeji ti o ba ti bẹrẹ irun, ati ti o ba ti kabara fun rukuu, ati ti o ba gbe ori re dide lati rukuu, o maa gbe mejeeji bákannàà, o si maa sọ pé: "Sami'alloohu liman hamidaHu, Robbanaa wa laKal hamdu", ko ki n ṣe beṣe nibi iforikanṣe. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n gbe ọwọ re mejeeji soke nibi aaye meta ninu irun ni iwájú ejika ti o ṣe pe: Oun ni ibi ti egungun ejika ati apa ti papọ.

Aaye akọkọ: Ti o ba ti bẹrẹ irun nibi kikabara iwọ irun.

Ikeji: Ti o ba ti kabara fun rukuu.

Iketa: Ti o ba ti gbe ori re sókè lati rukuu, ti o wa sọ pe: Sami'alloohu liman hamidaHu Robbanaa wa laKal hamdu.

Ko ki n gbe ọwọ re mejeeji sókè nibi ibẹrẹ fifi ori kanṣe, tabi nibi gbigbe ori sókè lati ibe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ninu awọn oḡbọn ti o n be fun gbigbe ọwọ mejeeji soke nibi irun ni pe o je ọṣọ fun irun ati igbetobi fun Ọlọhun- mimọ ni fun Un-.
2. Gbigbe ọwọ re mejeeji soke fi eṣe rinṣe lati ọḍọ rẹ - ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- nibi aaye ikerin geṣe bi o ṣe wa ninu eḡbawa Abu Hamid As-Saa'idiy loḍo Abu Daud ati ẹni ti o

yàtò si i, oun ni nibi idide lati ataya akòkò nibi irun oni rakah mēta ati mērin.

3. O fi ẹṣẹ rinlẹ bakannaa lati ọdọ rẹ- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pe o maa n gbe ọwọ rẹ mejeeji si deede eti rẹ mejeeji laini fi ọwọ kan an gẹgẹ bi o ẹ wa ninu ẹgbawa Maalik ọmọ Al-Huwairith ninu sọhihu mejeeji pé: "Dajudaju ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o ba kabara o maa n gbe ọwọ rẹ mejeeji sòkè titi tí o maa fi ẹ deede eti rẹ mejeeji pẹlu wọn"
4. Adapọ laarin ṣiṣe Sami'alloohu liman hamidaHu ati Robbanaa wa laKal hamdu jẹ ti imam ati oluda-irun-ki nikan, sùgbón ero ẹyin imam maa sọ pé: Robbanaa wa laKal hamdu.
5. Sisọ pe: "Robbanaa wa laKal hamdu" lẹyin rukuu ni alaafia lati ọdọ Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pe awọn ọna mērin kan ni a le gba sọ ọ, ati pe eleyii jẹ ọkan ninu rẹ, eyi ti o daa julọ ni ki ọmọniyan tọ ipasẹ àwọn agbekalẹ yii, ki o si mu eyi wa ni ẹṣkan, ati òmíràn wa nigba mii.

(3095)

(127) – عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(127) – Lati ọdọ Ubaadah ọmọ Saamit - ki Ọlọhun yonu si i - dajudaju ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: **«Ko si irun fun ẹni ti ko ba ka Faatiha»**. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹ alaye pe dajudaju irun o le ni alaafia ayaafi pẹlu kika suratul Faatiha, o si jẹ origun kan ninu awọn origun irun nibi gbogbo rakaha.



### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Nkankan o le dipo kika Faatiha yatọ si i peḷu nini ikapa lati ka a.
2. Bibajẹ rakaha eleyii ti wọn o ka Faatiha ninu rẹ, lati ọdọ ẹni ti o finu-findọ ẹ e, ati alaimọkan ati onigbagbe; nitori pe dajudaju origun ni i, ati pe awọn origun o lee bọ lailai.
3. Kika Faatiha o maa bọ fun ero ẹyin nigba ti o ba ba imaamu ni rukuu.

(5378)

(128) - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة، حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. [صحيح] - [متفق عليه]

(128) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i-: O maa n kabara nibi gbogbo irun ninu eyi ti o je ọran-anyan ati eyi ti o yatọ si i, ninu Ramadan ati oṣu ti o yatọ si i, o maa n kabara nigba ti o ba dide, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba rukuu, ẹyin naa o maa n sọ pe: Sami’alloohu liman hamidaHu, ẹyin naa o maa n sọ pe: Robbanaa wa laKal hamdu, ṣiwájú ki o to forikanḽe, ẹyin naa o maa n sọ pe: Allahu Akbar nigba ti o ba lọ silẹ ni ẹni ti o forikanḽe, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba gbe ori dide lati iforikanḽe, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba forikanḽe, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba gbe ori dide lati iforikanḽe, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba dide lati ijokoo nibi rakah meji naa; o maa n ṣe beḽe nibi gbogbo rakah, titi o maa fi pari irun, ẹyin naa o maa n sọ ti o ba ti n lọ pe : Mo fi Ẹni ti ẹmi mi n bẹ lowo Re bura, dajudaju emi ni irun mi jọ ti ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ju ninu yin, eleyii si ni irun re titi o fi fi aye silẹ. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- gba apakan wa ninu bi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣe maa n kirun, o wa sọ pe ti o ba fe kirun, o maa n kabara nigba ti o ba dide fun kabara wiwo irun, ẹyin naa o maa n kabara nigba ti o ba n lọ si rukuu, ati nigba ti o ba fe forikanḽe, ati nigba ti o ba gbe ori dide lati iforikanḽe, ati nigba ti o ba forikanḽe ni

iforikanlẹ ẹlẹẹkeji, ati nigba ti o ba gbe ori rẹ dide kuro nibẹ, ati nigba ti o ba dide lati rakah meji akọkọ ẹyin ti o ba jokoo fun ataya akọkọ nibi irun oni rakah męta tabi oni rakah męrin, ẹyin naa o maa n şe bęe nibi gbogbo irun pata titi o maa fi pari rẹ, o maa n sọ ti o ba ti gbe ẹyin rẹ dide lati rukuu pe: Sami’alloohu liman hamidaHu, ẹyin naa o maa n sọ ti o ba wa ni iduro pe: Robbanaa wa laKal hamdu.

Ẹyin naa Abu Huraira maa n sọ ti o ba ti pari irun pé: Mo fi Ẹni ti ẹmi mi n bẹ lẹwọ Rẹ bura, dajudaju ẹmi ni irun mi jọ irun ojişẹ Ọlọhun-ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- jù, bi o şe maa n kirun niyí titi o fi fi aye silẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Kikabara maa n waye nibi gbogbo lilọ-ile ati lilọ-soke afi nibi gbigbe e soke lati rukuu, o maa sọ nibẹ pe Sami’alloohu liman hamidaHu.
2. Iko akolekan awọn sahaabe lori kikoşe Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ati şişọ sunnah rẹ.

(65098)

(129) - عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّتِ التِّيَابَ وَالشَّعْرَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(129) – Lati ọḍọ ọmọ Abbās - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - lati ọḍọ Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o sọ pe: «**Wọn pa mi laṣe ki n fi ori kan'le lori oríkèè meje: Lori iwaju ori, o si na ọwọ rẹ si imu rẹ, ati ọwọ mejeeji, ati orunkun mejeeji, ati awọn ọmọ ika eṣe mejeeji, ati pe ki a ma ka awọn aṣọ ati irun**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ṣe alaye pe dajudaju Ọlọhun pa a laṣe nibi irun ki o fi oríkèè meje ninu awọn oríkèè ara rẹ kan'le; awọn naa ni:

Alakọkọ: Iwaju ori: Oun ni: Alawẹ oju ti o wa ni oke imu ati oju mejeeji, Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a, fi ọwọ rẹ si imu rẹ, ti o fi han pe iwaju ati imu je ọkan ninu awọn meje naa, o si tẹnumọ pe ẹni ti o n fi ori kan ile maa fi kan ile pelu imu rẹ.

Oríkèè keji ati iketa: Ọwọ mejeeji.

Ẹlẹkẹrin ati Ẹlẹkarun-un: Orunkun mejeeji.

Ẹlẹkẹfa ati Ẹlẹkeje: Awọn ọmọ ika eṣe mejeeji.

O si tun pa wa laṣe ki a ma so awọn irun wa, ki a si ma ka awọn aṣọ wa papọ nibi iforikanle lati fi da aabo bo o; bi ko ṣe pe a maa da a sile titi ti yio fi kan ile, nitori naa yio le'le pelu awọn orikee ara naa.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ije dandan fifi ori kan'le pelu awọn orikee ara meje ninu irun.
2. Kikorira lilọ aṣọ ati irun papọ ni ori irun.

3. O jẹ dandan fun ẹni ti n kirun ki o fi ara baḷe ninu irun re, iyen ni pe ki o gbe awon orikèe iforikanle meje le ile, ki o si fi ara baḷe lori re titi ti yio fi mu iranti ti won se lofin nibe wa.
4. Kiko kuro nibi lilo irun je esa fun awon okunrin yatọ si awon obinrin; nitori pe dajudaju won pa obinrin ni ase pelu bibo ara ni ori irun.

(10925)

(130) - عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي الْبَدْرَ - فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(130) – Lati odo Jeriir omo Abdullahi- ki Olohun yonu si i- o so pe: A wa lodọ Anabi- ki ike Olohun ati oḷa Re maa ba a-, o wa wo oṣupá ni ale ojọ kan- o n tùmò si oṣupá ojọ kẹrinla- o wa so pe: "Dajudaju e maa ri Oluwa yin gege bi e se n ri oṣupá yií, e o nii ri inira nibi riri re, ti e ba ni ikapa ki won maa kodi yin kuro nibi irun siwájú yiyo oorun ati siwájú wiwo re, ki e yaa se beḅ" leyin naa o ka:"(Kí o sì se àfòmó pèlú idúpé fún Olúwa Re siwájú yíyo òòrùn àti wíwò (re).)" [O ni alaaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Awon saabe wa pelu Anabi- ki ike Olohun ati oḷa Re maa ba a- ni ale ojọ kan, o wa wo oṣupá- ni ale ojọ kẹrinla-, o wa so pe: Dajudaju awon olugbagbo maa ri Oluwa won ni ti paapaa pelu oju laisi iruju, ati pe won ko nii fun papo mora won, wahala tabi inira ko nii selẹ si won nibi riri Re- Oba ti oḷa Re ga-. Leyin naa, ojise Olohun- ki ike Olohun ati oḷa Re maa ba a- so pe: Ti e ba ni ikapa lati ge awon okunfa ti o le yi yin kuro nibi irun asunbaa ati irun Asr, ki e yaa se beḅ, ki e si mu

mejeeji wa ni pipe ni asiko mejeeji ni janmoṣon, dajudaju iyeṅ wa ninu awon okunfa wiwo oju Oloḥun- Alagbara ti O gbongbon, Leyin naa, Anabi- ki ike Oloḥun ati oḷa Re maa ba a- wa ka aaya naa: (Wa sabbih bihamdi Robbika qobla tuluu'ish shamsi wa qoblal guruub)

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Iro idunnu fun oni igbagbo pelu riri Oloḥun- ti oḷa Re ga- ninu alujanna.
2. Ninu awon ona ipepe ni: Ikanpamo ati ifanilojumoṣa ati mimu awon apeṣe wa.

(5657)

(131) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ

صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» [صحيح] - [متفق عليه]

(131) – Lati oḍo Abu Musa Al-Ash'ariy- ki Oloḥun yonu si i-: Dajudaju ojiṣe Oloḥun- ki ike Oloḥun ati oḷa Re maa ba a- so pe: "Eni ti o ba kirun tutu mejeeji o maa wo alujanna" [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Oloḥun ati oḷa Re maa ba a- se wa lojukokoro lori akolekan irun tutu mejeeji, awon mejeeji ni irun Asunbaa ati irun Alaasari, o si fun wa ni iro idunnu pe eni ti o ba mu mejeeji wa pelu eto mejeeji ninu asiko ati ni janmoṣon ati eyi ti o yatò si iyeṅ, mejeeji maa je okunfa wiwo alujanna re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Oḷa ti o n be fun abojuto irun alufajari ati alaasari; nitori pe alufajari maa n waye lasiko igbadun oorun, ti alaasari si maa n waye ni asiko iko-airoju omoniyan pelu ise re, eni ti o ba n

bójú tó mejeeji, o sunmọ ki o rọrun fun un lati bójú tó awọn irun yoku.

2. Wọn sọ irun alufajari ati alaasari ni tutu mejeeji; nitori pe irun alufajari otutu oru n bẹ nibe, ti otutu ọsan si n bẹ nibi irun alaasari, bi o ti lẹ jẹ pe asiko ti o maa n waye maa n gbóná, ẹ̀gbón o maa n fuyẹ ju ẹ̀gbóná asiko ti o ẹ̀wájú rẹ lẹ, tabi ki sisọ wọn bẹ jẹ lábẹ fifi ọrọ kan borí ọkan ni, gẹgẹ bi wọn ẹ maa n sọ pe: Al-qomoraan fun oorun ati ọ̀sùpá.

(4198)

(132) – عن جندب بن عبد الله القسري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(132) – Láti ọ̀dọ Jundub ọmọ Abdullahi Al-Qasriy- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Eni tí ó bá ki irun asunbaa, onítòhún ti wa nínú ààbò Ọlọhun, nítorí náà ẹ sọra ki Ọlọhun ma baa bi yin leere nńkan kan ninu ààbò Rẹ; torí ẹni ti Ọlọhun ba bi leere nńkan kan nínú ààbò Rẹ, yoo gba ẹsan lara rẹ, yoo si da ojú rẹ bo ilẹ ninu ina Jahannama”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pé ẹni tí o ba ki irun alufajari ti wa ninu iṣọ Ọlọhun ati ààbò Rẹ, yoo maa da aabo bo o, yoo si maa ẹgun fun un.

Leyin naa ni Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa sọ wa lara kúrò nibi tí títú àdéhùn naa ati biba a jẹ, yálà pẹlu gbigbe irun alufajari ju silẹ ni, tabi ikọlù ẹni ti n ki i, ẹni tí ó bá ẹ iyẹn ti ba ààbò yii jẹ, o si ni ẹtọ si àdéhùn ijìyà ti o le koko pẹlú pe ki Ọlọhun bi i leere nípa ohun

tí o ẹ àṣẹ̀tọ̀ nibe nibi ẹ̀to Rẹ, ẹni tí Ọlọhun ba bi léèrè, yoo gba ẹsan lara rẹ, léyìn náà yoo da oju rẹ bo ilẹ̀ ninu iná.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Alaye pàtàkì irun alufajari ati ọ̀la ti n bẹ fun un.
2. Ikilọ ti o le koko kuro nibi ẹ̀ṣẹ aburú si ẹni ti o ba ki irun alufajari.
3. Ọlọhun ti ọ̀la Rẹ ga maa n ba àwọn ẹrú Rẹ ti wọn jẹ ẹni rere gba ẹsan lara ẹni tí ó ba n dènà dè wọn.

(5435)

(133) – عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: بَكَّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(133) – Lati ọ̀ḡọ Buroida ọ̀mọ Al-Husoib- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: E tete maa ki irun Asr, dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pé: “Eni ti o ba gbe irun Asr ju silẹ, dajudaju iṣẹ rẹ ti bajẹ”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- ẹ ikilọ kuro nibi ki èyàn mọ̀mọ̀ lọ irun Asr lara tayọ asiko rẹ, ati pe ẹni ti o ba ẹ bẹ, iṣẹ rẹ ti bajẹ, o si ti lọ lasan.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ẹṣenilojukokoro lori ẹ̀ṣọ irun Asr ni akọkọ asiko rẹ ati titete lọ ki i.
2. Adehun iya ti o le koko fun ẹni ti o ba gbe irun Asr ju silẹ, ati pe ki èyàn jẹ ki ó bọ ni asiko rẹ tobi ju ki eeyan jẹ ki irun miíràn bọ̀ lọ, oun ni irun aarin ti a ẹsa ni pato pẹlu aṣẹ ninu



oṛo Re- Oba ti oḷa Re ga-: (E ṣo àwọn irun (wákàtí máraàrún) àti (ní pàápàá jùlọ) irun ààrin). (Al-Baqarah: 238).

(6261)

(134) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]». [صحيح] - [متفق عليه]

(134)– Lati oṛo Anas oṃo Maalik- ki Oḷohun yonu si i- lati oṛo Anobi- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- o so pe: “Eni ti o ba gbagbe irun kan ki o yaa ki i nigba ti o ba ranti re, ko si ipèṣèrè fun un aḡi iyen: (Kí o sì kírun fún irántí Mi.) (Ta-Ha: 14)”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnun kò lé lórin ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- ṣàlàyé pe dajudaju ẹnun ti o ba gbagbe lati ki eyikeyii irun kan ti a ṣe e ni oṛan-anyan titi asiko fi lo, o je dandan fun un lati tete ki o si yara lo san an ni kete ti o ba ti ranti re, ko si ipèṣèrè ati bibo fun eṣe gbigbe e ju silẹ aḡi ki Musulumi naa ki i nigba ti o ba ranti re, Oḷohun so ninu iwe Re Alapọn-onle pé: (Kí o sì kírun fún irántí Mi.) (Ta-Ha: 14), o n tùmò si pe: Ki o si ki irun ti a gbagbe nigba ti o ba ti ranti re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye pataki irun ati aimase oḷe nibi kiki re ati sisan an pada.
2. Lilo irun lara tayo asiko re ko letoo ni ti moomoo laini awijare.
3. Jije dandan sisan irun pada fun ẹnun ti o ba gbagbe ti o ba ti ranti ati ẹnun ti o sun ti o ba ti ji.
4. Jije dandan sisan awon irun pada ni yara yara koda ko je awon asiko ti a se kiki irun ni ewo nibe.

(135) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(135) – Lati ọdọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o sọ pe: Ojise Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, sọ pe: «**Dajudaju irun ti o wuwo ju fun awon munaafiki ni irun Ishai ati Asunbaa, ka ni won mo nkan ti n be ninu re - ni esan – ni, won o ba wa ki i koda ki o je ni irakoro, ati pe mo ti wa gbero lati pase ki won o gbe irun duro, leyin naa ki n wa pa enikan lashe ki o ki i, leyin naa ki n wa gbera pelu awon okunrin kan ti idi igi wa pelu won lo si odọ awon ijo kan ti won o ki n wa ki irun ni masalaasi, ki n si sun ile won mo won lori**». [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – n sọ nipa awon munaafiki ati kikole won nibi wiwa ki irun, agaga julọ irun Ishai ati Asunbaa, ati pe dajudaju ti won ba mo odiwon esan ati laada ti o wa nibi wiwa ki mejeeji pelu janmon ni, won o ba wa ki i koda ki o je rirakoro gege bi omode se maa n rakoro pelu owo ati orunkun.

. Ati pe Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – ti pinnu lati pase pe ki won o gbe irun duro, ki o wa fi okunrin kan si aaye re lati siwaju awon eeyan, leyin naa ki o wa gbera ti awon ti won gbe idi igi lowo si wa pelu re, lati lo ba awon okunrin ti won o ki n ki irun janmon ninu masalaasi, leyin naa ki o wa da'na sun ile won; latari ini-agbara ese ti won ko si nibi iyen, - sugbon ko se e – latari awon ti won wa ninu ile bii awon obinrin ati awon omode ti won o mo nkankan ati awon to yato

si wọn ninu awọn ti wọn ni idiwo (ti wọn ni awijare), awọn ti ko si eṣe kankan fun wọn.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Aburu imaa fa seyin nibi kiki irun janmoṣon ninu masalaasi.
2. Awon munaafiki o gbero pelu irun won ayaafi sekarini ati sekagboni, nitori naa won ko nii wa ki irun ayaafi ni igba ti awon eeyan maa ri won.
3. Titobi esan ti n be nibi kiki irun Ishai ati Asunbaa pelu janmoṣon, ati pe awon mejeeji letoṣo si imaa wa ki won koda ko je pelu rirakoro.
4. Imaa so irun Ishai ati irun Asunbaa, lila lo je kuro nibi jije munaafiki, ati pe imaa fa seyin nibi mejeeji ninu iroyin awon munaafiki lo wa.

(3366)

(136) – عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(136) – Lati oṣo omṣo Abu Aofaa- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o ba gbe eyin re dide lati rukuu, o maa so pe: “Sami’alloohu liman hamidaHu, Allahumo Robbanaa wa laKal hamdu, milhas samoowaati wa milhal ardi wa milha maa shi-ita min shaihin bahdu”. [O ni alaaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o ba ti gbe eyin re dide lati rukuu ninu irun, o maa n so pe: “Sami’alloohu liman hamidaHu”, o

n tùmò si: Dajudaju ẹni ti o ba dupe fun Olohun- ti o la Re ga- Olohun- ti o la Re ga- maa da a lohun, yio si gba ope re ati eyin re, yio si san lesan, leyin naa, o maa dupe fun Olohun pelu sisope: “Allahumo Robbanaa wa laKal hamdu, milhas samoowaati wa milhal ardi wa milha maa shi-ita min shaihin bahdu”, ni ope kan ti o maa kun awon sanmo ati awon ile ati nnkan ti o n be laarin mejeeji, ti o si n kun nnkan ti Olohun ba fe ninu nnkan kan.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe alaye nnkan ti a fe fun olukirun lati maa so ti o ba gbe ori re dide lati rukuu.
2. Şişe nina tode ati ifarabale lofin leyin gbigbe ori kuro ni rukuu; nitori pe ko rorun lati maa so iranti yii afe ti o ba na tode ti o si fi ara bale.
3. Won se asikiri yii ni nnkan ti o ba şeria mu ninu gbogbo irun, boyá o je oranyan ni tabi naafila.

(65101)

(137) – عن حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(137) – Lati odo Huzeifah- ki Olohun yonu si i-: Dajudaju Anabi- ki ike Olohun ati o la Re maa ba a- maa n so laarin iforikanle mejeeji pe: Robbi igfir liy, Robbi igfir liy”. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Nasaa'iy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni won gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati o la Re maa ba a- maa n so nibi ijokoo laarin iforikanle mejeeji pe: Robbi igfir liy, Robbi igfir liy, o si maa n paara re.

Ìtumò Robbi igfir liy ni pé: Ki ẹru wa lati ọdọ Oluwa ẹ lati pa awọn eṣe ẹ ẹ ki O si bo awọn aleebu ẹ.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ṣṣe adura yii lofin laarin iforikanḡ mejeeji nibi irun ọran- anyan ati naafila.
2. Ṣṣe pipaara sisọ gbolohun: Robbi igfir liy lofin, ati pe iye igba ti o ẹ dandan ni ẹḡkan.

(65104)

(138) – عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْنِي، وعافِنِي، واهْدِنِي، وارزُقْنِي». [حسن بشواهده] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(138) – Lati ọdọ ọmọ Abbās – ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- pé: Anabi – ki iḡe ati ọla Ọlọhun maa ba a – ẹ ẹni ti maa n sọ laarin iforikanḡ mejeeji pe: «**Allāhumḡ igfir li, warhamnī, wa ‘āfinī, wahdinī, warzuqnī**». [O daa ẹlu awọn ẹri ẹ] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki iḡe ati ọla Ọlọhun maa ba a – ẹ ẹni ti maa n ṣe adua laarin iforikanḡ mejeeji nibi irun ẹ ẹlu awọn adua máàrún yii ti Musulumi ni bukaata ti o tobi si i, ti o si tun ko oore ayé àti ti o ọjọ iḡehin sinu, bii wiwa aforijin ati idaabobo awọn eṣe ati ṣṣe amojukuro nibe, ati pípé iḡe, ati lila kuro nibi awọn iruju ati awọn adun ati awọn aisan ati idakọḡ, ati ibeere imona ọdọ Ọlọhun sibi ododo ẹlu ifeṣemulẹ lori ẹ, ati níní ìgbàgbọ àti imọ àti iṣe oloore, ati níní dukia halaali ti o mọ.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ṣṣe adua yii lofin nibi ijokoo ti o wa laarin iforikanḡ mejeeji.

2. Oḷa ti n bẹ fun àwọn adua yii latari nkan ti o ko sinu ni oore ayé àti oḷo ìkẹhìn.

(10930)

(139) - عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمْ أَنْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمْ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بَيْتُكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بَيْتُكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(139) – Lati ọdọ Hitton ọmọ Abdullahi Ar-Roqooshiy o sọ pe: Mo kirun kan pẹlu Abu Musa Al-Ash'ariy, nigba ti o wa lori ijókòó, arakunrin kan ninu ijọ sọ pe: Wọn ti da irun pọ mọ s̄ise daadaa ati saka, o sọ pe: Nigba ti Abu Musa kirun tan ti o si salamo, o kọ ju s̄eyin, ni o wa sọ pe: Ewo ninu yin lo sọ gbolohun bayii bayii? O sọ pe: Ni awọn èyàn ba dake, leyin naa o sọ pe: Ewo ninu yin lo sọ gbolohun bayii bayii? Ni awọn èyàn ba dake, o sọ pe: Boya iwọ Hitton lo sọ ọ? O sọ pe: Mi ko sọ ọ, mo bẹru pe ki o ma bu mi nitori rẹ, arakunrin kan ninu wa sọ pe: Emi ni mo sọ ọ, mi ko si gbero nnkan kan pẹlu rẹ afi dáadáa, ni Abu Musa wa sọ pe: Şe ẹ ko mọ bi ẹ şe ma maa sọ nibi irun yin ni? Dajudaju ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ba wa sòrò ti o si şàlayé sunnah wa fun wa ti o si kọ wa ni irun wa, o wa sọ pe: "Ti ẹ ba ti fẹ kirun, ẹ gbe saafu yin dide, leyin naa ki ẹnikan ninu yin şe imaamu fun yín, ti o ba ti kabara, ki ẹyin naa kabara, ti o ba sọ pe: (Ghayril-maghdooobi ‘alaihiim wa lad-daaalleen) (Al- Fatiha: 7), ki ẹ sọ pé: Aamiin, Ọlọhun maa da yin lóhùn, ti o ba ti kabara ti o si rukuu, ki ẹyin naa kabara ki ẹ si rukuu, dajudaju imaamu maa rukuu şíwájú yín, yio si gbe ori dide şíwájú yín", ni ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa sọ pé: "Iyẹn pẹlu iyẹn, ti o ba sọ pe: Sami'alloohu liman hamidaHu, ẹ sọ pé: Allahumo Robbanaa wa laKal hamd, Ọlọhun maa gbó yín, dajudaju Ọlọhun- ibukun ni fun orúkọ Rẹ, ti ọla Rẹ ga- sọ lori ahọn Anabi Rẹ- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pé: Sami'alloohu liman hamidaHu, ti o ba ti kabara ti o forikanlẹ, ki ẹyin naa kabara ki ẹ si forikanlẹ, dájúdájú imaamu maa forikanlẹ şíwájú yín, o si maa gbe ori dide şíwájú yín", ni ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa sọ pe: "Iyẹn pẹlu iyẹn, ti o ba ti wa lori ijókòó, ki ọrọ akọkọ ẹni kọọkan ninu yin jẹ: At-tahiyyatu t-tayyibaatus-salawaatu lillah, as-salamu ‘alayka ayyuha’n-Nabiyyu wa rahmatulLaahi wa barakatuhu, as-salamu ‘alayna wa alaa ibaadil Laahis sọlilhiin, ash'hadu an laa ilaaha illal Loohu wa ash'hadu anna Muhammadan abduhuu wa rọsuuluhuu". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

**Àlàyé:**



Saabe ti o n jẹ Abu Musa Al-Ash'ariy- ki Ọlọhun yonu si i- kirun kan, nigba ti o wa ni ijokoo ti ataya wa nibẹ, arakunrin kan ninu awon ti won kirun leyin re so pe: Won da irun po mo daadaa ati saka ninu Kuraani, nigba ti Abu Musa- ki Ọlọhun yonu si i- kirun tan, o doju ko awon ero eyin, ni o wa bi won leere pe: Ewo ninu yin lo so gbolohun: Won da irun po mo daadaa ati saka ninu Kuraani?! Ni awon eeyan ba dake, ti eniken ko soro ninu won, ni o ba paara ibeere naa lekan si, nigba ti eniken ko da a lohun, Abu Musa- ki Ọlọhun yonu si i- so pe: Boya iwọ Hitton ni o so o! Nitori igboya re ati asunmo re ati asopo re pelu re, ninu nnkan ti kikefin re ko lee ko suta ba a, ati pe ki o le ti eni ti o se e gangan jade lati jowo, ni Hitton wa so pe ko ri be, o wa so pe: Mo beru ki o ma bu mi ti o n lero pe emi ni mo so o; ibi yii ni arakunrin kan ti so ninu awon ijope: Emi ni mo so o, mi ko si gbero nnkan kan pelu re afi daadaa, ni Abu Musa wa so ni eni ti o n ko o pe: Se e ko mo bi e se ma maa so lori irun yin ni?! Eleyii je atakò lati odo re, leyin naa Abu Musa wa so pe dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ola Re maa ba a- ba awon soro ni ojo kan, ti o salaye Sharia won fun won, ti o ko won ni irun won, ni Anabi- ki ike Ọlọhun ati ola Re maa ba a- wa so pe:

Ti e ba fe kirun, ki e ya gbe saafu dide ki e si duro to nibe, leyin naa ki enikan ninu won se imaamu fun awon eniyan, ti imaamu ba ti kabara wiwo inu irun, ki eyin naa kabara iru re, ti o ba ti ka Fatiha ti o ba wa de: ((Ghayril-maghdooobi 'alaihimi wa lad-daaalleen) (Al- Fatiha: 7)), ki e so pe: Aamiin; ti e ba se be Ọlọhun maa gba adura yin, ti o ba kabara ti o si rukuu, ki eyin naa kabara ki e si rukuu; dajudaju imaamu maa rukuu siwaju yin o si maa gbe ori dide siwaju yin, nitori naa e ko gbodo siwaju re; nitori pe asiko ti imaamu gba waju nibe lati siwaju yin rukuu, ilora yin ni rukuu leyin ti imaamu ti gbori kuro maa di i fun yin, iru asiko yen pelu asiko yen, odiwon rukuu yin maa da gege bii odiwon rukuu re, ti imaamu ba so pe: Sami'alloohu liman hamidaHu, ki e so pe: Allahumo Robbanaa wa laKal hamdu, ti awon ero eyin ba so iyen, dajudaju Ọlọhun- mimo ni fun Un- maa gbó adura won ati oro won,

nitori pe Ọlọhun- ibukun ni fun orúkọ Rẹ, ti ọla Rẹ ga- sọ lori ahọn Anabi Rẹ- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pé: Samihal Loohu liman hamidaHu, leyin naa ti imaamu ba kabara ti o si forikanle, o je dandan fun awon ero eyin lati kabara ki won si forikanle, dajudaju imaamu maa forikanle siwaju won, o si maa gbe ori dide siwaju won, iru asiko yen pelu asiko yen, odiwon iforikanle ero eyin maa da gege bii odiwon iforikanle imaamu, ti o ba wa lori ijokoo ataya, ki akoko oro olukirun je: At-tahiyyaatu toyyibaatus solawaatu lillah"

Ọla ati sişeku ati titobi gbogbo re pata je eto fun Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-, gege be naa ni awon irun maraarun-un, gbogbo re pata je ti Ọlọhun, "As-salaamu 'alayka ayyuhan nabiiyu wa rahmatullah wa barokaatuhu, as-salaamu 'alayna wa 'alaa 'ibaadillahis soliheen", e pe Ọlọhun fun lila kuro nibi gbogbo aleebu ati adinku ati ibaje; a maa sesa Anabi wa Muhammad- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pelu alaafia, leyin naa a maa toro alaafia fun ara wa, leyin naa a maa toro alaafia fun awon eru Ọlọhun ti won je eni rere ti won se nnkan ti o je dandan fun won ninu awon iwo Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ati awon iwo awon eru Rẹ, leyin naa, a maa jerii pe ko si eni ti ijosin to si lododo afi Ọlọhun, a si n jerii pe dajudaju Muhammad eru Rẹ ni ati ojise Rẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Şise alaye aworan kan ninu awon aworan bi gbolohun ataaya se wa.
2. Awon ise ori irun ati awon oro re, ko gbodo ma je nnkan ti o fi ese rinle lati odo Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-, ko letoo fun enikeni lati da adadaale sile nibe ni ti oro ati ise ti ko fi ese rinle ninu sunnah.
3. Ailetoto siwaju imam ati lora leyin re, ati pe nnkan ti a se lofin fun ero eyin ni itele imam nibi awon ise re.

4. Sísò nnkan ti Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa lori rẹ ninu akolekan imude-etigboọ awọn eniyan, ati kiko ìjọ rẹ ni awọn idajo ẹsin.
5. Imam ni awokoşe fun ero ẹyin, ko letoọ lati şwájú rẹ nibi awọn işe ori irun, tabi lati şe deede rẹ tabi lati lora leyin rẹ, bi ko şe pe ki ibèrè itele rẹ je leyin aridaju wiwole rẹ sinu işe ti o fe şe, ati pe sunnah ni titile rẹ nibẹ.
6. Şişe gbigbe saafu dide lofin nibi irun.

(65097)

(140) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ، التَّشَهُدَ، كَمَا يَعْلَمُنِي السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وفي لفظ لهما: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(140) – Lati ọdọ ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kọ mi ni ataya, ti atelewo mi wa laarin atelewo re mejeeji, gege bi o se maa n kọ mi ni Surah ninu Kuraani: "At-tahiyyaatu lillah, was solawaatu wat toyyibaatu, as salaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barokaatuhu, as-salaamu alaina wa 'alaa 'ibaadillahis soliheen, ash-hadu an laa ilaaha illallohu wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduHu wa rosuluHu". Ninu egbawa kan ti o je ti awon mejeeji: "Dajudaju Ọlọhun ni Ọba alaafia, ti enikenin ninu yin ba jokoo nibi irun, ki o ya sọ pe: "At-tahiyyaatu lillah was solawaatu wat toyyibaatu, As-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barokaatuhu, as-salaamu alaina wa 'alaa'ibaadillahis soliheen. Ti o ba ti sọ ọ, o maa ba gbogbo eru Ọlọhun rere ni oke ati ile, ash-hadu an laa ilaaha illallohu, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduHu wa rosuluHu, leyin naa o maa se esa nnkan ti o ba fe ninu ibeere". [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kọ ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- ni ataya ti won maa n ka lori irun, o wa fi ọwọ re si ọwọ re mejeeji, lati je ki o kọ ibi ara si i. Gege bi o se maa n kọ ọ ni Surah ninu Kuraani ninu nnkan ti o toka lori iko akolekan Anabi- ki ike

Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- si ataya yii ni gbolohun ati ni ìtumò. O si sọ pe: "At-tahiyyaatu lillah": Oun ni gbogbo ọrọ ati işe ti o da lori igbetobi, gbogbo ẹ ni o tọ si Ọlọhun- Alagbara ti O gbõnngbõn. "As-solawaatu": Oun ni irun ti a mọ, ọran-anyan rẹ ati awon nafila rẹ jẹ ti Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-. "At-toyyibaatu": Ọun ni awon ọrọ ati awon işe ati awon iroyin ti won daa ti won si n da lori pipe, gbogbo rẹ tọ si Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-. "As-salaamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barokaatuhu": Adura ni o jẹ fun un pẹlu lila kuro nibi gbogbo aleebu ati nnkan ti a koriira, ati alekun ati ọpọlọpọ ninu gbogbo oore. "As-salaamu alaina wa 'alaa'ibaadillahis soliheen": Adura ni o jẹ pẹlu ọlẹ fun olukirun ati fun gbogbo ẹru rere ni sanmọ ati ilẹ. "Ash-hadu an laa ilaaha illallohu": O n tùmò si pe mo n fi i rinlẹ ni ifirinlẹ ododo pẹlu rẹ pe ko si ẹni ti a le jọsin fun lododo afi Ọlọhun. "Wa anna Muhammadan 'abduHu wa rosuluHu": Mo n fi ije ẹru ati iransẹ ti o jẹ opin rinlẹ fun un.

Lẹyin naa Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- şe olukirun lojukokoro lati şe ẹşa ninu adura ti o ba fẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Aaye ataya yii ni nibi ijokoo lẹyin iforikanlẹ ikeyin nibi gbogbo irun, ati lẹyin rakah keji nibi irun olopoo męta ati olopoo męrin.
2. Jijẹ dandan kika At-tahiyyaatu níbi ataya, ati pe o lętođ lati ka eyikeyii ęgbawa ninu awon ęgbawa ataya ninu eyi ti o fi ęşę rinlẹ lati ọđo Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-.
3. Nini ęto şşe adura lori irun pẹlu nnkan ti o ba fẹ, lopin igba ti ko ba ti jẹ ęşę.
4. Şşe bibere pẹlu ara ẹni ni nnkan ti a fẹ nibi adura.

(141) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

وفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهَدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(141) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti maa n ṣe adua ti o si maa n sọ pe: «**Ire Ọlọhun dajudaju emi wa iṣora peḷu Re kuro nibi iya saare, ati nibi iya ina, ati nibi fitina iṣemi ati iku, ati nibi fitina al-Masiihu ad-Dajjal**». Nibi ti gbolohun ti Muslim: «**Ti ẹnike ni ninu yin ba ti pari ataaya igbeyin, ki o yaa wa iṣora peḷu Ọlọhun kuro nibi awon nkan meṣerin: Nibi iya jahannamo, ati nibi iya saare, ati nini fitina iṣemi ati iku, ati nibi aburu al-Masiihu ad-Dajjal**». [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - je ẹni ti maa n wa iṣora peḷu Ọlọhun kuro nibi nkan meṣerin, leyin ataaya igbeyin ati siwaju salamo ninu irun, o si tun pa wa laṣe ki a maa wa iṣora peḷu Ọlọhun kuro nibe, Ikinni: Nibi iya saare.

Eṣejeji: Nibi iya ina ati pe iyen ni ojo igbedide.

Eṣeketa: Nibi fitina iṣemi bi awon adun aye ti o je eewo ati awon iruju ti maa n soni nu, ati nibi fitina iku, iyen ni asiko pipoka iku, bii yiye kuro ninu Isilaamu tabi Sunnah, tabi fitina saare gege bii ibeere awon malaika mejeeji.

Eṣekerin: Fitina al-Masiihu ad-Dajjal eleyii ti yio jade ni igbeyin aye, Ọlọhun yio fi i dan awon eru Re wo; o wa daruko re loto latari titobi fitina re ati isoninu re.

## **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Iwa iṣọra yii ninu awọn adua ti o pataki ti o si kun ọfọ ni, latari pe o ko iwa iṣọra kuro nibi awọn aburu aye ati alukiyaamọ sinu.
2. Ririnlẹ iya saare ati pe dajudaju ododo ni i.
3. Ewu awọn fitina ati pataki wiwa iranlọwọ pẹlu Ọlọhun ati ṣiṣe adua fun lila kuro ninu rẹ (fitina).
4. Fifi jijade dajjāl ati titobi fitina rẹ rinlẹ.
5. Ṣiṣe adua yii ni sunnah lẹyin ataaya igbeyin.
6. Ṣiṣe adua ṣiṣe ni sunnah lẹyin iṣe oloore.

(3103)

(142) - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: يَا حَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَظَّ عَنْكَ بِهَا حَظِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَا قَالَ لِي: ثَوْبَانُ. [صحيح]

[رواه مسلم]

(142) – Lati ọdọ Ma'daan ọmọ Abu Tolha Al-Ya'mariy o sọ pe: Mo pade Thaobaan ẹru ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- mo wa sọ pe: Fun mi ni iro nipa işẹ kan ti mo ba n şe e Ọlọhun maa fi mu mi wọnu alujanna? Tabi o sọ pe mo sọ pé: pẹlu eyi ti Ọlọhun nífẹ́ẹ́ si julọ ninu awọn işẹ, o ba dake. Léyìn naa mo bi i leere ni o ba dake. Léyìn naa mo bi i leere ni ẹẹketa, o wa sọ pe: Mo beere nipa iyeń lọwọ ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a-, o sọ pe: Fiforikanle fun Ọlọhun lọpọlọpọ jẹ dandan fun ẹ, dajudaju o ko nii forikanle fun Ọlọhun ni iforikanle ẹẹkan, afi ki Ọlọhun fi gbé ẹ ga nipo, ki O si fi ba ẹ pa eşẹ rẹ" Ma'daan sọ pe: Léyin naa mo pade Abu Dardaa mo si bi i leere, o si sọ fun mi: Iru nnkan ti Thaobaan sọ fun mi. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Wọń beere lọwọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nipa işẹ ti o maa jẹ okunfa fun wiwọnu alujanna tabi nipa eyi ti Ọlọhun nífẹ́ẹ́ si julọ?

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ fun olubeere pe: Dunning mọ ọpọlọpọ iforikanle nibi irun, o ko nii forikanle fun Ọlọhun ni iforikanle kan afi ki O fi gbe ẹ ga nípò, ki O si fi i şe aforijin fun ẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe Musulumi lojukokoro lori àbójútó irun, ọran-anyan ni ati akigbọrẹ; nitori pe o ko iforikanle sinu.



2. Alaye agbọye ẹsin awọn saabe ati imọ wọn pe dajudaju alujanna wọn ko lee wọ ọ- leyin ike Ọlọhun- afi pelu işe.
3. Iforikanle nibi irun wa ninu eyi ti o tobi julọ ninu awọn okunfa igbe awọn ipo ga, ati aforijin àwọn ẹşẹ.

(3732)

(143) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ بِمَحْضَرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَحْبَثَانِ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(143) – Lati ọdọ ‘Aaisha- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Dajudaju mo gbó ti ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe: “ko si irun pelu ikale ounje, tabi nigba ti igbe ati ito ba n gbọn ọn”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kọ kuro nibi kiki irun pelu ikale ounje ti emi olukirun n fa síbẹ, ti ọkan re si n so mo ọn.

Gege beẹ ni o şe kọ kuro nibi kiki irun pelu didá Al-Akhbathaan- awọn mejeeji ni ito ati igbe- padà, nitori kiko airoju re pelu didá egbin náà padà.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. O tọ fun olukirun lati gbé gbogbo nnkan ti o le maa ko airoju ba a nibi irun re jinnà şíwájú ki o to wonu re.

(3088)

(144) - عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. [صحيح] - [رواه مسلم]

(144) – Lati ọdọ Uthman ọmọ Abul 'Aas- ki Ọlọhun yonu si i-: Dajudaju o wa ba Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: Ire ojişe Ọlọhun, dajudaju Shaitan ti wa laaarin mi ati irun mi ati kika mi, ti o n da a ru mọ mi loju, ni ojişe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Iyẹn ni Shaitan kan ti wọn n pe ni Khinzab, ti o ba ti fura mọ ọn, ki o wa işora pe lu Ọlọhun kuro ọdọ re, fe ategun si egbe osi re lemeṭa", o sọ pe: Mo wa şe beṣe ni Ọlọhun ba mu u kuro ọdọ mi. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Uthman ọmọ Abul 'Aas- ki Ọlọhun yonu si i- wa ba Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o wa sọ pe: Ire ojişe Ọlọhun, dajudaju Shaitan kọdi laaarin mi ati laaarin irun mi, ti o kọ ipaya fun mi nibẹ, ti o da kika mi ru ti o si ko iyemeji ba mi nibẹ, Ni ojişe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ba sọ fun un pe: Iyẹn ni Shaitan ti wọn n pe ni Khinzab, ti o ba ri eyi ti o si fura mọ ọn, dirọ mọ Ọlọhun, ki o si wa işora pe lu Ọlọhun kuro ọdọ re, ki o si fe ategun si egbe osi re pe lu itọ diẹ lemeṭa, Uthman sọ pe: Mo şe nnkan ti Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- pa mi laşe pe ki n şe, ni Ọlọhun si mu u kuro ọdọ mi.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Pataki ipaya ati wiwa ọkan lori irun, ati pe dajudaju Shaitan maa n gbiyanju lati da irun rú ati lati je ki eèyàn maa şe iyèméjì lórí irun.
2. Şişe wiwa işora kuro ọdọ Shaitan lofin nibi royiroyi re lori irun, pe lu títu itọ si egbe osi lemeṭa.

3. Alaye nipa nnkan ti awon sahaabe- ki Olahun yonu si won- wa lori re ninu shishi pada won sodò Anabi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- nibi nnkan ti o ba n sheli si won ninu awon isdro titi yoo fi wa ojutuú si i fun won.
4. Wíwà ni ààyè okan awon saabe, ati pe ohun ti o mumu laya won ni orun.

(65105)

(145) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا». [صحيح] - [رواه ابن حبان]

(145) – Lati odo Abu Huraira- ki Olahun yonu si i- o so pe: Ojise Olahun- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- so pe: “Eni ti o buru julo ninu awon eniyan ni ti ole jija, ni eni ti o n ja irun re lole” o so pe: Bawo ni o se maa ja irun re lole? O so pe: “ Ko nii rukuu daadaa, ko si nii se iforikanle re lasape”. [O ni alaafia] - [Ibnu Hibbaan ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- shalaye pe dajudaju eni ti o buru julo ninu awon eniyan ni ti iwa buruku nibi ole jija ni eni ti o maa n jale nibi irun re; iyen ri beje nitori pe eni ti o ba mu owo elomiran, o seese ki o se anfaani pelu re ni aye, yato si ole yii, dajudaju oun ja eto ara re lole ninu esan ati laada, won so pe: Ire ojise Olahun, bawo ni o maa se jale ninu irun re? O so pe: Ko nii se rukuu re lasape, ko si nii se iforikanle re lasape; iyen maa ri beje pelu pe ki o maa kanju nibi rukuu ati iforikanle, ti ko nii mu mejeeji wa ni ona ti o pe.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Pataki kiki irun daadaa ati mimu awon origun re wa pelu ifarabale ati irele.

2. Şişe iroyin ɛni ti ko ba şe rukuu re ati iforikanle re laşepe pelu pe ole ni lati leni sa kuru nibe, ati lati tani ji si şise e ni ewo.
3. Jije dandan şise rukuu ati iforikanle laşepe nibi irun ati nina to to leyin ti a ba gbori kuru nibi mejeeji.

(65100)

(146) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّا يَخْشَى أَحَدَكُمْ - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدَكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(146) - Lati odo Abu Hurayra - ki Olohun yonu si i - lati odo Anabi - ki ike ati ola Olohun maa ba a - o so pe: «**Şe ɛnikoŋkan yin o maa beru - tabi: ɛnikoŋkan yin o beru - nigba ti o ba gbe ori re soke şaju imaamu, ki Olohun o so ori re di ori Keŋekeŋe, tabi ki o so aworan di aworan Keŋekeŋe**». [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ola Olohun maa ba a - n şe alaye adehun iya ti o le gidi fun ɛni ti o ba gbe ori re soke şaju imaamu re, pelu pe ki Olohun o so ori re di ori Keŋekeŋe, tabi ki o so aworan re di aworan Keŋekeŋe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. O n be fun ero eyin pelu imaamu re isesi merin: Won ko kuro nibi meta, oun naa ni: Gbigba iwaju ati biba dogba ati pipe leyin, ati pe eyi ti won şe lofin fun ero eyin ni: Titele imaamu.
2. Jije dandan itele ero eyin fun imaamu re ninu irun.
3. Adehun iya pelu yiya aworan ɛni ti o ba gbe ori re soke şaju imaamu si aworan Keŋekeŋe nkan ti o rorun ni, oun si wa ninu pipa aworan da.

(147) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(147) – Lati oḍo Abu Sa'eed Al-Khudriy- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojiṣe Olohun- ki ike Olohun ati oḷa Re maa ba a- so pe: "Ti enikenininu yin ba ṣe iyemeji nibi irun re, ti ko si mo iye ti o ki boya meṭa ni tabi merin, ki o yaa ju iyemeji naa nu, ki o mo irun re lori nnkan ti o da a loju, leyin naa, o maa forikanle ni iforikanle eemeji siwaju ki o to salamo, ti o ba ki marun-un won maa se irun re ni nnkan ti eji le pin fun un, ti o ba ki i lati pe merin, mejeeji maa je iyepere fun esu". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati oḷa Re maa ba a- ṣalaye pe dajudaju olukirun ti o ba se iyemeji nibi irun re ti ko mo iye ti o ki, boya meṭa ni tabi merin? Ki o gbe onka ti o lekun ti o n se iyemeji nipa re jinna ki o ma lo o: meṭa ni o da a loju, o maa ki rakah kerin, leyin naa o maa forikanle ni iforikanle eemeji siwaju ki o to salamo.

Ti o ba se pe nnkan ti o ki je merin ni otito; o maa di marun-un pelu alekun rakah kan, ti iforikanle mejeeji ti igbagbe maa je ijiro fun rakah kan, onka naa maa je nnkan ti eji le pin ko nii je nnkan ti eji ko le pin: Ti o ba wa ki merin pelu rakah ti o lekun; o maa je pe o ti se nnkan ti o je dandan fun un laisi alekun tabi adinku.

Iforikanle igbagbe mejeeji je iyepere fun shaytaan ati ile e jina, ati lile e jina si erongba re; tori pe o ti da irun re ru mo on l'aju, ti o si tun fe ba a je, ati pe irun omo Anabi Adam pe niga ti o ba ti tele ase Olohun

ti ọla Re ga pẹlu iforikanlẹ eleyii ti èşù yapa nitori re, nígbà tí o kọ lati tele àşẹ Ọlọhun pẹlu fifi orikanlẹ fun Ādam.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ti ẹni ti n kirun ba şe iyemeji ninu irun re ti ikankan ninu alamọri mejeeji o si leke ni ọdọ re, dajudaju ni igba naa yio ti iyemeji danu ti yio si şe amulo amọdaju, oun naa ni eyi ti o kere ju, nitori naa yio pe irun re yio si fi ori kanlẹ fun igbagbe şaaju ki o to salamọ leyin naa yio wa salamọ.
2. Iforikanlẹ mejeeji yii je ọna lati tun irun şe, o tun je dida èşù pada ni ẹni yepere ti wọn gbe jìnnà si erongba re.
3. Iyemeji ti o wa ninu hadīth yii oun ni iyemeji laisi pe ọkan teşunwọn ju ọkan lo, ti a ba wa ri èrò ti o teşunwọn, a maa lo o.
4. Şişenilojukokoro lori gbigbe ogun ti royiroyi ati titi i danu pẹlu titẹle aşe ofin (Ọlọhun).

(11231)

(148) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(148) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Eyi ti o loore julọ ninu oḣo ti oorun yo nibe ni oḣo Jimò, ninu re ni wọn şeda Adam, ninu re ni wọn mu u wo alujanna, ninu re ni wọn mu u jade kúró nibe, oḣo igbende ko lee to afi ni oḣo Jimò". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju eyi ti o daa julọ ninu oḣo ti oorun ran ninu re ni oḣo Jimò, Ninu awon iroyin re ti o fi da yatọ ni pe: Dajudaju Ọlọhun şeda Adam- ki ike Ọlọhun maa ba a- ninu re, ninu re ni O mu u wonu alujanna, ninu re ni O mu u jade lati inu re ti O si mu u sokale sori ilè, oḣo igbende ko lee to afi ni oḣo Jimò.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti o n be fun oḣo Jimò lori awon yoku ninu awon oḣo oşe.
2. Şişenilojukokoro ati jije ki awon işe oloore po ni oḣo jimò, ati igbaradi fun riri ike Ọlọhun- ti ọla Re ga- ati titi ifiyaje re danu.
3. Awon iroyin ti Jimò fi da yatọ ti won dárúko ninu hadiisi náà, won sọ pé: Ko wa fun didárúko ọla ti o n be fun Jimò; nitori pe imujade Adam ati tito oḣo igbende won ko ka a si ọla, won sọ pé: Bi ko şe pe gbogbo re je ọla ti jijade Adam si je okunfa bibe aromodomo ninu awon ojişe ati awon anabi ati awon eni rere, ati pe tito oḣo igbende je okunfa yiyara gbigba esan awon

eni rere ati titewo gba nnkan ti Olohun ti pese fun won ninu awon aponle.

4. Won daruko awon iroyin miiran ti ojo Jimo fi da yato, yato si eyi ti won daruko ninu egbawa yi, ninu re ni: Ninu re ni won gba ironupiwada Adam, ninu re ni won gba emi re, ninu re ni wakati kan wa ti eru kan ti o je olugbagbo ko nii se kongere ti o si n kirun ti o n beere nnkan kan lodu Olohun afi ki O fun un ni nnkan naa.
5. Eyi ti o lola julowu ninu awon ojo inu odun ni ojo 'Arafah, won so pe: Ojo iduran (odun ileya), ti eyi ti o lola julowu ninu awon ojo ose si je ojo Jimo, ti eyi ti o lola julowu ninu oru si je oru abiyi (lailatul qadri).

(3711)

(149) – عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»، قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. [صحيح] - [رواه مسلم]

(149) – Lati odo Thaoban- ki Olohun yonu si i- o so pe: Ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o ba ti pari irun o maa n wa aforijin lemeta, o maa so pe: “Allahumo Anta-s- Salaam wa minka-s- Salaam, Tabaarakta Zal Jalaali wal Ikroom”, Al-Waleed so pe: Mo so fun Al- ‘Aozaa’iy: Bawo ni a se maa n wa aforijin? O so pe: Waa so pe: Astagfirullah, Astagfirullah. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o ba ti pari irun o maa n so pe: Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah.



Lẹyin naa o maa gbe Oluwa re tobi pelu sisọ pé: “Allahumo Anta-s- Salaam wa minka-s- Salaam, Tabaarakta Zal Jalaali wal Ikroom” Olohun ni Oba Àlàáfíà ti O pe nibi awon iroyin Re, ti a fomọ kuro nibi gbogbo aleebu ati adinku, ti o si n wa lila loḍo Re kuro nibi awon aburu aye ati orun ti ko ki n se loḍo eni ti o yatọ si I, Oun- mimọ ni fun Un- ni daadaa Re po ni aye ati orun, Eni ti O ni titobi ati daadaa.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Şşe wiwa àforíjìn ni nnkan ti a fe lẹyin irun ati didunni mo on.
2. Şşe wiwa àforíjìn ni nnkan ti a fe lati wa pipe adinku to wa nibi ijosin ati lati dí àáyẹ fun itele ati aṣeeto to wa nibe.

(10947)

(150) - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَلِلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(150) – Lati ọḍọ Abu Zubayr, o sọ pe: Ibnu Zubayr je ẹniti o maa n sọ ni ẹyin irun kọọkan nigba ti o ba salamọ pe: “Laa ilaaha illa Allāhu wahdahu laa sharīka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay’in qodīr, laa haola walā quwwata illā biLlāh, lā ilāha illā Allāhu, wa lā na‘budu illā iyyāhu, lahu ni‘matu wa lahul fadlu wa lahuu thanāhul hasan, lā ilāha illā Allāhu mukhlisiina lahuu dīna wa lao karihal kāfirūna”, o wa sọ pe: «**Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – je ẹniti maa n fi wọn se gbólóhùn ìmú-Ọlọhun-lọkan ni ẹyin gbogbo irun kọọkan**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – je ẹniti maa n fi asikiri nla yii se gbólóhùn ìmú-Ọlọhun-lọkan ni ẹyin ti o ba salamọ ni gbogbo irun ọran-anyan, itumọ re si ni pe:

“Lā ilāha illā Allāhu”: Iyẹn ni pé ko si ẹniti a maa jọsìn fun pèlú ẹtọ ayaafi Allāhu.

“Wahdahu lā sharīka lahu” iyẹn ni pé: Dajudaju ko si akegbe fun un nibi iní-ẹtọ si ijọsin Re, ati ije Oluwa Re, ati awọn oruko Re, ati awọn iroyin Re.

“Lahul mulku” iyẹn ni pé: TiRe ni ijọba ti ko ni ààlà ti o kárí, ti o gbòòrò, ijọba àwọn sánmọ àti ilẹ ati ohun ti n be ni àárín méjèjì.

“Wa lahul hamdu” iyẹn ni pé: Oun ni Ẹnítí a n royin peḷu pipe ti ko ni ààlà, Ẹni tí a n yin peḷu pipe ni ti ife ati gbigbe tobi lori gbogbo iṣesí, nigba idunnu, ati nigba inira.

“Wa huwa ‘alā kulli shay’in qodīr”: Ikapa Rẹ pe ni gbogbo ọna, nnkankan o si da A ni agara ri, alamọri kankan o si soro lati ẹ fun Un ninu awọn alamọri.

“Lā haola walā quwwata illā biLlāh” iyeṅ ni pé: Ko si iyipada kuro nibi iṣesí kan sí iṣesi miiran, ati kuro nibi ṣiṣe Olohun lo sí titẹle aṣe Rẹ, ko si si agbara kankan ayaafi peḷu Allāhu, Oun ni Olùrànlówọ́, Oun si ni a maa n gbára lé.

“Lā ilāha illā Allāhu, wa lā na‘budu illā iyyāhu”: O je ikànnípá fun itumọ ìní-ètọ si ijọsin ati íhànnà ẹbọ (mimu orogun mo Olohun), ati pe ko si ẹnítí o lẹtoṣo si ijọsin ayaafi Oun.

“Lahu ni‘motu wa lahul fadlu”: Oun ni O n ṣeḍa awọn idẹkun ti O ni ikapa rẹ, ti O si maa n fi i da ọla lori ẹnítí o ba wu U ninu awọn ẹru Rẹ.

“Wa lahu thanāhul hasan”: Lóri pàápàá Rẹ ati awọn iroyin Rẹ ati awọn iṣe Rẹ ati awọn idera Rẹ, ati lori gbogbo iṣesí.

“Lā ilāha illā Allāhu, mukhlisiina lahu dīna”: Iyeṅ ni pe ni ẹni ti wọn a maa mu Un ni Okan ṣoṣo laisi ṣekarini ati ṣekagboni nibi titẹle Olohun.

“Wa lao karihal kāfirūna”, iyeṅ ni pe: Ni ẹni tí wọn fi ẹṣe rinle lori mimu Olohun ni Okan ṣoṣo ati jijọsin fun Un, koda ki awọn alaigbagbo korira rẹ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. A fẹ ki a maa dunni mo iranti yii leyin gbogbo irun oranyan koṣkan.
2. Musulumi a maa se iyanran peḷu esin re yio si tun maa fi awon arisami re han koda ki awon alaigbagbo korira re.
3. Ti gbolohun: “Duburu Solaat” ba wa ninu hadiisi, ti nkan ti o wa ninu hadith yen ba je asikiri, ipile re ni ki o je eyin salamo, ti o ba wa je adua, iwaju salamo ni yio je.

(151) – عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(151) – Lati ọdọ Warrood olukọwe Al-Mugiiroh ọmọ Shu’bah, o sọ pe: Al-Mugiiroh ọmọ Shu’bah pe àpèkọ fun mi ninu iwe kan si Mu’aawiyah pe: Dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a-maa n sọ leyin gbogbo irun ọran-anyan pe: “Laa ilaaha illallohu wahdaHu laa shariika laHu, laHul mulku wa laHul hamdu, waHuha ‘ala qulli shai’in Qodeer, Allahumo laa maania limaa ‘atoita, wa laa mu’tiya limaa mana’ta, wa laa yanfa’u dhal jaddi minKal jaddu”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a-maa n sọ leyin gbogbo irun ọran-anyan pe: “Laa ilaaha illallohu wahdaHu laa shariika laHu, laHul mulku wa laHul hamdu, waHuha ‘ala qulli shai’in Qodeer, Allahumo laa maania limaa ‘ah'toita, wa laa mu’tiya limaa mana’ta, wa laa yanfa’u dhal jaddi minKal jaddu”.

O n tùmò si pe: Mo n fi rinle mo si n gba gbolohun imu Ọlọhun ni ọkan soṣo “Laa ilaaha illallohu” wólé, ati pe ijọsin ododo mo n fi i rinle fun Ọlọhun, mo si n kọ ọ fun ẹni ti o yatọ si i, ati pe ko si ẹni ti a le maa jọsin fun pelu ẹtọ afi Allahu, mo si n fi ọla gangan ti o pe rinle fun Ọlọhun, ati gbogbo ọpẹ awọn ara inu sanmọ ati ile je ẹtọ fun Ọlọhun-ti ọla Re ga-nigba ti O se pe Onikapa ni lori gbogbo nnkan, ati pe nnkan ti Ọlọhun ba kadara re ninu fifun ati kiko, ko si oludapada kankan fun un, loṣo Re, ọrọ ko lee se ọlọrọ ni anfaani, bi ko se pe ise rere ni yoo se e ni anfaani.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe iranti yii ni nnkan ti a fe leyin awon irun fun nnkan ti o ko sinu ninu awon gbolohun imu Ololun lokan soşo ati ope.
2. Yiyara si şişe awon sunnah, ati fifon won ka.

(65102)

(152) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(152) – Lati odo Abu Hurayra- ki Ololun yonu si i - lati odo ojise Ololun - ki ike ati ola Ololun maa ba a-: «Eni ti o ba se afomofun Ololun (Subhanallah) ni eyin gbogbo irun kookan ni igba metalelogbon, ti o si tun dupe fun Ololun (Alhamdulillah) ni igba metalelogbon, ti o tun wa gbe titobi fun Ololun (Allahu akbar) ni igba metalelogbon, iyen je ogoron din eyokan, ti o wa so ni ipari ogoron-un pe: La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika laHu, laHul mulku, wa laHul hamdu, wa Huwa ala kulli shayhin qadir, won o fi ori gbogbo eshe re jin in koda ki o to deede foomu ori omi okun».

[O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Alaye:

Anabi - ki ike ati ola Ololun maa ba a - se alaye pe dajudaju eni ti o ba so leyin ti o ba pari awon irun oranyan:

Ni igba metalelogbon pe: "Subhaanollooh", oun naa ni mimo Ololun kuro nibi aleebu.

Ati ni igba metalelogbon: "Alhamdulillah" oun naa ni yiyin In pelu awon iroyin pipe pelu inifee Re ati gbigbe E tobi.

Ati ni igba metaleloḡbɔn: "Allāhu akbar" oun ni pe Ọlọhun ni O tobi ju Oun si ni O gbɔnngbɔn ju gbogbo nkan lọ.

ki o mu onka naa pe oḡórùn-ún pẹlu gbolohun: "Lā ilaha illā Allāhu wahdahu lā sharīka laHu, laHul mulku, wa laHul hamdu, wa Huwa ala kulli shayhin qadeer" itumo rẹ si ni pe: Ko si ẹni ti ijosin tọ si pẹlú ẹto ayaafi Ọlọhun ni Oun nikan soṣo ko si orogun fun Un, ati pe Oun- mimo n be fun Un- nikan ni O ni ijoba ti o pe, ti O si letoṣ si ẹyin pẹlu ife ati igbetobi yatọ si ẹlòmíràn tí ó yatọ si I, ati pe Oun ni Olukapa ti nkankan o si le da A ni agara.

Ẹni ti o ba wa sọ iyen wọn yio pa aṣiṣe rẹ rẹ wọn o si ẹ aforijin rẹ, koda ki o pọ bi foomu funfun ti maa n leke omi okun nígbà tí o ba n ru soke.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Fife ṣiṣe iranti yii leyin awọn irun ọranyan.
2. Iranti yii okunfa aforijin ẹṣẹ ni o jẹ.
3. Titobi ọla Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ati ike Rẹ ati aforijin Rẹ.
4. Dajudaju iranti yii okunfa aforijin ẹṣẹ ni, ati pe nkan ti wọn gbero ni: Pipa awọn ẹṣẹ kekere rẹ, ṣugbɔn awọn ẹṣẹ nla ko si nkan ti o le pa a rẹ ayaafi ituuba.

(10948)

(153) - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ». [صحيح] - [رواه النسائي في الكبرى]

(153) – Lati ọdọ Abu Umāmah - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «Eni ti o ba ka āyatul kursiyyu ni eyin irun ọranyan koṣkan, ko si nkan ti yio di i lowo wiwo al-jannah ayaafi ki o ku. [O ni alaafia] - []

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ pe dajudaju eni ti o ba ka āyatul kursiyyu leyin ipari irun ọranyan, ko si nkankan ti o le ma je ki o wo alujanna ayaafi iku; o si wa ninu sūratul Baqorah, gbolohun Ọlọhun ti ọla re ti o sọ pe: {Allahu la ilaha illa Huwa al-Hayyu al-Qayyoomu la ta'khuthuHu sinatun wala nawmun laHu ma fis samāwāti wama fil ardi man dha ladhī yashfa'u indaHu illa bi-idhniHi ya'lamu mā bayna aydīhim wamā khalfahum wala yuhītūna bishayin min 'ilmiHi illa bimā shaa'a wasi'a kursiyyuHus samāwāti wal-arda wala ya'ūduHu hifdhuhumā waHuwal 'aliyyu alAadhīm} [Al-Baqorah: 255]

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti o n be fun aayah ti o tobi yii; latari nkan ti o ko sinu ninu awọn oruko to rewa ati awọn iroyin ti o ga.
2. Şise leto kika aayah ti o tobi yen leyin gbogbo irun ọranyan.
3. Awọn işe oloore je okunfa wiwo al-jannah.

(10950)

(154) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدَّى الْمُؤَدَّدُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ. [صحيح] - [متفق عليه بجميع رواياته]

(154) – Lati ọḍọ ọmọ Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o sọ pe: Mo ha rakah mewaaw lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- : Rakah meji siwaju irun Zuhr, ati rakah meji leyin re, ati rakah meji leyin irun Magrib ni ile re, ati rakah meji leyin irun Ishai ni ile re, ati rakah meji siwaju irun Subhi; o je asiko kan ti won ko ki n wole ti Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- nibe, Hafsoh so fun mi pe ti oluperun ba ti pe irun ti alufajari ba si ti yo, o maa ki rakah meji, o wa ninu egbawa kan pe: Dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n ki rakah meji leyin irun jimoh. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni i pelu gboḅbo awon egbawa re]

### Àlàyé:

Abdullahi ọmọ Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- n salaye pe: Dajudaju ninu awon nafila ti oun ha lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- je rakah mewaaw ti won pe won ni sunanur rawaatib, Rakah meji siwaju irun Zuhr, ati rakah meji leyin re, Ati rakah meji leyin irun Magrib ni ile re, Ati rakah meji leyin irun Ishai ni ile re, Ati rakah meji siwaju irun alufajari, Ni rakah mewaaw ba pe. Sugbon irun Jimoh o maa n ki rakah meji leyin re.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Siše awon nafila yii ni nkan ti a fe, ati didunni mo won.
2. Siše kiki naafila ninu ile lofin.



(155) – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(155) – Lati oḍo Abu Qataada as-Sulamiyy – ki Oḷohun yonu si i – dajudaju ojiṣe Oḷohun – ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a – so pe: «**Ti enikeni ninu yin ba wo masalaasi, ki o yaa ki rakaa meji siwaju ki o to jokoo**». [O ni alafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati oḷa Oḷohun maa ba a - se eni ti o ba wa si masalaasi ti o si woḷe sibẹ ni eyikeyii asiko, ati fun eyikéyí erongba, ni ojokoro lati ki rakaah meji siwaju ki o to jokoo, ati pe awon mejeji ni rakaah meji kiki masalaasi.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ninifeṣe si kiki irun rakaa meji ni ti kiki masalaasi siwaju ijokoo.
2. Aṣe yii wa fun eni ti o ba gbero lati jokoo, nitori naa eni ti o ba wo masalaasi ti o si jade siwaju ki o to jokoo, aṣe yen o ko o sinu.
3. Ti eni ti o fe kirun ba wo masalaasi ti awon eeyan si n kirun loḷo, ti o wa darapo mo won nibẹ, ko bukaata si ki o ki rakaa meji naa mo.

(65091)

(156) - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَنْتُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(156) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - dajudaju Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**Ti o ba sọ fun ọrẹ rẹ pe: Dake, ni ọjọ jimọ, ti imaamu si n ẹe khutuba lọwọ, o ti sọ ọrọ kọrọ**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n ẹe alaye wipe dajudaju ninu awọn ẹkọ ti o jẹ dandan fun ẹni ti o ba wa gbọ khutuba jimọ ni: Didake jẹjẹ fun ẹni ti n ẹe khutuba; lati le ba maa ronu si awọn iṣiti yẹn, ati pe dajudaju ẹni ti o ba sọrọ - koda ko jẹ ọrọ diẹ - ti imaamu si n ẹe khutuba lọwọ, ti o wa sọ fun ẹni ti o yatọ si i pe: "Dake" ki o si tun "tẹti", ọla irun jimọ ti bọ fun un.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣe ọrọ sisọ ni eewọ ni asiko ti a ba n gbọ khutuba, koda ki o jẹ pẹlu kikọ kuro nibi ibajẹ tabi didahun salamo ati ṣiṣe adua fún ẹni ti o ba sin.
2. Wọn ẹe ayaafi nibi eleyii ẹni ti o ba n ba imaamu sọrọ tabi ẹni ti imaamu ba n ba sọrọ.
3. Liletoṣo ọrọ sisọ laarin khutuba mejeeji ti a ba bukaata si i.
4. Ti wọn ba daruko Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ti imaamu si n ẹe khutuba lọwọ, dajudaju waa toṣo ikẹ ati ọla fun un ni jéjé, bakannaa ni ṣiṣe aamiin si adua.

(157) - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(157) – Lati ọdọ ‘Imrān ọmọ Husoyn – ki Ọlọhun yọnu si i– o sọ pe: Aisan jẹdídjẹdí mu mi, nigba naa ni mo wa bi Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – leere nipa irun, ni o wa sọ pe: «**Ki irun ni iduro, ti oo ba wa ni ikapa, yaa ki i ni ijokoo, ti oo ba tun wa ni ikapa, ki i ni ifẹgbelele**». [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹ alaye wipe dajudaju ipile ninu irun ni iduro, ayaafi ni igba ti ko ba si ikapa, nigba naa yio ki i ni enití o jokoo, ti ko ba tun ni ikapa kiki irun ni eni ti o jokoo, o le ki i ni ifẹgbelele.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Wọn o le yonda irun lopin igba ti laakaye ba ẹi wa, nigba naa kikuro ni ipo kan si ipo miran a maa ẹlele ni ibamu si ikapa.
2. Irọrun Isilaamu n be nibi pe ẹrú yio maa ẹ eyikeyii ti o ba ti rọ ọ lọrun ninu ijọsin.

(10951)

(158) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(158) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i-: Dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe: “Irun kan ti a ba ki ni mọsalasi mi yii loore ju ẹgbẹrún irun lọ ti a ki ni ibi ti o yatọ si i afi irun ti a ki ni mọsalasi abeewọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şàlàyé ọla ti o n bẹ fun irun ti a ki ni mọsalasi re, pe o lola ni ẹsan ju ẹgbẹrun irun ti a ki lọ ni ibi ti o yatọ si i ninu awọn mọsalasi aye, afi irun ti a ba ki ni mọsalasi ọwọ ni Makkah, oun lola ju irun ti a ki ni mọsalasi re- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- lọ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Adipele ẹsan fun irun ti a ba ki ni mọsalasi abeewọ, ati ni mọsalasi ti Anabi.
2. Irun ti a ba ki ni mọsalasi abeewọ loore ju ẹgbẹrún lónà ọgórùn-ún irun ti a ki ni eyi ti o yatọ si i ninu awọn mọsalasi lọ.

(65090)

(159) – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدْعُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(159) – Lati ọdọ Mahmud ọmọ Labid- ki Ọlọhun yọnu si i-: Dajudaju Uthman ọmọ ‘Affan fẹ kọ mọsalasi ni awọn eniyan ba korira iyẹn, wọn nífẹẹ si ki wọn fi i kalẹ bi o ẹ wa, o wa sọ pe: Mo gbó ti ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Eni ti o ba kọ mọsalasi kan fun Ọlọhun, Ọlọhun maa kọ iru rẹ fun un ninu alujanna”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Uthman ọmọ ‘Affan- ki Ọlọhun yọnu si i- fẹ tun mọsalasi Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- kọ ni irisi ti o daa ju kikọ akọkọ rẹ lẹ, ni awọn eniyan ba korira iyẹn; fun nnkan ti o n bẹ nibẹ ninu yiya kikọ mọsalasi naa pada kuro nibi isesi kikọ rẹ ni aye Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- mọsalasi jẹ nnkan ti wọn mọ pẹlu amò, ati pe òrùlé rẹ wọn mọ ọn latara imò ọpẹ, ṣugbọn Uthman fẹ kọ ọ pẹlu awọn okuta ati ẹfun, Uthman- ki Ọlọhun yọnu si i- sọ fun wọn nipa rẹ, ati pe oun gbó ti Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: Eni ti o ba kọ mọsalasi kan lati fi wa iyọnu Rẹ- Ọba ti ọla Rẹ ga- ti ko kii ẹ ni ti karimi tabi kagbomi, Ọlọhun A san-an ọsan ni eyi ti o daa julọ ninu ẹsan ninu iran iṣe rẹ, ati pe ẹsan yii oun ni ki Ọlọhun kọ iru rẹ fun un ninu alujanna.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣenilojukokoro lori kikọ awọn mọsalasi ati ọla ti o n bẹ fun iyẹn.
2. Fifẹ mọsalasi ati titun un ẹ wọnu ọla ti o n bẹ fun kikọ ọ.
3. Pataki imọkanga fun Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- nibi gbogbo iṣe.

(160) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(160) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ ojìṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: “Sààrà kii dín dúkiá kù, Ọlọhun kii le ẹrú kún pẹlú amojukuro àyàfí ni iyì, ẹnikan ko nii tẹrì ba fun Ọlọhun àyàfí ki Ọlọhun gbe e ga” [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sàlàyé pe saara kii dín dúkiá ku, bi ko ẹ pe o maa n ti àwọn nńkan ti o le ba a jẹ danu, Ọlọhun si maa n fi oore nílá rópò fun ẹni tí n ẹ saara, o maa wa jẹ alekun ni kii ẹ adinku.

Amojukuro pẹlu ikapa lati gba ẹsan kii le ẹni ti o ba ẹ e kun nńkan kan ayafi ni agbara.

Ẹnikan ko nii tẹrì ba tori ti Ọlọhun, ti kii ẹ ti iḅeru ẹnikẹni, tabi ti ẹtàn, tabi wiwa anfaani kan lódò rẹ, àyàfí ki ẹsan rẹ o jẹ gíga ati iyì.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Oore n bẹ nibi ẹṣṣe amulo sharia ati ẹṣṣe dáadáa kódà ki awọn èyàn kan maa lérò idakeji rẹ.

(161) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ

يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(161) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pé: “Ọlọhun sọ pe: Maa na owó ire ọmọ Anọbi Adam, Ọlọhun maa fi òmíràn rọpò”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe Ọlọhun sọ pe: Ire ọmọ Adam, maa ná owó- ninu awọn ináwó ti o je dandan ati eyi ti a fẹ- maa gbòrò arisiki re, maa si fi òmíràn rọpò, maa si ba ọ fi alubarika si i.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣenilojukokoro lori saara ṣiṣe ati ninawo si oju ọna Ọlọhun.
2. Ninawo sibi nnkan ti o loore wa ninu awọn okùnfà ìbùkún ti o tobi ju ninu arisiki ati ṣiṣe adipele re, ati ki Ọlọhun fi òmíràn rọpò fun ẹrú.
3. Hadiisi yii wa nínú ohun ti Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a, gba wa lati ọḍọ Oluwa re, ati pe a n pe e ni Hadith Qudsiy tabi Hadith Ilaahiy, oun ni eyi ti gbólóhùn re ati itumọ re wa lati ọḍọ Ọlọhun, sibesibe, ko ni awọn iròyìn Al-Qur'an ti o se iyatọ re si ohunkohun miiran, gege bii ijòsìn pèlú kika re, ati ṣiṣe imọra ti a ba fẹ kà á, ati ipenija, ati ànín ikapa lati mu irú re wa, ati beẹ beẹ lo.

(5805)

(162) – عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(162) – Lati ọḍọ Abu Mas’ud- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: “Tí ọmọnyan ba nawo lori awọn ara ile rẹ ti o n reti ẹsan rẹ ọḍọ Ọlọhun, saara ni o jẹ fun un”. [Ọ ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe ti ọmọnyan ba nawo lori awọn ara ile rẹ ti inawo wọn jẹ dandan fun un, geḡe bii iyawo rẹ ati awọn obi rẹ mejeeji ati ọmọ rẹ ati awọn ti wọn yatọ si wọn, ti o n fí iyẹn sunmọ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ti o n reti ẹsan nnkan ti o n na ọḍọ Rẹ, dajudaju ẹsan saara n bẹ fun un.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Gbígba ẹsan ati laada pẹlu ninawo lori awọn ara ile.
2. Mu’mini maa n wa ojú rere Ọlọhun ati ẹsan ti n bẹ ọḍọ Rẹ nibi iṣẹ rẹ.
3. O lẹtọ lati ni aniyàn daadaa nibi gbogbo iṣẹ, ninu iyẹn ni iṣesi ninawo lori awọn ara ile.

(6460)



(163) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». [صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(163) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pe: “Eni ti o ba lo onigbese lára, tabi ti o ba a din in ku tabi ki o ni ki o ma san an mó, Ọlọhun maa fi i sábé ibòji Itẹ-ọlá Rẹ ni Ọjọ Àjínde, ni ọjọ ti ko nii si ibòji kankan àyàfi ibòji Rẹ”. [O ni alaaafia] - [Tirmiziy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé eni tí o ba lo onigbese lára, tabi ti o ba a din gbese rẹ ku, ẹsan rẹ ni pe: Ọlọhun maa fi i sábé ibòji Itẹ-ọlá Rẹ ni Ọjọ Àjínde ti oorun maa sunmọ orí àwọn ẹrú ti oorun rẹ si maa lágbara, Eni kankan ko nii ri ibòji àyàfi eni tí Ọlọhun ba fi si abẹ ibòji.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun síṣe idẹkun fun awọn ẹru Ọlọhun ti ọla Rẹ ga, ati pe o wa ninu awọn okùnfa ti o maa la èyàn kuro nibi ibẹru Ọjọ Àjínde.
2. Ẹsan maa wa latara iran iṣẹ.

(4186)

(164) - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا

سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى». [صحيح] - [رواه البخاري]

(164) – Lati ọḍọ Jabir - ki Ọlọhun yonu si i - ó ní dajudaju Ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Ike Ọlọhun kó maa bá ọkunrin kan tí ó maa n še irọrùn fúnni nígbà ti ó bá tajà, ati nigba ti ó bá rajà, ati nigba ti ó bá fẹ gba gbèsè". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - še adura ike fun gbogbo eniti ó bá jẹ oníròrùn, ti o sì jẹ ọlọre nibi oja rẹ; kò nii lekoko mọ oluraja nibi iye owo oja, yoo sì maa ba a lo pọ pẹlu iwà daadaa, tí ó jẹ oníròrùn ati ọlọre nigba ti o bá rajà; nítorí nàà ko nii še àbòsí ki o wa dín iye owó ojà kù. tí ó jẹ oníròrùn ati ọlọre nigba ti o bá lọ sin awọn gbese tí ẹlomiran jẹ ẹ; ko nii lekoko mọ tálákà tabi aláíní, şùgbón kàkà bẹẹ, ó maa fi pèlèpèlè ati aanu sin gbese lọwọ wọn ni, ó sì maa lọ aláíní lara titi o fi maa ri gbese san.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ninu awọn erongba Sharia ni lati dáàbò bo ohun tí o maa şatunşe ajoşepọ tó wà laarin awọn eniyan.
2. Ifunni ní iyanju lati maa wùwà rere nibi ajoşepọ láàárín awọn eniyan bii katakara, ati nkan to jọ bẹẹ.

(3716)

(165) - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجلٌ يُدائِنُ الناسَ، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعسِرًا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوزُ عنا، فلقي الله فتجاوز عنه». [صحيح] - [متفق عليه]

(165) - Lati ọḍọ Abu Hurairah - ki Ọlọhun yonu si i - ó ní dajudaju Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Ọkùnrin kan wà tó máa n yá àwọn eniyan ní owo, ó sì máa n sọ fún ọḍọkùnrin rẹ pé: Ti o bá de ọḍọ alaini, ki o ṣamojukuro fun un, bọyá Ọlọhun yoo ṣamojukuro fún awa naa, ni ọkunrin yii bá pàdé Ọlọhun, Ọlọhun sì ṣamojukuro fun un". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ nipa ọkunrin kan tí ó máa n yá awọn eniyan ní owo gbese, tabi kí ó ta ọjà àwìn fún wọn, ó sì jẹ ẹniti o máa n sọ fún ọḣo-ọḣo rẹ tí o maa n lọ gba gbèsè tí awọn èniyàn jẹ ẹ pé: Ti o bá dé ọḣo onigbese ti kò ní owo lati san gbese tó jẹ nitori ailagbara rẹ "ṣamojukuro fun un"; bọyá ki o fun un ni akoko si, kí o sì ma sin in lagidi, tabi ki o gba ohun ti o wa ni ọwọ rẹ naa, koda ki owo naa mai tii pe, o ṣe eleyii nitori pé ó n fẹ, ó sì n rankan pé kí Ọlọhun ṣamojukuro fun oun naa, ki O sì darijin oun, Nígba ti ọkunrin yii kú, Ọlọhun dárí jìn in, Ó sì ṣamojukuro fun un nibi àwọn àṣiṣe rẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣe daadaa nibi ajoṣepọ pẹlu àwọn eniyan, ati dídárijìn wọn, àti ṣiṣamojukuro fún awọn alaini aarin wọn jẹ ọkan ninu àwọn okunfa tó ga jù lọ fún lílà ẹru Ọlọhun ní Ọjọ Àjínḍe.
2. Ṣiṣe daadaa sí awọn eniyan, ṣiṣe mímọ nibi ijọsin fun Ọlọhun, àti rirankan ike ati àánú Rẹ jẹ ọkan ninu àwọn okunfa rírí idárijìn èṣẹ.

(166) - عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(166) – Lati ọdọ Khaolah Al-Ansaariyyah- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Mo gbọ ti Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: “Dájúdájú àwọn èyàn kan n wọ inu dúkià Ọlọhun ni ọ̀nà tí kò tọ, wọn maa wọ iná ni Ọjọ Àjínde”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ nipa awọn eeyan kan ti wọn n ẹ ibajẹ ninu dúkià àwọn Musulumi, ti wọn si n mu u ni ọ̀nà tí kò tọ, eyi ni itumọ kan ti o kari nibi dukia, nibi kiko o jọ lati ibi ti ko ti ni ẹto, ati nina an sibi ti kii ẹ aaye re ti o to, jíjẹ dúkià àwọn omọ orukan maa wọ inu ẹ, àti awọn dúkià ti a fi sọri awọn kan, ati titako agbafipamọ, ati mimu ninu dúkià gbogbogboo ni ọ̀nà tí kò tọ.

Léyìn náà ni Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa sọ pé ẹsan wọn ni iná ni Ọjọ Àjínde.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Dúkià Ọlọhun ni dúkià ti o wa ni ọwọ àwọn èyàn, O fi wọn rólé nibẹ lati maa na an ní ọ̀nà tí ó bá òfin mu, ki wọn si jinna si síṣe e kúmọkùmọ, èyí kárfi gbogbo alaṣe ati awọn ti wọn yatọ si wọn ninu awọn èyàn.
2. Líle sharia níbi dúkià gbogbogboo, ati pe ẹni ti o ba jẹ alaṣe lori nńkan kan ninu ẹ, onítòhún maa ẹ ṣirò bi o ẹ gbà á ati bi o ẹ na an ni Ọjọ Àjínde.
3. Ẹni tí ó n ẹ nnkan ti ko ba ofin mu ninu dúkià naa maa ko sinu àdéhùn iyà naa, bóyá o jẹ dúkià re ni tabi dúkià ẹlòmíràn.

(167) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(167) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i- o sọ pé: Ojìṣẹ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pé: “Èni tí ó bá gba aawẹ Ramadan ni ti igbagbọ ati ireti ẹsan ni ọ̀dọ̀ Ọ̀lọ̀hun, wọn maa fi orí ẹsẹ rẹ ti o ẹ́ájú jin in” [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n sọ pe ẹni tí o ba gba aawẹ oşù Ramadan ni ti igbagbọ ninu Ọ̀lọ̀hun, ati gbigba ije-ọran-anyan aawẹ ni ododo, ati ohun ti Ọ̀lọ̀hun pèsè kalẹ fun awọn alaawẹ bii ẹsan ti o pò, ni ẹni tí n gbèrò ojú-rere Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Rẹ ga, ti kii ẹ ti ẹkarimi tabi ẹkagbomi, wọn maa fi orí àwọn ẹsẹ rẹ ti o ti kojá jin in.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ọ̀lá ti n bẹ fun imọkanga, ati pàtàkì rẹ nibi aawẹ Ramadan, ati awọn iṣẹ rere m̀íràn yatọ si i.

(4196)

(168) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ

الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(168) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Eni tí ó bá dide ni oru Laelatul Kọdri ni ti igbagbọ ati ireti ẹsan ni ọdọ Ọlọhun, wọn maa fi orí ẹṣẹ rẹ ti o ṣáájú jin in”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ fún wa nipa ọla idide ni oru Laelatul Kọdri ti o maa n wa ni mẹwàà ikeyin ninu oṣù Ramadan, ati pe ẹni ti o ba gbìyànjú ninu ẹ pẹlú irun ati adua ati kika Kuraani ati iranti, ni ẹni tí o gba a gbọ ati ọla ti n bẹ fun un, ti o si n reti ẹsan Ọlọhun pẹlu iṣẹ rẹ, ti kii ṣe ti ẹkarimi tabi ẹkagbomi, wọn maa fi orí àwọn ẹṣẹ rẹ ti o ṣáájú jin in.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun oru Laelatul Kọdri, ati ṣiṣenilojukokoro lori idide ninu ẹ.
2. Wọn ko nii gba àwọn iṣẹ olóore ayafi pẹlú àníyàn òdodo.
3. Ọla Ọlọhun ati aanu Rẹ; tori pe ẹni tí ó bá dide ni oru Laelatul Kọdri ni ti igbagbọ ati ireti ẹsan ni ọdọ Ọlọhun, wọn maa fi orí ẹṣẹ rẹ ti o ṣáájú jin in.

(4202)

(169) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(169) – Lati ọḍọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o sọ pe: Mo gbọ Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, ti n sọ pe: "Enikeni ti o ba ẹ Hajj nitori ti Ọlọhun, tí kò ba obinrin loṣo, tí kò sì rú ofin Ọlọhun, onitọhun yoo pada sile geḡe bi oṣo ti iya rẹ bi i." [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, n ẹ alaye pé enikeni ti o ba ẹ Hajj nitori ti Ọlọhun Ọba Aleke ọla, tí kò sì bá obinrin loṣo, itumọ ibalopo ni ibasun ati awon ohun ti o siwaju rẹ geḡe bii ifenukonu ati ifarakanra, won si maa n tumo rẹ si oro buruku, tí kò sì rú ofin Ọlọhun, nípa dídá ẹṣẹ àti ẹṣẹ aburú. Ninu rírú ofin Ọlọhun ni ẹṣẹ awon èwò gbígbé harami, yoo pada sile lati Hajji rẹ ní ẹniti Ọlọhun ti darijin, geḡe bi won ti n bi omode lai ni ẹṣẹ kankan lorun.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Riru ofin Ọlọhun, bi o ti je pe o je eewo ni gbogbo igba, o je eewo ti a kanpa mo ni asiko Hajj, lati le fi babara awon ise Hajj.
2. A bi eniyàn laisi ẹṣẹ kankan lorun rẹ; Kò nii gbé ẹṣẹ elomiran rù.

(2758)

(170) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «**مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ**» يعني أيامَ العشر، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «**ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خرَجَ بنفسِه وماله فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيءٍ**». [صحيح] - [رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له]

(170) – Lati ọdọ ọmọ Abbaas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o so pe: Ọjísé Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- so pé: «**Ko sí ojo kankan ti işe oloore inu rẹ jẹ eyi ti Ọlọhun nifeş si julọ ti o to awọn ojo yii**» iyẹn ni awọn ojo mẹwaa akọkọ Dhul Hijjah, wọn so pe: Ire ojişẹ Ọlọhun, ati jijagun si oju ọna Ọlọhun náà? O so pe: «**Ati jijagun si oju ọna Ọlọhun, ayaafi arakunrin kan ti o jade pẹlu ẹmi rẹ ati dukia rẹ ti ko si şeri pada pẹlu nkankan ninu rẹ**». [O ni alaafia] - [Bukhaariy ati Abu Daud ni wọn gba a wa, tiş si ni gbólóhùn naa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n şe alaye wipe dajudaju işe oloore şişe ninu ojo mẹwaa akọkọ ninu oşu Dhul Hijjah lola ju awọn ojo ọdun yooku lọ.

Ni awọn saabe - ki Ọlọhun yonu si wọn - wa beere lowọ Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - nipa jijagun si oju ọna Ọlọhun ninu ojo ti o yatọ sí àwọn ojo mẹwaa yii wipe şe oun ni o ni ọlá julọ ni àbí awọn işe oloore ninu awọn ojo yii? Latari ohun ti o rinlẹ lodọ wọn wipe jijagun si oju ọna Ọlọhun wa nínú àwọn işe ti o lola julọ.

Nigba naa ni o wa fesi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - pe: Dajudaju işe oloore şişe ninu awọn ojo yii lola ju jijagun si oju ọna Ọlọhun ninu ojo ti o yatọ si i lọ, ayaafi arakunrin kan ti o jade ni ẹni ti n jagun ti o si n fi ẹmi rẹ ati dukia rẹ wewu ni oju ọna Ọlọhun, ti o wa padanu dukia rẹ ti ẹmi rẹ naa si tun bọ sí oju ọna Ọlọhun, Irufeş işe yii ni yio lola ju işe oloore ninu awọn ojo ọlọla yii lọ.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun iṣẹ oloore ninu oṣo mewa Dhul Hijjah, nitori naa o jẹ dandan fun Musulumi ki o ṣe amulo awọn oṣo yii ki o si tun pọ ni iṣẹ oloore ninu rẹ, bii riranti Ọḷohun ti O lágbara ti O si tun gbongbọn, ati kika Alukurāni, ati ṣiṣe gbólóhùn "Allāhu Akbar", ati gbolohun "lā ilāha illā Allāhu", ati gbolohun "AlhamduliLlāhi, ati kiki irun, ati ṣiṣe saara, ati gbigba aawẹ, ati gbogbo awọn iṣẹ oloore yòókù.

(6255)

(171) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(171) – Lati oṣo Abu Huraira- ki Ọḷohun yonu si i- o sọ pé: Ojise Ọḷohun- ki ike Ọḷohun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Dájúdájú Ọḷohun ko nii wo àwòrán yin ati dúkiá yin, ṣùgbón O maa wo ọkàn yin ati iṣe yin”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anoḃi- ki ike Ọḷohun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pé Ọḷohun ti ọla Rẹ ga ko nii wo àwòrán erú ati ara wọn, boya o rewa ni abi o buréwa? Boya o tobi ni abi o kéré? Bóyá o ni alaafia ni abi o n ṣe àisàn? Ko si nii wo dúkiá wọn, bóyá o pọ ni abi o kéré? Ọḷohun ti O lágbara ti O gbongbọn ko nii fi àwọn nńkan wònyí bi àwọn erú Rẹ, ko si nii ṣe iṣirò wọn lóri rẹ ati bi wọn ṣe yatọ si ara wọn nínú ẹ, ṣùgbón O maa wo ọkàn wọn ati nńkan ti o wa ninu ẹ bii ipaya ati àmòdájú, ati ododo ati imokanga, tabi gbigbero ṣekarimi ati ṣekagbomi, O si tun maa wo iṣe wọn bóyá o dára ni abi ko dára, O maa wa ṣesan lori ẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìní akolekan si titun ọkàn şe, ati mimọ ọn kuro nibi gbogbo iròyìn burúkú.
2. Dídára ọkàn pèlú imọkanga ni, dídára iṣẹ pèlú itẹle Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ni, àwọn méjèjè yii ni Ọlọhun maa wò.
3. Ọmọniyan ko gbọḍo gba ẹtan pèlú dúkiá rẹ tabi ẹwà rẹ tabi ara rẹ, tabi nnkan kan ninu àwòrán ayé yii.
4. Ikilọ kuro nibi ifayabale lori ìta ti o hàn lai tún inú ti o pamọ şe.

(4555)

(172) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(172) – Lati ọḍo Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: "Dajudaju Ọlọhun maa n jowu, ati pe dajudaju olugbagbo naa maa n jowu, owu jije Ọlọhun ni ki olugbagbo maa şe nnkan ti Ọlọhun şe ni eewo fun". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe dajudaju Ọlọhun maa n jowu, O si maa n binu O si maa n korira, geḡe bi olugbagbo naa şe maa n jowu, ti o si maa n binu, ti o si maa n korira, ati pe okunfa jijowu Ọlọhun ni ki olugbagbo şe nnkan ti O şe ni eewo ninu iwa ibaje geḡe bii ṣíná ati ki ọkùnrin maa ba ọkùnrin lò pò, ati ole jija ati ọti mimu, ati eyi ti o yàtò si wọn ninu awọn iwa ibaje.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ikilọ kuro nibi ibinu Ọlọhun ati ifiyajeni Rẹ nigba ti wọn ba fa ọgba awọn eewọ Rẹ ya.

(3354)

(173) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّبَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(173) – Lati ọdọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o gba a wa lati ọdọ Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, o sọ pe: “E yera fún awọn nkan meje tí n pani run” Wọn sọ pé: Irẹ Ojise Ọlọhun, kí ni awọn nkan naa? Ó ní: “Sise ẹbọ pẹlú Ọlọhun, pípídán, pípa eniyan tí Ọlọhun se ní eewọ, àyàfi pẹlú ẹtọ, jíjẹ owó èlé, jíjẹ owó ọmọ òrukàn, sísalọ ní ojọ ogun ẹsin, ati jíju òkò sina mó awọn obinrin abilékọ, onígbàgbọ ododo, àwọn tí siná kò sí lórí ọkàn wọn”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Ojise Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, n pase fún àwọn ijo rẹ pé kí wọn jinna sí awọn iwa ọdaran ati ẹse meje ti n pani run, nigba ti wọn wá bi i leere pé kí ni wọn? O şalaye pé àwọn ni:

Ikinni: Sise ẹbọ pẹlú Ọlọhun, nipase wíwá alafiwe ati alafijo fun Un, èyí ó wù ki o je, mimọ ni fún Ọlọhun, ati şise eyikeyii ninu awọn ijọsin fún ẹlomiran tó yatọ si Ọlọhun Allah, Ọba Aleke ọla. Àti pé Ojise Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – bere pẹlú ẹbọ; nitori pe oun ló tobi julọ ninu awọn ẹse.

Ikeji: Idán şise – oun naa ni títa kókó àwọn nkankan, ati pípọfò, ati awọn oogùn, ati awọn eéfin ti n rú jáde – yoo lapa lára ẹni tí wọn bá se idan sí, bii kí o pa ẹni naa, tabi kí ó kó àisàn ba a, tabi kí ó fa ipinya

laarin oko ati aya. Ise esu ni, ati pe won o le ri opolopo ninu awon idan yi se ayafi nipase ebọ ati ipese nkan ti awon emi esu buruku nifese si fun won.

Eketa: Pipa emi ti Olohun se ni eewo lati pa a ayafi pelu nkan ti o maa so o di eto ti o ba seria mu ti oludajo seria si maa mu u se.

Ekerin: Gbigba owo ele lati le je e tabi lilo o ni ona miiran ninu awon ona anfaani.

Ikarun-un: Itayo ala si owo omọ kekeré ti baba re ku nigba ti ko i ti balaga.

Eketa: Sisa kuro loju ogun esin pelu awon keferi.

Ikeje: Fifi esun agbere kan awon obinrin olominira, olusora nibi iranu, ati fifi esun kan awon okunrin bakan naa.

### **Lara awon anfani hadisi naa:**

1. Awon ese nlanla ko pin si ori meje, ati pe dida awon meje wonyi sa leja je nitori titobi won ati ewu won.
2. O to lati pa emi kan ti o ba je pelu eto, gege bii gbigbesan ati kikomoto ati agbere lehin igbeyawo, ati pe oludajo sharia lo ma se e.

(3331)

(174) - عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أَنْبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [صحيح] - [متفق عليه]

(174) – Lati ọdọ Abu Bakra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: “Njẹ emi ko wa ni fun yin ni iro nipa awọn ti o tobi ju ninu awọn ẹṣe ní lá bi?” O sọ bẹẹ ni igba méta, wọn sọ pe: A fẹ bẹẹ irẹ ojìṣẹ Ọlọhun, o sọ pe: “Mimu orogun pẹlú Ọlọhun ati yiyapa aṣẹ awọn obi mejeeji”, o wa jokoo, o si jẹ ẹnì ti o rọgbọku tẹlẹ, ni o wa sọ pe: “E gbọ o, ati ọrọ eke”, o sọ pe: Ko wa yẹ ni ẹnì ti n wi i ni awitunwi titi ti a fi sọ pe: Iba tiẹ si dake. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ọnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba - n sọ fun awọn saabe rẹ nipa awọn ti o tobi ju ninu awọn ẹṣe nla, nitori naa o daruko àwọn méta yii:

1. Imu orogun pọ mọ Ọlọhun: Oun naa ni fifi iran kan ninu awọn iran ijọsin fun ẹlòmíràn yatọ si Ọlọhun, ati fifi ẹnì ti o yatọ si Ọlọhun dọgba pẹlu Ọlọhun nibi iní-ètọ si ijọsin Rẹ, ati ijẹ Oluwa Rẹ, ati awọn oruko ati awọn iroyin Rẹ.

2. Yiyapa aṣẹ awọn obi mejeeji: Oun naa ni gbogbo ipalara ṣiṣe si obi mejeeji, yala ninu ọrọ tabi iṣe, ati gbigbe ṣiṣe daadaa si wọn jù silẹ.

3. Ọrọ eke, ninu rẹ naa ni ẹrì eke: Oun naa ni gbogbo ọrọ iro ti wọn n fẹ lati fi tabuku ẹnì ti o ba ṣeṣe si i, pẹlu gbígba dúkiá rẹ, tabi titayo aala lori omọluabi rẹ tabi nkan ti o jọ bẹẹ.

Ojìṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ti paara ikilọ kuro nibi ọrọ eke, lati ṣe itaniji lori ibajẹ rẹ (aidara rẹ) ati oripa aburu rẹ lori awujo, titi ti awọn saabe fi sọ pe: Ko ba tiẹ si dake; ni ti ikáàánú rẹ, ati ikorira ohun ti o n yọ ọ lenu.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Eṣe ti o tobi julọ ni mimu orogun mo Ọlọhun; nitori pé O se e ni eyi ti o gba iwaju ti o si tobi ju ninu awọn eṣe nla, nkan ti o n fi idi eleyii mulẹ ni gbólóhùn Ọlọhun ti ọla Re ga ti o so pe {Dájúdájú Allāhu kò ní foríjin (eni tí) ó bá n ṣeḅo sí I. Ó sì máa ṣàforíjìn fún ohun mìíràn yàtò sí ìyẹn fún eni tí Ó bá fẹ.}.
2. Titobi awọn eto awọn obi mejeeji, latari pe Ọlọhun ti ọla Re ga so eto won mo eto ti E.
3. Awọn eṣe pin si awọn eṣe nla ati awọn eṣe kekere, ati pe awọn eṣe nla ni: Gbogbo eṣe ti o ni ijiya ni aye, geṣe bii awọn ijiya to ni odiwon ati egún, tabi adehun iya ojo ikehin, geṣe bii adehun iya pelu wiwo ina, ati pe awọn eṣe ti o tobi ipele ipele ni, ti apakan re si nipon nibi sise ni eewo ju apakan lo, ati pe awọn eṣe kekere ni awon ti o yatọ si awon eṣe nla.

(2941)

(175) – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(175) – Lati odo Abdullahi omo Amru omo ‘Aas- ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji- lati odo Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o so pe: “Awon eṣe nlanla ni: Mimu orogun pelu Ọlọhun, sise baba ati iyá, pipa emi, ati bibura lori iro”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n ṣaláyé pe awon nlanla ninu awon eṣe, awon ni eyi ti won se adehun iya fun eni ti o ba se e pelu adehun iya ti o le koko ni aye tabi ni orun.

Akọkọ ninu ẹ ni “Mimu orogun pọ mọ Ọlọhun”: Oun ni yi yi eyikeyii iran ninu awọn iran ijọsin fun ẹni ti o yatọ si Ọlọhun, ati gbigbe ẹni ti o yatọ si Ọlọhun si ipo Ọlọhun nibi nnkan ti o jẹ awọn ẹsa Ọlọhun nibi ìní-ètọ si ijọsin Rẹ, ati nibi jijẹ Oluwa Rẹ ati nibi awọn orukọ Rẹ ati awọn iroyin Rẹ.

Ikeji nibẹ ni “Şişe baba ati iya”: Oun ni gbogbo nnkan ti o le sọ fifi suta kan baba ati iya di dandan ni ti ọrọ ni tabi işe, ati gbigbe şişe daadaa si wọn ju silẹ.

Ikẹta nibẹ ni “pipa ẹmi”: Laini ẹto, gege bii pipa ẹmi ni ti abosi ati ni ti itayo ẹnu-àlà.

Ikẹrin nibẹ ni “Bibura lori irọ”: Oun ni bibura ni ẹni tí n pa irọ ti o si mò pé irọ ni oun n pa, wọn sọ ọ ni orúkọ yẹn; nitori pe o maa n tẹ ẹni ti o n pa a ri sinu ẹşẹ tabi inu ina.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Bibura lori irọ, ko si ìpèşèré fun un; nitori lile koko ewu rẹ ati ẹşẹ rẹ, bi ko şe pe ironupiwada ni o wa nibẹ.
2. Wọn dárúkọ awọn ẹşẹ nlanla merin yii nìkan ninu hadiisi naa fun titobi ẹşẹ wọn, kii şe pe àwọn nìkan naa ni ẹşẹ ñláńlà.
3. Awọn ẹşẹ pin si nlanla ati keekeke, awọn nlanla ni: Gbogbo ẹşẹ ti ijiya ti aye n bẹ nibẹ, gege bii ijiya ti sharia fi ààlà si, ati ègún, tabi adehun iya ti ọrun, gege bii adehun iya pelu wiwo ina, ati pe awọn ẹşẹ nlanla ìpele ìpele ni wọn, awọn kan ninu wọn nipọn ju awọn kan lọ nibi jijẹ eewọ, awọn ẹşẹ keekeke ni awọn ti wọn yatọ si awọn ẹşẹ ñláńlá.

(176) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ

مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(176) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Mas'ud- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Akọko nnkan ti wọn maa ṣe idajọ re laarin awọn eniyan ni ojo igbedide ni nibi awọn eje". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ọnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju akọko nnkan ti wọn maa ṣe idajọ re laarin awọn eniyan nibi abosi apa kan si apakan ni ojo igbedide ni: Nibi awọn eje, gege bii pipa eniyan ati awọn oge.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi àlámọrí awọn eje, nitori pe ibèrè maa n je pelu eyi ti o ṣe pataki julọ.
2. Awọn eṣe maa tobi ni ibamu si titobi ibaje ti o wa nibe, ati ita awọn emi alaiṣe silẹ wa ninu eyi ti o tobi julọ ninu ibaje, ko si eyi ti o tobi ju u lo afi ṣiṣe aigbagbo ati dida orogun pọ mọ Ọlọhun- ti ọla Re ga-.

(2962)



(177) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(177) – Lati ọḍọ Abdullahi ọmọ Amr- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: “Eni ti o ba pa ẹni a gba adehun lẹwọ rẹ ko nii gbọ oorun alujanna, ati pe dajudaju oorun rẹ wọn maa n gbọ ọ lati ijinna ogoji ọḍun”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n şàlàyé adehun iya ti o le koko to wa lori pe dajudaju ẹni ti o ba pa ẹni ti a gba adehun lẹwọ rẹ- oun ni ẹni ti o wọ ilẹ Isilaamu ninu awọn alaigbagbọ pẹlu adehun ati ifọkanbalẹ- pe ẹni naa ko nii gbọ oorun alujanna, ati pe dajudaju oorun rẹ maa jẹ ijiina irin ogoji ọḍun.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe leewọ pipa Al-Mu’aahad ati Adh-dhimmiyy ati Al-Mustahman ninu awọn alaigbagbọ, ati pe o jẹ eṣe nla ninu awọn eṣe nlánlá.
2. Al-Mu’aahad ni: Ẹni ti wọn gba adehun lẹwọ rẹ ninu awọn alaigbagbọ ti o si n gbe ni ilu rẹ ti ko gbe ogun ti awọn Musulumi ti awọn naa ko gbe ogun ti i, Adh-dhimmiyy ni: Ẹni ti o sọ ilẹ awọn Musulumi di ilu ti o si n san ìsákólẹ, Al-Mustahman ni: Ẹni ti o wọ inu ilẹ awọn Musulumi pẹlu adehun ati ifọkanbalẹ fun asiko kan pàtó.
3. Ikilọ kuro nibi jijanba awọn adehun pẹlu awọn ti wọn ko kii ṣe Musulumi.

(64637)

(178) – عن جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(178) – Láti òdò Jubair ọmọ Mut'him- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe oun gbọ ti Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Eni tí ba n ja okùn ẹbí ko nii wọ alujanna”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe eni ti o ba gé ẹtọ ti o jẹ dandan fun awọn ẹbí rẹ ti ko ẹ e fun wọn, tabi ti o fi suta kan wọn, tabi ti o ẹ aburu si wọn, o ni ẹtọ si ki o ma wọ alujanna.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jija okun ẹbí jẹ ọkan ninu awọn ẹṣe nílá.
2. Dída ẹbí pọ maa wa ni ibamu si àṣà ni, o maa yatọ ni aaye kan si aaye kan, ati asiko kan si asiko kan, ati awọn èyàn kan si awọn èyàn kan.
3. A maa n da ẹbí pọ pẹlú ẹṣe abẹwo, ati sààrà, ati ẹṣe dáadáa si wọn, ati bibẹ aláìsàn wo, ati pipa wọn láṣe ẹṣe dáadáa, ati kikọ fun wọn kuro nibi aburú, ati nńkan ti o yatọ si iyẹn.
4. Bi ẹbí tí èyàn já okùn rẹ ba ẹ sunmọ sí ni ẹṣe rẹ ẹ maa lágbara tó.

(5367)

(179) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً». [صحيح] - [متفق عليه]

(179) – Láti ọ̀dọ̀ Anas ọ̀mọ̀ Maalik- ki Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu si i- pe Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pé: “Èni tí ó bá fẹ́ ki wọ̀n gbòòrò arisiki fun oun, ti o si fẹ́ ki ẹ̀mi oun gùn, ki o maa da ẹ̀bí pọ̀”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọ̀n fi ẹ̀nu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n ẹ̀ni lojukokoro lati maa da ẹ̀bí pọ̀ pẹ̀lú abẹ̀wo ati aponle ti ara ati ti owó, ati nńkan ti o yato si i, oun si tun ni okùnfa gbígbòòrò arisiki ati ẹ̀mi gígùn.

### Lára àwọ̀n ànfànání hadiisi naa:

1. Ar-Rọ̀him ni àwọ̀n mọ̀lẹ̀bi ni igun ti bàbá ati iya, bi o ba ẹ̀ sunmọ̀ si naa ni o ẹ̀ ni ẹ̀to láti da a pọ̀ tó.
2. Ẹ̀san maa wa latara iran iṣẹ̀ ni, ẹ̀ni tí ó bá da ẹ̀bí rẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú dáadáa, Ọ̀lọ̀hun maa da a pọ̀ nibi ọ̀jọ̀-orí rẹ̀ ati arisiki rẹ̀.
3. Dida ẹ̀bí pọ̀ jẹ̀ okùnfa gbígbòòrò arisiki ati ẹ̀mi gígùn, bi o tilẹ̀ jẹ̀ pé àsìkò ti èyàn maa lò laye ati arisiki ti ni gbèdẹ̀ke, sùgbọ̀n o tun le jẹ̀ ìbùkún nibi arisiki ati ọ̀jọ̀-orí, o maa wa fi ìgbésí ayé rẹ̀ ẹ̀ nńkan ti o maa pọ̀ ti o si maa ẹ̀ ànfànání ju nńkan ti ẹ̀lòmíràn maa ẹ̀ lo, àwọ̀n kan sọ pé alekun arisiki ati ọ̀jọ̀-orí naa maa jẹ̀ alekun gidi. Ọ̀lọ̀hun ni O ni imọ̀ julọ̀.

(5372)

(180) - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكْفَى، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(180) – Lati ọdọ Abdullah ọmọ Amr- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - o gba a wa lati ọdọ Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba - ó sọ pé: "Kii se ẹniti n fi dáadáa şesán dáadáa ni ó pé perepere nibi siso okùn-ẹbi, şugbọn oluso okùn-ẹbi gangan ni ẹniti ó jé pé nigba ti awọn eniyan bá já okùn-ẹbi rẹ dònù, ó maa n so o padà". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ fún wa pé dajudaju eniyan tó pé nibi siso okun-ẹbi ati şise daadaa si awọn ibatan rẹ kii se eniyan tí ó n san daadaa pelu daadaa nikan, bi ko se pé ẹniti ó n so okun-ẹbi gangan, tó si pé nibi siso okun-ẹbi ni ẹniti o jé pé bí wọn bá já okun-ẹbi rẹ, ó maa so o padà, kòdà bí wọn bá se aburú si i; dáadáa ni oun maa se sí wọn padà.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Siso okun-ẹbi tí ó wà ní ibamu pelu Sharia ni pé kí o sọpọ mọ awọn tí wọn bá já ọ danu kuro laarin wọn, ki o sì şamojukuro fun awọn ti wọn bá şabosi sí ọ, ki o sì fún awọn ti wọn bá şahun si ọ, kii se pé ki o sọpọ pelu sísẹsan iru nkan ti wọn se si ọ.
2. Siso okun-ẹbi ni pé kí o mu de ọdọ wọn nkan tó bá rọ ọ lórun ninu oore, bii owo, adura, pipaşe nkan dáadáa, kikọ nkan aburu, ati iru beşe, kí o sì ti aburu dònù fun wọn bí ó bá ti rọrun fun ọ.

(181) - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَذُرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(181) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Nje e mọ ohun ti n je ọrò-ẹyìn?”, wọn sọ pé: Ọlọhun ati ojiṣe Re ni wọn ni imọ ju, o sọ pé: “Oun naa ni ki o maa sọ nipa ọmọ-iyá re ohun ti o korira”, wọn sọ pé: Ti ohun ti mo n sọ ba n be lara ọmọ-iyá mi nkó? O sọ pe: “Ti ohun ti o n sọ ba n be lara ọmọ-iyá re, o ti sọ ọrọ re léyìn niyẹn, sùgbón ti ko ba si lara re, o ti dá àdápá irọ mọ ọn niyẹn”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n ṣàlàyé pàápàá ọrò-ẹyìn ti o je eewọ, oun naa ni: Sísọ nipa Mùsùlùmí ti ko si ni tòsí ohun ti o maa korira, bóyá o je nibi awọn iròyìn re ti wọn dá mọ ọn tabi ti iwà, gege bii: Olojukan eṣetan òpùró, ati awọn nńkan ti o jọ o ninu awọn iròyìn ègàn, kódà ki iròyìn náà o wa lára re.

Sùgbón ti iroyin naa ko ba si lara re, eyi tun buru ju ọrò-ẹyìn lọ, oun ni BUHTAAN, itumọ re ni: Adapa irọ mọ ọmọniyan pèlú nńkan ti ko si lára re.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Didara ikọni ni èkọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- bi o se n ju àwọn ọrò ẹsìn silẹ nípasẹ ibeèrè.
2. Didara eko àwọn saabe pèlú Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a-, nígbà tí wọn sọ pe: Ọlọhun ati ojiṣe Re ni wọn mọ julọ.
3. Ki ẹnì tí wọn ba bi ni ibeere nipa nńkan ti kò mọ sọ pe: Ọlọhun ni O ni imọ julọ.

4. Sharia şo àwùjọ pẹlu şişo àwọn ètọ àti ije omo-iya laarin won.
5. Eewo ni oṣo-eyin ayafi ni àwọn işesi kan fun ànfààní; ninu re ni: Dida àbòsí padà, nibi ti ẹni tí wọn şe abosi si ti maa dárúko ẹni ti o şe abosi si i loḍo ẹni ti o ba le ba a gba eto re, o maa so pé: Lagbaja şe àbòsí fun mi, tabi o şe bayii fun mi, nínú rẹ ni: Ìjíròrò nipa oṣo igbéyàwó, tabi jijo da nńkan papo, tabi mimu ilé ti ara ẹni, àti ohun ti o jo iyen.

(5326)

(182) – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مُسْكِرٍ نَخْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الآخِرَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم وأخرج البخاري الجملة الأخيرة منه]

(182) – Lati oḍo omo Umar - ki Olohun yonu si awon mejeeji - o so pe: Ojise Olohun - ki ike ati ola Olohun maa ba a - so pe: «**Gbogbo nkan ti o ba ti n muni hunrira oti ni, ati pe gbogbo nkan ti o ba ti n muni hunrira eewo ni, ati pe ẹni ti o ba mu oti ni aye ti o wa ku ni ẹni ti o kúndùn re ti ko tuuba, ko nii mu un ni ojo ikeyin**». [O ni alaafia] - []

### Àlàyé:

Anabi- ki ike ati ola Olohun maa ba a- şe alaye pe dajudaju gbogbo nkan ti o ba ti le mu laakaye lo ni oti ti n pa eeyan, yala o je mimu tabi jije tabi fifin simu tabi eyi ti o yato si i, ati pe dajudaju gbogbo nkan ti o le muni maa hunrira ti O si maa pa laakaye ni Olohun Oba ti O biyi ti O gbongbong ti şe e ni eewo ti O si tun ko kuro nibe, kekere re ni ati pipo re, Ati pe gbogbo ẹni ti o ba mu eyikéyií ninu awon iran nkan ti o máa n muni hunrira, ti o tun wa dunni mo mimu un ti ko si tun tuuba ninu re ti o fi ku; onítòhún ti letoo si Iya Olohun pẹlu şişe mimu un ni eewo fun un ninu al-jannah.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Okunfa ṣiṣe ọ́tí ni eewọ ni pipani, nitori naa gbogbo nkan ti o ba ti n pani, iran yòówù ki o jẹ, èèwọ ni.
2. Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ẹ ọ́tí ni eewọ latari nkan ti o ko sinu ni awọn inira ati awọn ibajẹ ti o tobi.
3. Mimu ọ́tí ninu al-jannah ninu pipe adun ati idẹkun ni o wa.
4. Ẹni ti ko ba ko ẹmi rẹ ro nibi ọ́tí mimu ni ayé, Ọlọhun yoo ẹ mimu rẹ ni eewọ fun un ninu al-jannah, nítorí pé igba ti wọn ba fi wínkà ni wọn fi n san an.
5. Ṣiṣenilojukokoro lori yiyara tuuba kuro nibi ẹṣẹ ṣaaju iku.

(58259)

(183) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ. [صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(183) – Lati ọdọ Abu Huraira, ki Ọlọhun yonu si i, o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹ ibi lé ẹni ti n san abẹṣe ati ẹni ti n gba a nibi idajọ (igbejọ). [O ni alaafia] - [Tirmiziy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ẹ ibi ilejina si ike Ọlọhun ti O biyi ti O gbongbong le ẹni ti n san abẹṣe ati ẹni ti n gba a.

Ati pe ninu rẹ naa ni eyiti wọn maa n fun awọn adajọ lati le jẹ ki wọn o ẹ abosi nínú ẹjọ ti wọn n da; ki ẹni ti o fun un le baa de ibi nkan ti o n fẹ lai ni ẹtọ si i.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Sisan abẹ̀tẹ̀lẹ̀ jẹ eewọ, ati gbigba a, ati şişe alagata niḅe, ati şişe ikunlọwọ lori rẹ; latari nkan ti o wa ninu rẹ ni ikunlọwọ lori ibajẹ.
2. Abẹ̀tẹ̀lẹ̀ wa ninu awọn eşe ti o tobi; torí pé dajudaju ojişe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - şeḅi le ẹni ti n gba a ati ẹni ti n san an.
3. Ọran nla ni abẹ̀tẹ̀lẹ̀ jẹ ni agbegbe idajọ ati ofin, eşe ti o ni agbara si tun ni; latari nkan ti o wa ninu rẹ ni abosi ati şişe idajọ pẹlu nkan ti o yatọ si nkan ti Ọlọhun sọkalẹ.

(64689)

(184) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(184) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: "E sọra fun aba dida; nitori pe aba dida jẹ eyi ti o jẹ iro julọ ninu ọrọ, ẹ ma şe maa ọnà láti tu ihoho ara yin sita, ki ẹ si ma maa topinpin ara yin, ki ẹ si ma maa şe keeta ara yín, ki ẹ si ma maa kọ eyin si ara yin, ki ẹ si ma maa korira ara yín, ki ẹ jẹ eru Ọlọhun ni ti ọmọ iya". [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n kọ o si n kilọ kuro nibi awọn kan ninu nnkan ti o le bi opinya ati ọta laarin awọn Musulumi, Ninu iye ni:

(Az zonnu) oun ni ikefin ti o maa n şeḅe ninu ọkan laini ẹri; o si şàlàyé pe o wa ninu eyi ti o jẹ iro julọ ninu ọrọ.



Ati kuro nibi (At tahassus): Oun ni wiwadii nipa awon ihoho awon eniyan pelu oju tabi eti.

Ati (At-tajassus): Oun ni wiwadii nipa nnkan ti o pamọ ninu awon alamọri, ibi ti won ti maa n so iyen ju ni nibi aburu.

Ati kuro nibi: (Al hasad) oun ni ikorira sisele idera fun awon elomiran.

Ati kuro nibi (At tadaabur) ki awon kan ninu won maa gbunri kuro lododo awon kan, ko nii salamo, ko si nii se abewo omo-iya re ti o je Musulumi,

Ati kuro nibi: (At tabaagud) ati ikorira ati jinnani-sini,gege bii fifi suta kan awon elomiran, ati lile oju ati aima pade ara eni daadaa.

Leyin naa, o so gbolohun soki kan ti o ko nnkan ti o po sinu ti o maa tun awon isesi awon Musulumi se pelu ara won: (ki e je eru Olahun ni ti omo iya) Ati pe ije omo iya je asopo kan ti awon ajosepo laarin awon eniyan fi maa n le po, ti o maa n lekun ife ati irepo laarin won.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Aba dida buruku ko ki n ko inira ba eni ti awon ami re ba han lara re, o wa je dandan fun olugbagbo lati je eni ti o gbun ninu ati leyin ti ko nii gba etanje pelu awon eni buruku ati awon pooki.
2. Nnkan ti a gba lero ni ikilo kuro nibi kikefin ti o maa n rinle ninu emi, ati titaku lori re, sugbon eyi ti o maa n selo ninu emi ti ko rinle, eleyi won ko la a bo o lorun.
3. Sise awon okunfa ikorira-ara-eni ati opinya laarin eni kookan ninu awujo Musulumi lewo, bii itopinpin ati keeta ati nnkan ti o jo mejeeji.
4. Asotele pelu biba Musulumi lo ni ibalo omo iya nibi igbani ni imoran ati ini ife ara eni.

(185) – عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(185) – Látì ọ̀dò Huzaefah- ki Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu si i- o sọ pe: Mo gbọ ti Anọbi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n sọ pe: “Olófòfóó ko nii wọ alujanna”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọ̀n fi ẹ̀nu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n sọ pé olofofoo ti n gbe ọ̀rò kiri láàrin àwọ̀n èyàn látì da ààrín wọ̀n rú, pe iru ẹ̀ni bẹ̀ ni ẹ̀tọ̀ si ìjìyà pe ko nii wọ̀ alujanna.

### Lára àwọ̀n ànḡààní hadiisi naa:

1. Ọ̀fófó wa ninu awọ̀n ẹ̀şẹ̀ ílá.
2. Kikọ̀ ofofo şíşẹ̀; tori ibajẹ̀ ati ìnira laarin ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan ati awọ̀n janmọ̀n ti o wa ninu ẹ̀.

(5368)

(186) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَاذِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(186) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Mo gbọ ti ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ pe: «**Gbogbo ijọ mi ni wọn maa sọ kuro nibi aburu ayaafi awọn alaṣehan, ati pe dajudaju ninu aṣehan ni ki ọmọniyàn o ṣe iṣe kan ni oru, leyin naa ki o wa ji ti Ọlọhun si ti bo aṣiri re, ki o wa sọ pe: Ire lagbaja, mo ṣe nkan bayii bayii ni ale ana, ti Ọlọhun si ti bo aṣiri re ni ale, yio waa ji lati si gaga aṣiri bibo Ọlọhun kuro**». [O ni alaaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - ṣe alaye pe dajudaju Musulumi eṣe ni o ṣeṣe ki o ri amojukuro Ọlọhun ati aforijin Re, ayaafi ẹni ti o ba n fi eṣe han ní ti ṣiṣe faari ati jije aṣa, oun o letoṣi si amojukuro; latari pe yio da eṣe ni oru, leyin naa yio ji ni ẹni ti Ọlọhun ti bo aṣiri re, ni yio ba sọ fun ẹlómíràn pe oun da eṣe bayii ni ana, ti o si sun ti Oluwa re ti bo o ni aṣiri, ni yio ba ji ti yoo waa tu aṣiri bibo Ọlọhun lori re.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Aidaa mimaa fi eṣe han leyin ti Ọlọhun ti ọla Re ga ti bo aṣiri re.
2. O n be nibi imaa fi eṣe han titan ibaje ka laarin awọn Mumuni.
3. Ẹni ti Ọlọhun ba bo ni àṣírí ní aye yio bo o ni aṣiri ni ojo ikeyin, ati pe eleyii wa ninu gbigbaaye ike Ọlọhun ti ọla Re ga pelu awọn ẹru Re.

4. Èni ti wọn ba fi eṣe ṣe adanwo fun ki o bo ara re ni àṣírí ki o si tuba lo si oḍo Olohun.
5. Titobi eṣe awon alasehan awon ti won mojomọ maa n fi eṣe han, ti won si maa n pa ara won ni adanu amojukuro.

(3756)

(187) – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاطَمَهَا بِآبَائِهَا، فَالْنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]». [صحيح] - [رواه الترمذي وابن

حبان]

(187) – Lati oḍo omọ ‘Umar – ki Olohun yonu si awon mejeeji: Dajudaju Ojise Olohun – ki ike ati olo Olohun maa ba a – ba awon eeyan soro ni ojo ti won si Makkah, ni o wa so pe: «**Mo pe eyin eeyan, dajudaju Olohun ti gbe kuro fun yin igberaga igba aimokan ati sise iyanran won pelu awon baba won, nitori naa meji ni awon eeyan: eniire olupaya alapon-onle lodu Olohun, ati onibaje oloriibu eni yepere lodu Olohun, awon eeyan, omọ Anabi Adam ni won, ti Olohun si da Adam lati ibi erupe, Olohun so pe: {Eyin eniyàn, dájúdájú Àwa ṣedá yín láti ara okúnrin àti obínrin. A sì ṣe yín ní orílẹ̀-èdè orílẹ̀-èdè àti ìran-ìran nítorí kí ẹ̀ lè dára yín mò. Dájúdájú alápòn-ònlé jùlọ nínú yín lódò Allāhu ni ẹ̀ni t’ó bèrù (Rẹ) jùlọ. Dájúdájú Allāhu ni Onímò, Alámòtán} [Al-Hujrāt: 13]**». [O ni alaafia] - [Tirmiziy ati Ibnu Hibbaan ni won gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi – ki ike ati olo Olohun maa ba a – ba awon eeyan soro ni ojo ti won si Makkah, o wa so pe: Mo pe eyin eeyan dajudaju Olohun ti gbe

kuro fun yin igberaga igba aimokan ati ijora-eni-loju re, ati fifi awon baba eni se iyanran, ati pe awon eeyan iran meji ni won:

Ninu ki o je Mumini eniire olupaya Olohun olutele ase ti n josin fun Olohun, eleyii alapon-onle ni lodu Olohun, koda ki o ma je eni ti o ni ipo ati iran lodu awon eeyan.

Tabi ki o je keferi onibaje oloriibu, eleyii eni yepere ti ko ni asunsi ni lodu Olohun, ti ko si ja mo nkankan, koda ko je abiyi ti o ni ipo ati ola.

Ati pe gbogbo eeyan pata omu Anabi Aadam ni won, ti Olohun si da Aadam lati ibi erupe, nitori naa ko leto fun eni ti ipile re je erupe ki o se igberaga ati ijora-eni-loju, ati pe nkan ti o fi idi iyen mule ni gbolohun Olohun ti O tobi ti O gbongbon to so pe: {Eyin eniyàn, dájúdájú Àwa şedá yín láti ara okùnrin àti obìnrin. A sì se yín ní orílè-èdè orílè-èdè àti iran-iran nítorí kí ẹ̀ lè dára yín mò. Dájúdájú alápòn-ónlẹ̀ jùlọ̀ nínú yín lódò Allāhu ni eni t’ó bèrù (Rẹ̀) jùlọ̀. Dájúdájú Allāhu ni Onímò, Alámòtán} [Al-Hujrāt: 13].

## Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Kiko kuro nibi sise iyanran pelu iran ati ipo.

(65074)

(188) – عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرَّجَالِ إِلَيَّ  
اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(188) – Láti odò Aishah- ki Olohun yonu si i- lati odò Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- o so pe: “Dájúdájú èyàn ti Olohun koriira jù ni alatakò ti o le julò”. [O ni alaaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- n so pe Olohun ti ola Re ga n koriira ninu awon èyàn eni ti o le ni atakò ti o si maa n saaba se

àtakò, ẹni tí kii ẗerí ba fun òdodo, ti o maa n gbìyànjú láti da a pada pẹlu iyàn jíjà rẹ, tabi ki o maa ẹ àtakò lori ododo, ẹ̀gbón o maa ki aṣeju bọ ọ, o tun maa ẹ àtakò láìní imọ.

### Lára àwọn ànḡààní hadiisi naa:

1. Ki ẹni tí a ẹ àbòsí si beere ẹtọ rẹ nípasẹ gbigbe ẹjọ lọ ba adajo ti o ba òfin mu, eleyii kò kó sinu àtakò ti ko dára.
2. Ìjìyàn ati àtakò wa ninu awọn ìpalára ahon ti o maa n ẹ okunḡà ìpín yéleyéle ati ìkòyìn-sí-ara-ẹni láàrin àwọn Musulumi.
3. Àtakò ti o dara ni eyi ti o ba ẹ nibi òdodo, ti ònà ti a gbe e gba naa si dára, o si maa ẹ eyi ti ko dára ti o ba wa fun dida òdodo padà, ati fifi irọ rinle, tabi ki o ma si ẹrí kankan fun un.

(5474)

(189) – عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(189) – Láti òdò Abu Bakrah- ki Olohun yonu si i- o so pe: Mo gbọ ti ojiṣe Olohun- ki ike Olohun ati ọla Rẹ maa ba a- n so pé: “Ti Mùsùlùmí mejì ba padé ara wọn pẹlú idà, ati ẹni ti o pa eeyan ati ẹni tí wón pa, wọn jọ maa wọ iná ni”, mo wa so pe: Irẹ ojiṣe Olohun, a gbọ ti ẹni tí o pa èyàn, ẹni tí wón pa wa nkọ? O so pé: “Oun naa fẹ pa ẹni keji rẹ ni”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wón fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Olohun ati ọla Rẹ maa ba a- n so pe ti Mùsùlùmí mejì ba pade ara wọn pẹlú idà, ti ikíni kejì wọn n gbero lati pa ikejì rẹ; ẹni tí ó pa èyàn maa wọ iná; tori pe oun ni o pa ikejì rẹ tààrà, Òrò ẹni tí wón

pa wa ru àwọn saabe lójú pe: Báwo ni o ẹ se maa wọ ina? Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa sọ pé torí pé oun naa fẹ pa ikeji rẹ ni, ko si si nńkan ti o kọ fun un lati ma pa a ju pe ọwọ ẹni tí o pa a yá ju tiẹ lọ ni.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ìní-ẹtọ si iyà ẹni ti o ba pinnu láti da ẹşẹ nínú ọkàn rẹ ti o si ẹ àwọn okùnfà rẹ tààrà.
2. Ikilọ ti o lágbára kúrò nibi ki awọn Mùsùlùmí maa ba ara wọn ja, ati àdéhùn iyà iná lori ẹ.
3. Ìjà láàárín àwọn Musulumi pẹlu ẹtọ kò kó sínú adehun iyà naa, gẹgẹ bii bíbá àwọn ti o kojá ẹnu-ala jà ati awọn obileje.
4. Ẹni ti o ba da ẹşẹ nílá ko nii di Kẹfèrí pẹlu ọwọ pé ó kàn dá ẹşẹ naa; torí pé Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pe àwọn ti wọn n ba ara wọn jà ni Musulumi.
5. Ti Musulumi meji ba pade ara wọn pẹlú ẹyíkẹyíí nńkan ti wọn le fi pa èyàn, ti ọkan ninu wọn wa pa ikeji, ẹni ti o pa èyàn ati ẹni tí wọn pa maa wọ ina, wọn kan dárúkọ idà ninu hadiisi naa lati fi ẹ àpẹjúwe ni.

(4304)

(190) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [صحيح] - [متفق عليه]

(190) – Lati ọdọ Abu Musa Al-Ash'ariy- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: «**Ẹni ti o ba kọ oju ija si wa pẹlu ohun ijà, ko kii ẹ ara wa**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – n kilọ fun ẹni ti o ba da oju ija kọ awọn Musulumi pẹlu nkan ijà, lati le ẹru ba wọn ati lati fi tipa gba nkan wọn, nitori naa ẹni ti o ba ẹ iyẹn lai lẹto, o ti da ọran nla ati eṣe nla kan ninu awọn iya eṣe, ti o si lẹto si adehun iya ti o le.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ikilọ ti o le kuro nibi ki Musulumi o ba awọn ọmọ-iya ẹ Musulumi ja.
2. Ninu awọn ibajẹ ti o tobi julọ ni orilẹ ni yiyọ nkan ija si awọn Musulumi, ati ṣiṣe ibajẹ pẹlu ipaniyan.
3. Adehun iya ti wọn sọ yẹn ko ko ijà pẹlu ẹto sinu, geṣe bii biba awọn olutayo ala ati awọn aṣebajẹ ati awọn ti o yatọ si wọn ja.
4. Ṣiṣe ideruba awọn Musulumi pẹlu nkan ija tabi eyi ti o yatọ si i ni eewọ– koda ki o jẹ ni ọna awada -.

(2997)



(191) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَآتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(191) – Láti ọ̀dò Aishah- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i- o sọ pé: Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ́ maa ba a- sọ pé: “E ma bu àwọn òkú; torí pé wọn lọ ba nńkan ti wọn ti síwájú” [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ́ maa ba a- n şàlàyé pe ki a ma maa bú àwọn òkú, ati pe eyi wa ninu awọn iwa buruku; torí pé wọn ti de ibi ti nńkan ti wọn ti síwájú wa ninu işe rere tabi buruku, gege bi o şe jé pé éébú yii ko lee dé ọ̀dọ̀ wọn, o kan maa kó sùtá ba àwọn aláàyè ni.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Hadiisi naa n tọka si şişe bíbú àwọn òkú ní eewọ.
2. O n bẹ nibi gbígbé bibu àwọn òkú jù silẹ şişọ anfaani àwọn aláàyè, ati mí mú ojú to ààbò àwùjọ kuro nibi ọta ati ìkórííra.
3. Ọgbón ti n bẹ nibi kikọ bibu wọn ni pe wọn ti de ibi ti nńkan ti wọn ti síwájú wa; torí naa eebu wọn ko şe anfaani, ati pe sùtá wa nibẹ fun awọn mọ̀lẹ́bí rẹ ti wọn wa láàyè.
4. Kò lẹtoṣo fun ọmọniyan lati maa sọ nńkan ti ko ba si anfaani ninu ẹ.

(5364)

(192) – عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(192) – Lati oḍo Abu Ayyub Al-Ansaariy- ki Oḷohun yonu si i- pe ojise Oḷohun- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- so pé: “Kò tó fun oḿoniyan ki o yan oḿo-iyá re lódi tayọ ojọ męta, àwọn méjẹẹ̀jì maa pàdé, eléyí maa wa gbúnrí, èyí naa maa gbúnrí, ẹni tí ó ni oore ju ninu awọn mejeeji ni ẹni tí ó bá kókó sálámọ̀”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anoḅi- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- kọ ki Mùsùlùmí yan oḿo-iyá re ti o je Mùsùlùmí lodi kojá ojọ męta, ti wọn maa pade ara wọn, ti wọn ko nii kí ara wọn, wọn ko si nii ba ara wọn sọrọ.

Eni tí ó ni oḷá ju ninu awọn mejeeji ti wọn n jà yii ni ẹni tí o ba n gbiyànjú lati mu odi kúrò, ti o maa wa kókó salamọ, ohun tí a gba lero pẹ̀lú HAJRU nibi ni odi nítorí ipín ti ẹmi, şugbón odi nítorí tí Oḷohun, gege bii yiyan àwọn eḷeşe lódi, ati awọn oni adadaale, ati awọn ore burúkú, eléyí ko ni asiko, bi ko şe pe o nii şe pẹ̀lú anfaani nibi odi, ti o si maa kúrò pẹ̀lú kikuro re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şise odi ni ẹto fun ojọ męta tabi ki o ma to beę, fun ti adamọ ti oḿoniyan, wọn wa yonda odi fun ojọ męta ki nńkan ti o şeri wa yẹn le lo.
2. Oḷa ti n be fun salamọ, ati pe o maa mu ohun ti n be ninu ẹmi kúrò, o si tun je àmì fun ifé.
3. Ojúkòkòrò Isilaamu lori ije oḿo-iyá ati ife láàrin àwọn Musulumi.

(193) - عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(193) – Lati ọdọ Sahl ọmọ Sahd - ki Ọlọhun yonu si i - ó gba a wa lati ọdọ Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – pé ó sọ pé: "Ẹnikéni tí ó bá fi dámilójú pé oun yòò sọ nkan tí n bẹ láàrín eegun ẹnu rẹ méjèèjì àti nkan tí n bẹ láàrín ẹsẹ rẹ méjèèjì, èmi yòò fi dá a lójú pé yoo wọ Alujanna". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọrọ nipa awọn nkan meji tó ẹ pé tí Musulumi bá dúnní mó wọn, dajudaju yòò wọ Alujanna.

Ikinni: Sísọ ẹnu kuro nibi síso nkan tí ó maa fa ibinu Ọlọhun Ọba,  
Èkejì: Sísọ abé kuro nibi iṣekúṣe;

nítórí pé awọn oríkèé ara meji wonyi, ẹsẹ máa n waye latara wọn lọpọlọpọ ìgbà.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Sísọ ẹnu ati abé jẹ ọnà lati wọ inu Alujanna.
2. Wọn dá ẹnu ati abé sà lẹsà; nitori pe awọn mejeeji ni orisun aluba ati adanwo tí ó tobi julọ fún eniyan ni aye ati ọrun.

(3475)

(194) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبَنِي، قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مُحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(194) - Lati ọdọ Sa‘eed Al-Khuduriy - ki Ọlọhun yonu si i - o je ẹni ti o kopa ninu ogun mejila pẹlu Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o so pe: Mo gbọ nkan meṣerin ni ẹnun Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o si jọ mi l'ọju, o so pe: «**Obinrin ko gbọdọ ẹ irin-ajo ti o to ojo meji ayaafi ki ọkọ rẹ tabi eleewọ rẹ o wa pẹlu rẹ, ko si si aawẹ ni ojo meji: Itunu aawẹ ati ileya, ko si tun si irun leyin asunbaa titi ti oorun o fi wọ, ko si si leyin Asri naa titi ti yio fi wọ, wọn o si tun gbọdọ di ẹru irin-ajo ayaafi lati lo si masalasi meṭa: Masalasi abeewọ, ati masalasi aqsa, ati masalasi mi yii**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnun kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọ kuro nibi awọn alamọri meṣerin kan:

Alakọkọ rẹ: Kikọ fun obinrin kuro nibi ẹṣe irin-ajo ojo meji lai si pẹlu ọkọ rẹ tabi ẹnikan ninu awọn eleewọ rẹ oun naa ni ẹni ti wọn ẹ fifẹ ẹ (omobinrin naa) ni eewọ fun un ni ẹṣe leewọ gbere ninu awọn alasinmọ-ọn, geṣe bii omọ ati baba, omokunrin omọ-iyara rẹ okunrin ati omokunrin omọ-iyara rẹ obinrin, ati omọ-iyara baba rẹ l'okunrin ati omọ-iyara rẹ l'okunrin, ati awọn to jọ bẹẹ.

Eleṣeje rẹ: Kikọ kuro nibi gbigba aawẹ ojo odun itunu ati ojo odun ileya, ki baa ẹ pe musulumi gba mejeje ni gbigba ti ẹjẹ, tabi aṣegboro, tabi itanran.

Eleṣeṣe rẹ: Kikọ kuro nibi kiki irun naafila leyin irun Asri titi ti oorun o fi wọ, ati leyin yiyo aarọ titi ti oorun o fi wọ.

Eḡkerin rẹ: Kikọ kuro nibi ṣiṣe irin-ajo lọ si aaye kan ninu awọn aaye ati nini adisọkan ọla rẹ ati nini adisọkan pe adipele ẹsan wa nibe yatọ si awọn masalasi męta, nitori naa a ko gbọḡo di ẹru irin-ajo lọ si ibi ti o yatọ si wọn lati lọ kirun nibe, torí pé dajudaju adipele o ni maa ba ẹsan ayaafi ni awọn masalasi męta yii, masalasi abeewọ (kahbah), ati masalasi Anabi, ati masalasi aqsa.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Aini ẹtọ ṣiṣe irin-ajo obinrin lai si eleewọ pẹlu rẹ.
2. Obìnrin o kii ṣe eleewọ fun obinrin ni irin-ajo; fun gbolohun rẹ ti o sọ pe: “Ọkọ rẹ tabi eleewọ rẹ”.
3. Gbogbo nkan ti wọn ba ti n pe ni irin-ajo, dajudaju wọn kọ fun obinrin ki o lọ lai si ọkọ tabi eleewọ pẹlu rẹ, ati pe hadīth yii nii ṣe pẹlu iṣesí onibeere ati aaye rẹ.
4. Eleewọ obinrin ni ọkọ rẹ tabi ẹni ti wọn ṣe fifẹ ẹ ni eewọ fun un titi láéláé latari ìbátan gęgę bii baba ati ọmọ ati ọmọ-iya baba l'ọkunrin ati ọmọ-iya iya l'ọkunrin, tabi ifunlọyan gęgę bii baba lati ibi ifunlọyan ati ọmọ-iya baba l'ọkunrin lati ibi ifunlọyan, tabi ije ana gęgę bii baba ọkọ, ati pe yio je musulumi ti o balaga ti o ni laakaye ti o ṣeé gbara le ti o ṣee fi ọkan tan, torí pé dajudaju nkan ti wọn gbero nibi eleewọ ni dida aabo bo obinrin ati sisọ ọ ati mimu ojú tó alamọri rẹ.
5. Akolekan ofin Isilaamu pẹlu ọmọbinrin ati dida aabo bo o ati sisọ ọ.
6. Aini alaafia kiki irun naafila leyin irun Al-fajri ati irun Asri, ati pe wọn yọ kuro ninu iyeṅ ṣiṣe adapada awọn irun ọranyan ti o bọ, ati awọn irun ti o ni idi gęgę bii tahiyyatul masjid (irun ti a maa n ki ti a ba wọ masalasi ki a to jokoo) ati eyi ti o jọ ọ.

7. Irun kiki jẹ eewo ni kete leyin yiyo oorun, dipo bẹẹ o gbodo gbera soke ni odiwon oko, ni nkan ti o sunmo isaju mewaa titi di bii isaju meedogun.
8. Asiko Asri gun titi di igba ti oorun o fi wo.
9. O n be ninu re sise ni eto didi eru irin-ajo lo si awon masalasi meta.
10. Ola ti n be fun awon masalasi meteta naa lori awon miran.
11. Ailetoto sise irin-ajo lati lo be saare wo koda ko je saare Anabi - ki ike ati ola Olahun maa ba a -, ati pe sise abewo re (saare Anabi) to fun eni ti o wa ni Madinah, tabi eni ti o wa si ibe fun idi kan ti won se lofin tabi ti o letoto.

(10603)

(195) – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(195) – Lati odò Usaamah omo Zayd- ki Olahun yonu si awon mejeeji- lati odo Anabi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- o so pe: “Mi o fi fitina kan kan silè leyin mi ti o ni awon okunrin lara ju awon obinrin lo”. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olahun ati ola Re maa ba a- n so pe oun ko fi adanwo kan kan silè leyin oun ti o ni awon okunrin lara ju awon obinrin lo, ti o ba je okan ninu awon araale re ni, o le selè lati odo re nibi iyapa sharia lati tele e, ti o ba si je ajoji si i, o le selè pelu iropo mo on ati dida wa pelu re, ati aburu ti o le ti ibe jade.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Musulumi gbọḍo sọra kúrò nibi fitina obìnrin, ki o si di gbogbo ọ̀nà ti o ba le mu u ko adanwo latara rẹ̀.
2. O tọ fun onigbagbo ododo ki o dírò mó Ọlọhun, ki o si maa ẹ ojúkòkòrò lọ sí ọ̀dò Rẹ lati la kúrò nibi awọn fitina.

(5830)

(196) – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوءَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(196) – Lati ọḍo Abu Sa'eed Al-Khudriy- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍo Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: "Dajudaju aye je nnkan ti o dun ti o si tutu, ati pe dajudaju Ọlọhun n fi yin ẹ arole nibẹ, ti yoo maa wo nnkan ti ẹ n ẹ, ẹ beru aye ki ẹ si beru obinrin, dajudaju akọkọ fitina awọn omo Ísírẹ̀lì je lara obinrin". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sàlàyé pe dajudaju aye dun nibi itowo, o si tutu nibi riri, ti omoniyan maa gba etanje pelu re ti yoo si tẹ̀rì sinu re ti yoo si sọ ọ di eyi ti o tobi julọ ninu ironu re. Ati pe dajudaju Ọlọhun- mimọ ni fun Un- fi awọn kan ninu wa role fun awọn kan ni igbesi aye yíí, ki O le maa wo bi a ẹ maa ẹ́ẹ, nje a maa tele E, tabi a maa yapa Rẹ? Leyin naa, o sọ pe: E sọra ki igbadun aye ati oṣo re ma tan yin je, ti o wa maa mu yin gbe nnkan ti Ọlọhun pa yin láṣe re ju silẹ, ati kiko si nnkan ti O kọ kuro fun yin nibẹ. Ati pe ninu nnkan ti o je dandan julọ lati sọra kuro ninu re ninu awọn wahala aye ni wahala obinrin, ati pe o je akọkọ wahala ti awọn omo Ísírẹ̀lì ko síbẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişenilojukokoro lori idunnimọ ibẹru, ati aiko akolekan peḷu awọn nnkan adun aye ati oşo re.
2. Ikilọ kuro nibi fitina obinrin, ninu wiwo tabi fifi owo deŋere mú iropo won peḷu awọn okunrin ajoji, tabi eyi ti o yatọ si iyen.
3. Fitina obinrin wa ninu eyi ti o tobi julọ ninu awọn fitina ni aye.
4. Gbigba waasu ati gbigba ariwoye mu lara awọn ijo işáájú, ati pe nnkan ti o şelẹ si awọn omọ Ísírèlì le şelẹ si awọn ti won yatọ si won.
5. Fitina obinrin ti o ba je iyawo, o le la bo okunrin lorun ninu inawo ni nnkan ti ko lagbara re, ti yoo wa ko airoju ba a lati wa awọn àlámọrí ešin, ti yoo ti i lo sibi fifi emi ara re wewu lori wiwa ayé, ti obinrin naa ba je ajoji, fitina re ni fifa oju awọn okunrin mọra ati iko iyegere ba won kuro nibi ododo ti won ba ti jade ti won ba si ti ropo mo won, patàkì julọ ti won ba je obinrin ti won kò bo ojú ti won si şira silẹ, eleyii le ja si şiná peḷu awọn ipele re, o wa to fun olugbagbo lati dirọ mo Olohun, ati ifi erongba han si I nibi igbala kuro nibi wahala won.

(3053)



(197) – عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ**».  
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(197) – Lati ọdọ Abu Musa- ki Ọlọhun yọnu si i- dajudaju Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Ko si igbeyawo kan afi pẹlu alaṣẹ obinrin”. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### **Àlàyé:**

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n ṣàlàyé pe dajudaju obinrin, fifẹ rẹ ko lẹtoṣo afi pẹlu alaṣẹ ti yoo ta koko igbeyawo náà.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Alaṣẹ obinrin jẹ majemu nibi nini alaafia igbeyawo, ti o ba waye laisi alaṣẹ obinrin, tabi ti obinrin ba fi ara rẹ lọko, igbeyawo naa ko ni alaafia.
2. Alaṣẹ obinrin ni ẹni ti o sunmọ obinrin julọ ninu awọn ọkunrin, nitori naa alaṣẹ obinrin ti o jina ko lee fi i lọko pẹlu bibẹ alaṣẹ obinrin ti o sunmọ.
3. Wọn ṣe ni majemu nibi alaṣẹ obinrin: Ijẹ ẹni tí o ti bàlágà, ati ijẹ ọkùnrin, ati imona nibi mimọ awọn anfaani igbéyàwó, ki eṣin alaṣẹ ati obinrin jẹ bákannàà, ẹni ti ko ba ni awọn iroyin yii lara ko lẹtoṣo si ijẹ alaṣẹ obinrin nibi tita koko igbeyawo.

(58066)

(198) – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(198) – Lati ọdọ ‘Uqbah ọmọ ‘Aamir- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: ”Eyi ti o ẹtọ julọ ninu awọn majemu lati mu ṣe ni nnkan ti ẹ fi sọ awọn abẹ di ẹtọ”.

[O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n ṣàlàyé pe dajudaju eyi ti o ẹtọ julọ ninu awọn majemu lati mú ṣe ni nnkan ti o jẹ okunfa nibi sisọ igbadun pẹlu obinrin di ẹtọ, awọn ni awọn majemu ti o ẹtọ ti iyawo maa n beere fun wọn nibi sisọ yigi.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jijẹ dandan mimu awọn majemu ṣe ti ọkan ninu ọkọ ati iyawo ṣe ni dandan fun ara wọn, afi majemu kan ti o ṣe ẹtọ ni eewọ tabi ṣe eewọ ẹtọ.
2. Mimu awọn majemu yigi ṣe jẹ nnkan ti o kanpa ju nnkan ti o yatọ si wọn lọ; nitori pe o jẹ ijirò fun sisọ awọn abẹ di ẹtọ.
3. Titobi ipo igbeyawo ninu Isilaamu, latari bi o ṣe kanpá mó mimu awọn majemu rẹ ṣe.

(6021)

(199) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(199) – Látí òdò Abdullah ọmọ Amr- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji-pe ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Ayé ìgbádùn ni, eyi ti o loore ju ninu ìgbádùn ayé ni obìnrin rere” [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé ayé pèlú nńkan ti n be ninu e je nńkan ti eeyan maa n gbádùn fun ìgbà díẹ̀, léyìn naa ni o maa kúrò, ati pe ìgbádùn re ti o ni ọlá jù ni obìnrin rere, eyi ti o se pe ti o ba wo o yoo dun un ninu, ti o ba pa a láṣe yoo tele e, ti ko ba si ni tòsi o maa sọ o ninu emí ara re ati dúkiá re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìní eto ìgbádùn àwọn nńkan ti o dáa ni ayé, eyi ti Ọlọhun se ni eto fun awon eru Re láisi iná-àpà tabi ìgbéraga.
2. Ṣiṣenilojukokoro lori yíyan iyàwó rere; tori pe iranlọwọ ni in fun oko lati tele aṣe Olúwa re.
3. Eyi ti o loore julọ ninu ìgbádùn ayé ni eyi ti o ba wa fun itele aṣe Ọlọhun, tabi ti o se iranlọwọ lati tele aṣe Ọlọhun.

(5794)

(200) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ - كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(200) - Lati oḍo Abdur Rahmān oḡo Abu Laylā o ni pe awon wa ni oḍo Hudhayfah, ni o ba beere fun omi, ni aboná kan ba fun un ni omi, nígbà tí o wa gbe ife omi yen fun un, o le e pada mo on, o wa so pe: Ti kii ba se pe mo ti ko o fun un ni nkan ti kii se ekan ti kii se eemeji - bi eni ti n so pe: Mio ba ti se nkan ti mo se yii -, sugbon mo gboto ti Anabi - ki ike ati ola Olohun maa ba a - n so pe: E ko gbodo wo aso alaari, e ko si gbodo mu ninu igba wura ati fadaka, e ko si gbodo je ninu abo ti won fi mejeeji se, nitori pe awon (keferi) ni won ni i laye, tiwa (musulumi) si ni ni ojo ikeyin. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike ati ola Olohun maa ba a- ko fun awon okunrin kuro nibi wiwo aso alaari pelu gbogbo iran re. O si ko fun awon obinrin ati okunrin kuro nibi jije ati mimu ninu awon igba ati abo wura ati fadaka. O si so pe esa lo je fun awon mumini ni ojo igbedide; nitorí pé won jina si i ni aye lati tele ase Olohun, Amo awon keferi ko nii je ti won ni ojo ikeyin; nitori pe won ti kanju lo awon nkan igbadun won ni ile-aye pelu lilo ti won lo o, ati iyapa ase Olohun won.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şiše wiwo aso alaari ni eewo fun okunrin, ati adehun iya ti o le fun eni ti o ba wo o.
2. Won se ni eto fun awon obinrin ki won wo aso alaari.
3. Şiše jije ati mimu ninu abo wura ati fadaka ati ife won ni eewo fun okunrin ati obinrin.

4. Lile Hudhayfah - ki Ọlọhun yonu si i - nibi kikọ, o si sọ idi rẹ pe oun ti kọ fun un ni ọpọ igba kuro nibi lilo awọn igba wura ati fadaka, şugbọn ko jawọ.

(2985)

(201) – عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَرَاعِ.

[صحيح] - [متفق عليه]

(201) – Lati ọdọ ọmọ ‘Umar – ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji -: Dajudaju Ojişẹ Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – kọ nkan ti n jẹ al-Qaza‘ (ki èyà̀n fá orí apakan ki o dá apakan sí). [O ni alaafia] - [Ohun ti wọ̀n fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – kọ fifa apakan irun ori ati fifi apakan silẹ.

Ati pe kikọ naa ko gbogbo ọmọde ọkunrin ati agbalagba ọkunrin sinu, şugbọn ọmọbinrin ko tọ fun un ki o fa irun ori rẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Nini akolekan ofin Isilāmu si irisi ọmọ̀nìyàn.

(8914)

(202) – عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى». [صحيح] - [متفق عليه]

(202) – Lati ọdọ ọmọ Umar- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- lati ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: “E ge awọn tubomu ki e si da awọn irungbon si”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### **Àlàyé:**

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n pàşẹ pẹlu mimu kuro lara tubomu ati pe wọn ko gbọdọ fi i kalẹ bi ko şe pe ki wọn ge kuro nibe, ki wọn si ge e gan.

Ni ti idakeji, o n pàşẹ pẹlu dida irungbon si ati fifi i kalẹ ni nnkan ti o maa pọ.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Şíşe gige irungbon leewọ.

(3279)

(203) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(203) – Lati ọdọ Abu Sa‘eed Al-Khuduriy - ki Ọlọhun yonu si i - dajudaju ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - so pe: «**Ọkunrin o gbọdọ maa wo ihoho ọkunrin, obinrin naa o si gbọdọ maa wo ihoho obinrin, ọkunrin o si gbọdọ maa wa ni ihoho pelu ọkunrin ninu asọ kan, obinrin naa o si gbọdọ maa wa ni ihoho pelu obinrin ninu asọ kan**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọ ki ọkunrin o maa wo ihoho ọkunrin, tabi ki obinrin o maa wo ihoho obinrin.

Ati pe nkan ti n je ‘Aorah ni: Gbogbo nkan ti wọn maa n tiju latara re ti o ba han (nkan ti wọn o ki n fe ki o han), ati pe ihoho ọkunrin ni nkan ti o wa laarin idodo re ati orunkun re, Ati pe gbogbo ara obinrin pata ni ihoho fun awon ọkunrin ajoji, sugbon fun awon obinrin ati awon elewo re, o le fi han nkan ti o saaba maa n han nigba ti o ba n siṣe ni inu ile.

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - tun kọ kuro nibi ki ọkùnrin ati ọkùnrin o wa ni ihoho ninu asọ kan tabi lábé aṣọ ibora kan, ati nibi ki obinrin ati obinrin o wa ni ihoho ninu asọ kan tabi lábé aṣọ ibora kan; nítorí pé iyẹn le maa fa ki ọkọkan ninu wọn o maa fi ọwọ pa ihoho enikeji re, ati pe fifi ọwọ kan an (ihoho) nkan ti wọn kọ ni gege bii wiwo o naa ni, koda kikọ re (fifi ọwọ pa ihoho) tun le jù; latari pe iyẹn le tini lo sibi awon ibaje ti o tobi.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Kikọ kuro nibi wiwo awon ihoho yatọ si ọkọ ati iyawo re.

2. Isilaamu ɓeni lojukokoro lori fifọ awujọ mọ ati titi ilẹkun awọn ọna ti o le ja si ibi awọn ibajẹ.
3. Şiṣe ẹtọọ wiwo ihoho nigba ti bukaata ba pepe fun un gege bii siṣe iwòsàn ati nkan ti o jọ ọ, peḷu pe ki o je èyí tí ko si adun nibẹ.
4. Wọn pa musulumi l'aṣe peḷu bibo ihoho re ati ríre oju re nilẹ kuro nibi ihoho ẹlòmíràn.
5. Wọn s'ẹsa kikọ fún ọkunrin peḷu ọkunrin ati obinrin peḷu obinrin; nítorí pé o yara pepe lo si'bi wiwo ati siṣi awọn ihoho silẹ.

(8904)

(204) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(204) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Amr- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji-o sọ pe: Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kii se ọlórò burúkú, kii sii mọ̀ómò sọ ọrọ burúkú, o maa n sọ pe: “Dájúdájú ninu awọn ti wọn loore ju ninu yin ni àwọn tí iwà wọn dára julọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnụ kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Ko si ninu iwà Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ki o maa sòrò buruku, tabi wu iwa burúkú, kii sii mọ̀ómò se e, o si je oníwà nílá.

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n sọ pe: Dajudaju ẹni tí ó ni ọlá jù ninu yin ni ọdọ Ọlọhun ni ẹni tí iwà re dara ju, peḷu siṣe dáadáa, ati itújúká, ati ki èyàn ma fi suta kan ẹlòmíràn, ati fifi ara da suta lati ọdọ ẹlòmíràn, ati ríró pẹ̀lú àwọn èyàn pẹ̀lú dáadáa.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. O di dandan fun onigbagbo ododo ki o jìnnà si ọrò burúkú àti iṣe burúkú.
2. Pipe iwa ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kii wa lati ọdọ re ayafi iṣe rere ati ọrò rere.
3. Ìwà rere je pápá iṣere fun idíje, ẹni tí ó bá gba iwájú maa wa ninu awon onigbagbo ọdodo ti won loore ju ti igbagbo won si pe ju.

(5803)

(205) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». [صحيح بشواهده] - [رواه أبو داود وأحمد]

(205) – Láti ọdọ Aishah- ki Ọlọhun yonu si i- o so pe: Mo gbọ ti ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n so pe: “Dájúdájú pèlú iwa dáadáa, mumini maa de ipo aláàwẹ ti n dide fun ijosin ni oru”. [O ni alaafia pèlú àwọn ẹrì re] - [Abu Daud ati Ahmad ni won gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣàlàyé pe iwa rere maa mu ẹni tí n wù ú de ipo ẹni tí n dunnì mó aawẹ ni oṣan ati idide fun ijosin ni oru, ohun ti o ko nńkan ti n je iwa rere sinu ni: Sísẹ dáadáa, ati oṣo rere, ati itújúká, ati ki eèyàn ma fi suta kan ẹlómíràn, ati fifi ara da suta lati ọdọ àwọn eèyàn.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi akolekan Isilaamu si títún iwà se, ati pípé re.
2. Ọla ti n be fun iwa dáadáa, titi ti ẹrú fi maa ti ara re de ipo alaawẹ ti kii tú ẹnu, ati ẹni ti n dide fun ijosin ni oru ti kii re ẹ.

3. Gbigba aawẹ ni ọsan, ati idide ni oru jẹ iṣẹ ńlá ti inira wa ninu ẹ fun ẹmí, ẹnì tí ó ni iwa rere de ipo àwọn méjèjèì tori jija ẹmí rẹ lógun pèlú ibalopo dáadáa.

(5799)

(206) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(206) – Lati ọdọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ọjísé Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Mumini ti o pe jù ni igbagbo ni ẹnì tí iwà rẹ dara ju, ẹnì tí ó loore ju ninu yin ni ẹnì tí o dara ju fun awon obinrin won”. [O daa] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ahmad ni won gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pé èyàn ti o pe julọ ni igbagbo ni ẹnì tí iwà rẹ dáa, bíi títú ojú ká, ati síṣe dáadáa, ati ọrọ rere, ati ki èyàn má fi sùtá kan ẹlómíràn.

Mumini ti o loore julọ ni àwọn ti wọn loore julọ fun awon obinrin won, gege bii iyawó rẹ, ati awon omobinrin rẹ, ati awon arabinrin rẹ, ati awon mọlebi rẹ lóbinrin; torí pé àwọn ni wọn ni ẹto si iwa dáadáa ju ninu awon èyàn.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun iwa dáadáa, ati pe o wa ninu igbagbo.
2. Iṣẹ wa ninu igbagbo, igbagbo maa n lékún, o si maa n dínkù.
3. Aponle Isilaamu fun obinrin, ati sisenilojukokoro lori síṣe dáadáa si i.

(5792)

(207) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الْقَمُ وَالْفَرْجُ». [حسن صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(207) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Wọn bi ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- leere nipa nnkan ti o maa mu awon èyàn wọ alujanna julọ, o sọ pe: “Ípayà Ọlọhun ati iwa dáadáa”, wọn tun bi i leere nipa nnkan ti o maa mu awon èyàn wọ ina julọ, o sọ pe: “Ènu ati Abẹ”. [O daa, o si ni alaafia] - [Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şàlàyé pe eyi ti o tobi ju ninu awon okunfa ti yoo mu èyàn wọ alujanna méjì ni, àwọn naa ni:

Ipaya Ọlọhun ati iwa dáadáa.

Ípayà Ọlọhun: Oun ni ki o fi aabo si aarin re ati iya Ọlọhun, pèlú síṣe àwọn nnkan ti O paṣe lati se, ati jíjinnà si awon nnkan ti O kò.

Iwa dáadáa: O maa je pelu titú ojú ká, ati síṣe dáadáa, ati ki èyàn ma je ki suta kan elómíràn.

Eyi ti o tobi ju ninu awon okunfa ti yoo mu awon èyàn wọ ina meji ni, àwọn naa ni:

Ahọn ati Abé.

Lara àwọn eṣe ahọn ni: Iró, ọrò-èyìn, òfófó, ati awon miiran.

Lara àwọn eṣe abé ni: Síná, ati ibalopo láàrin okunrin si okunrin, ati awon miiran.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Wiwo alujanna ni àwọn okunfa ti o nii se pèlú Ọlọhun ti ọla Re ga, ninu wọn ni: Iberu Re, ati awon okunfa ti o nii se pèlú àwọn èyàn, ninu wọn ni: Ìwà dáadáa.

2. Ewu ahon fun eni ti ó ni ín, ati pe o wa ninu awon okunfa wíwọ iná.
3. Ewu ife-adun ati awon iwà ibaje fun omoyan, ati pe won wa ninu awon okunfa ti o po julọ lati wo iná .

(5476)

(208) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ

النَّاسِ خُلُقًا. [صحيح] - [متفق عليه]

(208) – Lati odọ Anas omo Mālik – ki Allāh yonu si i – o so pe: Ojiṣe Olohun – ki ike ati ọla Olohun maa ba a – je eniti o dara julọ ni iwa. [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Olohun maa ba a – je eniti o pe julọ ni iwa, o si tun gba iwájú nibi gbogbo iwa ati nkan daadaa, nibi orọ to daa, ati ṣiṣe daadaa, ati titu oju ka, ati mimu suta kuro ati nini atemora re lati odọ elomiran.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Pipe iwa Anabi (ki ike ati ọla Olohun maa ba a).
2. Anabi – ki ike ati ọla Olohun maa ba a – ni awokose ti o pe nibi iwa daadaa.
3. Ṣiṣenilojukoro lori wiwo Anabi – ki ike ati ọla Olohun maa ba a – kose nibi iwa daadaa re.

(6180)

(209) – قال سعد بن هشام بن عامر - عندما دخل على عائشة رضي الله عنها: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ. [صحيح] - [رواه مسلم في جملة حديث طويل]

(209) – Sa’d omo Hishām omo ‘Āmir so – nigba ti o wolé to ‘Āisha – ki Olohun yonu si i pé:- Ire iya awa mu’mini, fun mi ni iro nipa iwa Ojise Olohun – ki ike ati olo Olohun maa ba a – o so pe: Se iwọ o ki n ka Alukurāni ni? Mo so pe: Mo maa n ka a, o so pe: Dajudaju iwa Anabi Olohun – ki ike ati olo Olohun maa ba a – ni Kuraani. [O ni alaafia] - [Muslim ni o gba a wa nibi akojopo hadiisi kan ti o gun]

### Àlàyé:

Won bi iya awa mu’mini ‘Āisha – ki Olohun yonu si i – leere nipa iwa Anabi – ki ike ati olo Olohun maa ba a -, o si fun won ni esi pelu gbólóhùn sókí kan ti o ko nkan ti o po sinu, o si tun şeri onibeere sibi Kuraani Alapon-onle eleyii ti o ko gbogbo iroyin ti o pe sinu, nígbà náà ni o wa so pe: O je - ki ike ati olo Olohun maa ba a - eni ti maa n wuwa pelu awon iwa Alukurāni. Alukurāni o nii pase pelu nkankan ayaafi ki o se e, ko si nii ko kuro nibi nkankan ayaafi ki o jina si i, nitori naa iwa re ni şise işe pelu re (Alukurāni), ati diduro nibi awon aala re, ati lilo ekọ pelu awon ekọ re, ati şise ariwoye pelu awon akàwé re ati awon itan re.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Şisenilokokoro lori ikose Anabi – ki ike ati olo Olohun maa ba a – nibi iwuwasi re pelu awon iwa Alukurāni.
2. Yiyin awon iwa ojise Olohun – ki ike ati olo Olohun maa ba a – ati pe ninu opo atupa imisi lo ti wa.
3. Alukurāni ipile lo je fun gbogbo awon iwa alapon-onle.

4. Awon iwa ninu Isilamu ko gbogbo esin sinu pelu sise awon ase ati jijina si awon eewo.

(8265)

(210) – عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(210) – Lati odo Shaddaad omo Aos- ki Olohun yonu si i- o so pe: Mo ha nñkan meji lenu ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o so pe: “Dajudaju Olohun ti se daadaa ni oranyan nibi gbogbo nñkan, ti e ba ti fe pa nñkan ki e pa a daadaa, ti e ba ti fe du nñkan, ki e du daadaa, ki eni koḳkan yin pon oḳe re ki o mu, ki o si tete ko isinmi ba nñkan ti o fe du”. [O ni alaaia] - [Muslim gba a wa]

**Àlàyé:**

Anoḳi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- n so pe Olohun ti ola Re ga se daadaa ni oranyan le wa lori nibi gbogbo nñkan. Daadaa ni: Ipayà Olohun ni gbogbo igba, nibi ijosin fun Un, ati sise oore, ati ki eeyan ma se awon eda ni suta, ninu iyen naa ni sise daadaa nibi pipa ati didu.

Sise daadaa nibi pipa nigba ti a ba fe gba esan: Pelu siseḳa ona ti o rorun ju ti o si yara ju lati gba emi eni ti a fe pa.

Sise daadaa nibi didu nigba ti a ba n du nñkan: Pelu sise pelu pelu eran-osin pelu pipon irinse naa, ki a si ma pon on ni iwaju nñkan ti a fe du ti o si n wo o, ki a si ma du u ni ibi ti eran-osin miran wa ti o n wo o.

**Lára awon anfaani hadisi naa:**

1. Aanu Olohun ti O lágbara ti O gbongbong si eda.
2. Pipa ati didu nñkan daadaa pelu ki o je onati ti o ba ofin mu.

3. Pípé şeria ati kiko ti o ko gbogbo oore sinu, ninu iyen ni àánú eranko ati şise pèlè pèlú ẹ.
4. Kíkò kúrò nibi ifi iyà je ènìyàn léyìn pípa a.
5. Şise gbogbo nnkan ti ijìyà ba n bẹ nibe fun eranko ni eewo.

(4319)

(211) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(211) – Lati oḍo Abdullahi oḃo Amru - ki Oḷohun yonu si awon mejeeji- o so pe: Ojişe Oḷohun- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- so pé: “Dájúdájú àwọn onideede maa wa lori minbari latara imoḷe ni oḍo Oḷohun, ni owo otun Ajoke-aye ti O lágbara ti O gbongbong, otun si ni owo Re méjèèjì, àwọn ti won n şe deede nibi idájó won, ati lodò awon ara ilé won, ati nibi ohun ti n bẹ lábé aşe won”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anoḃi- ki ike Oḷohun ati oḷa Re maa ba a- n so pe awon ti won n dajo pèlú deede ati ododo laarin awon èyàn ti won n bẹ lábé aşe won ati idajo won, ati ara ile won, won maa jókòó lori aga ti o ga ti won da latara imoḷe, láti şe aponle won ni ojó igbende. Owó otun Oḷohun ni awon minbari yii maa wà, otun si ni owo Re méjèèjì.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Oḷá ti n bẹ fun deede ati şisenilokokoro lori re.
2. Deede kari gbogbo ijoba ati idajo laarin awon èyàn, titi dóri deede laarin awon iyawó, ati awon oḃo, ati bẹ bẹ lo.

3. Şíşe àlàyé ipò àwọn onideede ni oṣo igbende.
4. Yiyatọ ipò àwọn onigbagbọ si ara wọn ni oṣo igbende, onikaluku ni ibamu si iṣe re ni.
5. Ọ̀nà ṣiṣenilojukokoro wa ninu awọn ọ̀nà ipepe ti maa n je ki o wu ẹni tí a n pè lati tele ti Ọlọhun.

(4935)

(212) – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ». [صحيح بشواهده] - [رواه الدارقطني]

(212) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Saheed Al-Khudriy- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pé: “Ma se maa ni eeyan lara, ma se maa gba ẹsan inira, ẹni tí ó bá fi ara ni èyàn, Ọlọhun yoo fi ara ni in, ẹni tí ó bá ko ipalára ba èyàn, Ọlọhun yoo ko ipalára ba a”.  
[O ni alaafia pèlú àwọn ẹrì re] - [Daarukutniy ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anoḃi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- ṣàlàyé pe dandan ni ki eeyan ti aburu dànù kuro lódò ara ẹni ati kúrò lódò ẹlòmíràn, iru inira yòówù ko ri ki o je, ko ni ẹto fun ẹnikẹni ki o fi suta kan ara re tabi ẹlòmíràn láisí iyatọ.

Ko si ni ẹto fun un ki o fi oró yaró; tori pe a kíí mu inira kúrò pèlú inira ayafí ti a ba fe gba ẹsan lainí kojá àlà.

Leyin naa ni Anoḃi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa ṣàlàyé àdéhùn iyà ipalára fun ẹni tí ba n ko ipalára ba àwọn èyàn, ati inira fun ẹni tí ba n ko inira ba àwọn èyàn.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Idinamọ gbigba ẹsan pẹlu nńkan ti o ju iru aburu ti wọn fi kan èyàn lọ.



2. Ọlọhun ko pa ẹrú Rẹ ni àṣẹ pẹlu ǹnkan ti o maa ko ìnira ba wọn.
3. Şṣe ifi inira kan èyàn ati gbigba ẹsan inira pèlú ọrò tabi ìṣe tabi gbigbe ju silẹ ni eewọ.
4. Ẹsan maa wa latara ìran iṣẹ, ẹni ti o ba ko ìpalára ba ẹlòmí, Ọlọhun maa ko ìpalára ba a, ẹni tí ó bá fi ara ni ẹlòmí, Ọlọhun maa fi ara ni oun naa.
5. Ọkan ninu awọn ofin Sharia ni pe: “A maa n mu ipalara kuro ni.” Sharia ko fi ọwọ si ipalara, o si kọ ipalara.

(4711)

(213) - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلِ الْمَسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاغَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً». [صحيح] - [متفق عليه]

(213) – Lati ọdọ Abu Musa- ki Ọlọhun yọnu si i- lati ọdọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: Dajudaju àpèjúwe olubajokoo rere ati olubajokoo burúkú da geḡe bi ẹni ti o gbe almisiki ati ẹni ti o n fẹ ina alagbẹde ẹni ti o gbe almisiki: Ninu ki o fun ọ nínú ẹ, tabi ninu ki o ra ojà lẹwọ rẹ, tabi ki o ri oorun ti o daa latara rẹ, ati pe ẹni ti o n fẹ iná alagbẹde: Ninu ki o jo aṣọ rẹ, tabi ki o ri oorun ti o buru". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- fi apejuwe leḡe fun iran meji ninu awọn eniyan:

Iran akọkọ: Alabajokoo ati ọrẹ rere ti o maa tọka lẹ sódò Ọlọhun ati nkan ti O yọnu si, ti o maa n ṣe iranlẹwọ lori itele, Ati pe apejuwe rẹ

da geḡe bii ẹni ti o n ta almisiki, ninu ki o fun ẹ, tabi ki o ra a lowo ẹ, tabi ki o si gboorun daadaa lati odo ẹ.

Iran keji: Alabajokoo ati oṛe burúkú; ti o maa n ẹ́rí àwọn ènìyàn kúrò lójú ọ̀nà (ẹ̀sìn) Allāhu, ti o si maa n ẹ ikunlowo lori dida awon ẹṣe, ti waa maa ri iṣe buburu loḡo ẹ, ti yoo maa ko eebu ba ẹ nitori mimu u loṛe ati iba iru ẹ jokoo, Iru ẹ da geḡe bii alagbeḡe ti o n fe ina ẹ: ninu ki o jo aṣo ẹ latara ẹta parapara ina ẹ ti o n fo tele ara won, tabi ki o ri oorun buruku latara asunmo ẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Nini ẹto fifi apejuwa le'le lati sun itumo mo olugbo.
2. Ṣiṣe lojukokoro lori ijokoo papo pelu awon olutele ase ati awon enirere, ati jijina si awon onibaje ati awon oniwa buruku.

(3127)

(214) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَعْصِبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَعْصِبْ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(214) – Lati odo Abu Huraira- ki Olohun yonu si i-: Arakunrin kan so fun Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- pe: So asotele fun mi, o so pe: “Ma se maa binu”, o wa paara ẹ ni opolopo igba, o tun so pe: “Ma se maa binu”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Okun ninu awon saabe- ki yonu Olohun maa ba won- wa lati odo Anobi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ki o toka on si nkan kan ti o maa se e ni anfaani, o wa pa a lase ki o ma maa binu, itumo iyen ni pe ki o jinna si awon okunfa ti o le mu u binu, ki o si ko ara ẹ ni jaju ti ibinu ba selo, ki o ma te siwaju nibi ibinu ẹ pelu pipa, tabi lilo, tabi eebu, ati beḡe beḡe lo.

Arákùnrin naa paara wíwá àsọtélè naa ni ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ịgbà, Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- ko sọ fun un nibi àsọtélè naa ju pe “ma ẹ maa binu”.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ikilọ kuro nibi ìbínú ati awọn okùnfà rẹ; tori pe oun ni o ko gbogbo aburu sinu, ẹ́şşora kuro nibẹ ni o ko gbogbo oore sínú.
2. Ibinu nítorí Ọ̀lọ̀hun, gẹgẹ bii ibinu nígbà tí wọn bá rú òfin Ọ̀lọ̀hun, eyi wa lara ibinu ti o dára.
3. Àsọtúnşọ ọ̀rọ̀ síşọ nígbà tí a bá nílò rẹ tí tí olùgbọ̀ yóò fi mọ̀ nípa rẹ tí yóò sì mọ̀ ijẹpàtàkì rẹ.
4. Ọ̀la ti n bẹ fun wíwá àsọtélè lati ọ̀dọ onimimọ.

(4709)

(215) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(215) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i- pe ojise Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pé: “Alágbára kọ ni ẹni tí ó bá le dá èyàn mólẹ, şùgbón alágbára gangan ni ẹni tí ó bá le kápá ẹmí rẹ nígbà ìbínú”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n şàlàyé pe agbára gidi kii ẹ agbára ti ara, tabi ẹni ti o ba maa dá alágbára miíràn mólẹ. Alágbára gangan ni ẹni tí o ba ja ẹmí rẹ lógun tí ó sì borí rẹ nígbà tí ìbínú rẹ bá n le; torí pé eyi n tọka si ikapa rẹ lori ẹmi ara rẹ ati ibori ẹşù.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun sùúrù ati ìdarí ẹmí nígbà ìbínú, ati pe o wa ninu awọn iṣẹ rere ti Isilaamu ẹ wa ni ojúkòkòrò si.
2. Jija ẹmí ni ogun nígbà ìbínú le koko ju jija ọtá ni ogun lọ.
3. Isilaamu yi agbọye agbára ni asiko aimọkan padà si awọn iwa alapọn-ọnlẹ, èyàn ti o ni agbara ju ni ẹnì tí ó ni ikapa ijánu ẹmí ara rẹ.
4. Jijina si ìbínú; tori ìnira ti o maa n fa fun ènìyàn kòòkan ati àwùjọ.

(5351)

(216) – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(216) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Umar- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji- o sọ pé: Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- gbọ ti arákùnrin kan n ẹ wáásí fun ọmọ-iyá rẹ nipa itijú, o wa sọ pé: “Itiju wa ninu igbagbọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- gbọ ti arákùnrin kan n gba ọmọ-iyá rẹ ni imọran pe ki o fi àpòjù itiju silẹ! O wa ọlàyé fun un pe itijú wa ninu igbagbọ, ko si lee mu nnkan kan wa ayafi oore.

Itijú jẹ iwa kan ti o maa n mu èyàn ẹ dáadáa, ti o si maa n mu èyàn fi ohun buruku silẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ohun ti o ba n ẹ idiwọ fun ẹ lati ẹ rere, a kii pe e ni ituju, ohun ti a maa n pe e ni ìdójútì, ati ikagara, ati ọlẹ, ati ojo.

2. Ìtìjú Ọlọhun ti O lágbara ti O gbọngbọn naa ni ki èyàn maa se ohun ti O paşe re, ki èyàn si fi àwọn nńkan eewo siẹ.
3. Ìtìjú èdá naa ni şşe aponle won, ki èyàn si fi won si ipo won, ki èyàn si jina si ohun ti o ba buru ni ti aša.

(5478)

(217) – عن المقدم بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد]

(217) – Lati odo Al-Miqdam omo Maadi Karib, ki Olohun yonu si i, o gba a wa lati odo Anabi, ki ike ati ola Olohun maa ba a, o so pe: “Bí okunrin kan bá nífẹ́ arákunrin rẹ, kí ó sọ fún un pé òun nífẹ́ rẹ”. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Nasaa'iy gba a wa ninu As-Sunanul Kubro, ati Ahmad]

### Àlàyé:

Anabi, ki ike ati ola Olohun maa ba a, n se alaye okan lara awon okunfa ti o le fun ajoşepo ati ife lagbara laarin awon onigbagbo ododo, onun naa ni pe ti eniken ba nífẹ́ arakunrin rẹ, ki o so fun un pe onun nífẹ́ rẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ola ti n be fun ife to mo kangá fun Olohun Oba Aleke ola, ti ki se ife nitori anfaani aye.
2. A fe ki a maa so fun eniti a nífẹ́ nitori Olohun pe a nífẹ́ rẹ, ki ife ati irepo le maa lekun si.
3. Itankale ife laarin awon onigbagbo ododo maa n fun ije omo iya ninu esin lagbara ni, o si maa n daabò bo awujo kuro nibi tutuka ati pinpin yeleyle.

(218) – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [صحيح] - [رواه البخاري من حديث جابر، ورواه مسلم من حديث حذيفة]

(218) – Láti ọ̀dò Jaabir ọ̀mọ̀ Abdullahi- ki Ọ̀lọ̀hun yọ̀nu si àwọ̀n mejeeji- lati ọ̀dọ̀ Anọ̀bi- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- o sọ̀ pe: “Gbogbo dáadáa sààrà ní”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa ninu hadiisi Jaabir, Muslim gba a wa nínú hadiisi Huzaifah]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- n sọ̀ pe gbogbo dáadáa ati ànfààní fun ẹ̀lòmíràn, bóyá ọ̀rọ̀ ní tabi iṣẹ̀, o maa jẹ̀ sààrà, ẹ̀san si n bẹ̀ nibẹ̀.

### Lára àwọ̀n ànfààní hadiisi naa:

1. Sààrà kò mọ̀ lori ǹnkan ti èyàn n yọ̀ jáde ninu dúkìá, bi ko ẹ̀ pe o ko gbogbo oore ti ọ̀mọ̀niyan n ẹ̀ tábí sọ̀ sínú, ti o si maa de ọ̀dọ̀ ẹ̀lòmíràn.
2. O n bẹ̀ nibẹ̀ isenilojukokoro lati maa ẹ̀ dáadáa ati gbogbo ǹnkan ti ànfààní ba n bẹ̀ nibẹ̀ fun ẹ̀lòmíràn.
3. Ki èyàn ma fi ojú kere dáadáa kankan, kódà ki o kéré.

(219) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يُحْطُوها إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». [صحيح] - [متفق عليه]

(219) – Lati ọḍọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: Gbogbo ibi ti àwọn eegun ti pàdé pọ ni ara ọmọniyan ni saara je dandan le e lori nibe, gbogbo ojo ti oorun ba ti n yo ti o ba n se deede laarin eeyan meji saara ni, ati pe ki o ran enikan lowo l'ori nkan ogun re, boya ki o gbe e gun un tabi ki o gbe eru re fun un lori re saara ni, ati pe oro daadaa saara ni, ati gbogbo igbese ti o ba n gbe lo si ibi irun saara ni, ki o si tun maa mu nkan ti o le se eeyan ni suta kuro l'ona saara ni» [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - se alaye pe dajudaju o je dandan l'ori gbogbo musulumi ti o ni iwọ ni orun ni ojoojumọ pelu onka gbogbo ibi ti àwọn eegun ti pàdé pọ ni ara re lati maa se saara, ti yio se e fun Ọlọhun lati fi dupe alaafia, ati pe o se awon ibi ipadepo awon eegun re ni nkan ti o je ki o rorun fun un lati ka a ko ati lati na an, Ati pe dajudaju saara yen yio maa je sise pelu gbogbo ise daadaa patapata, ko si mo nibi ifunni ni owo nikan, ninu re naa si ni: Deede re ati atunse re laarin awon onija meji saara ni, Ati pe saara n be nibi iranlowo re fun eni ti o kagara nibi nkan ogun re ti waa wa gbe e gun un tabi ki o na owo eru re fun un, Ati pe oro ti o daa bii iranti ati adua ati salamo ati eyi ti o yatọ si i saara ni, Ati pe gbogbo igbese kọkan ti o ba n gbe lo s'ibi irun saara ni, Ati pe mimu nkan ti o le seni ni suta kuro l'ona saara ni.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Tito awọn eegun ọmọ Anabi Ādam ati ini alaafia rẹ ninu awọn idera Ọlọhun ti o tobi julọ lori rẹ ni, nitori naa eegun kọọkan bukaata si saara fun un lati dupe idera yẹn.
2. Şişenilojukokoro lori títún ọpẹ dú ni ojoojumọ fun aiduro awọn idera yẹn.
3. Şişenilojukokoro lori idunimọ awọn naafila ati saara ni ojoojumọ.
4. Ọla ti nbẹ fun şişe àtúnşe laarin awọn eeyan.
5. Şişenilojukokoro lori ki ọmọniyan maa ran ọmọ-iyá rẹ lọwọ; torí pé iranlọwọ rẹ fun un saara ni.
6. Şişenilojukokoro lori kiki janmoọn ati ririn lọ síbẹ, ati yiye awọn masalasi pẹlu iyẹn.
7. Ijẹ dandan şişe aponle awọn oju-ona awọn musulumi pẹlu jijina si nkan ti o le şe wọn ni şuta tabi ko inira ba wọn.

(4568)



(220) - عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ». [صحيح] - [رواه الترمذي]

(220) – Lati ọdọ Abu Barzata Al-aslamiy - ki Ọlọhun yonu si i - o so pe: Ojişe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - so pe: «**Eşe mejeeji ẹru kan ko nii ye ni ojo igbedide titi ti won o fi bi i nipa ojo ori re nibo ni o pari re si, ati nipa imo re kini o fi se, ati nipa dukia re nibo ni o ti ko o jo ati pe nibo ni o na an si, ati nipa ara re nibo ni o lo o si**». [O ni alaafia] - [Tirmiziy ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - funni niroo pe dajudaju eniken ni nu awon eeyan ko nii tayo aaye isiro ise ni ojo igbedide lo si alijanna tabi ina titi ti won o fi bi i nipa awon alamori kan:

Alakokoo: Işemi re nibo ni o pari re si?

Elekeji: Imo re nje o wa a nitori ti Ọlọhun? Ati pe nje o fi şise se? Ati pe nje o mu un de ọdọ eni ti o leto si i?

Eleketa: Dukia re nibo ni o ti ko o jo se nibi eto ni abi nibi eewo? Ati pe nibo ni o na an si, se ibi nkan ti o yo Ọlọhun ninu ni abi ibi ti o bi i ninu?

Elekerin: Ara re ati agbara re ati alaafia re ati ọdọ re nibo ni o lo o si?

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Şiseni ni ojukokoro lori lilo işemi s'ibi nkan ti yio yo Ọlọhun ti ọla Re ga ninu.
2. Awon idera Ọlọhun po lori awon ẹru, ati pe yio bi i leere nipa idera eleyii ti o wa ninu re, nitori naa o je dandan fun un ki o gbe awon idera Ọlọhun si ibi ti yio yo Ọ ninu.

(221) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(221) – Lati oḍo Abu Huraira, o sọ pe: Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Oluran awon opo ati alaini lowo, da gege bii olugbinyanju soju ona Ọlọhun, tabi eni ti o n fi oru re dide ti o si n fi osan re gba awe". [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju eni ti o ba n se anfaani fun obinrin ti oko re ku, ti ko ni eni kankan ti o maa moju to awon alamori re, ati alaini ti o ni bukaata, ti o si n na owo fun won ni eni ti o n wa esan lodọ Ọlọhun- ti ọla Re ga- nibi esan, o da gege bii olujagun loju ona Ọlọhun, tabi eni ti o n ki irun ni oru ti ko ki n re e, ati alaawe ti ko ki n tunu.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Şişenilojukokoro lori iran-ara-eni-lowo ati ikun-ara-eni-lowo ati didi bukaata awon oḷe.
2. Iḷosin ko gbogbo iṣe oloore sínú, ati pe ninu iḷosin ni riran awon opo ati alaini lowo wa.
3. Ibnu Hubairọ sọ pe: Nnkan ti a gba lero ni pe dajudaju Ọlọhun- ti ọla Re ga- maa ko esan alaawe ati eni ti o n dide loru ati olujagun fun un lekan naa; iyen ri beḷe nitori pe o duro sipo oko fun opo..., o si duro ti alaini yen ti ko lee da duro fun ara re, eleyii si na nnkan ti o le si nnkan ti o bukaata si, o si se saara pelu igbinyanju re, nitori naa anfaani re wa se deede awẹ ati didide ati igbinyanju soju ona Ọlọhun.

(222) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(222) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yọnu si i- láti ọ̀dọ̀ ojìṣe Ọ̀lọ̀hun- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- o sọ pé: “Èni tí ó bá gba Ọ̀lọ̀hun gbọ̀ ati Ọ̀jọ̀ Ìkẹ̀yìn, ki o maa sọ dáadáa tabi ki o dake, èni tí ó bá gba Ọ̀lọ̀hun gbọ̀ ati Ọ̀jọ̀ Ìkẹ̀yìn, ki o yaa maa se aponle aláduùgbò re, èni tí ó bá gba Ọ̀lọ̀hun gbọ̀ ati Ọ̀jọ̀ Ìkẹ̀yìn, ki o maa se aponle àlejò re”.

[O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi enu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- sàlàyé pe ti erú ti o gba Ọ̀lọ̀hun gbọ̀ ati Ọ̀jọ̀ Ìkẹ̀yìn ti o maa padà si ti wọn si maa san an ni eṣan iṣe re niḃe, igbagbọ re maa se e ni ojúkòkòrò lori ṣiṣe àwọn nnkan yii:

Akoḳo: Ọ̀rọ̀ dáadáa: Bii gbólóhùn SUBHAANALLAH ati LAA ILAAHA ILLALLOOH, ati pipaṣe dáadáa, ati kiko ibaje, ati ṣiṣe àtúnṣe láàárín àwọn èyàn, ti ko ba wa se e, ki o yaa dake, ki o si ma fi suta kan èyàn, ki o si sọ ahọ́n re.

Ìkejì: Ṣiṣe aponle aláduùgbò: Pèlú ṣiṣe dáadáa si wọn, ati ki èyàn si ma fi suta kan an.

Iketa: Ṣiṣe aponle àlejò ti n bọ láti se abewo re: Pèlú ọ̀rọ̀ dáadáa, ati fifún un ní oúnje, ati beḃe beḃe lo.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Gbigba Ọ̀lọ̀hun gbọ̀ ati Ọ̀jọ̀ Ìkẹ̀yìn jẹ̀ ìpilẹ̀ fun gbogbo oore, o si maa n je ki oore wu èyàn láti se.
2. Ikilo kuro nibi awọn ìpalára ti ahọ́n maa n fà.
3. Eṣin Isilaamu, eṣin ifé ati aponle ni.

4. Awọn iroyin yii wa ninu awọn ẹka igbagbo, ati ninu awọn ẹko ti a maa n yin.
5. Apọju ọrò le wọ èyàn lọ sibi nnkan ti a korira tabi nnkan eewọ, ọlẹ si n bẹ nibi ki èyàn ma sọrọ àyàfi nibi dáadáa.

(5437)

(223) – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(223) – Lati ọdọ Abu Dharr- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ fun mi pe: “Ma se fi oju kere nnkan kan nínú dáadáa, koda ki o padé omọ-iyá re ki o si tujú ka si i”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- se wa ni ojúkòkòrò lori sise dáadáa, ki èyàn si ma fi oju kéré re kódà ki o kéré, ninu iye ni tituju ka pẹlú ẹrín músé nígbà tí a ba pade. O tó fun Mùsùlùmí ki o se ojúkòkòrò re; tori ifi ara ro omọ-iyá ti o je Mùsùlùmí wa ninu e, ati mimu idùnnú wọ inu re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun ifẹ láàrin àwọn onigbagbo, ati ẹrín-músé ati itújúká ti wọn ba pade.
2. Pípe sharia ati kikari re, ati pe o wa pelu gbogbo nnkan ti ànfààní ba n bẹ nibẹ fun awọn Mùsùlùmí ati sise wọn ní ọkan.
3. Sise nilojukokoro lori sise dáadáa kódà ki o kéré.
4. A fe ki a maa dun àwọn Musulumi ninu; tori pe iye maa je ki ifẹ o wa laarin wọn.

(224) – عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ

لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(224) – Láti òdò Jariir oṃo Abdullahi- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Òjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Ọlọhun ti O lágbára ti O gbongbọn ko nii şàánú ẹni tí kii ba şàánú àwọn èyàn”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n şàlàyé pe ẹni ti kii ba şàánú àwọn èyàn, Ọlọhun ko nii şàánú rẹ, aanu erú fún èdá Ọlọhun je ọkan ninu awọn okùnfà ti o tobi ju lati ri aanu Ọlọhun ti ọla Rẹ ga gbà.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Àánú, nńkan ti a n fẹ ni fun awọn èdá yòókù, şùgbọn wọn dìídì dárúkọ àwọn èyàn ni ti akolekan pèlú wọn.
2. Aláàánú ni Ọlọhun, O maa n şàánú àwọn erú Rẹ ti wọn ni aanu, ẹsan maa n wa latara iran işẹ ni.
3. Aanu àwọn èyàn kó mímú oore de ọdọ wọn sínú, ati titi aburu kuro fun wọn, ati bíbá wọn lò pọ pẹlu dáadáa.

(225) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنَ السَّمَاءِ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(225) – Lati ọdọ Abdullāh ọmọ ‘Amri – ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji – dajudaju Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: «Awọn olùşe ikẹ, Ọlọhun Ajọkẹ aye maa kẹ wọn, ẹ maa kẹ awọn ti n bẹ lori ilẹ, Ọba ti n bẹ ni sanmọ a kẹ eyin naa». [O ni alaaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – n şe alaye pe dajudaju awọn ti wọn maa n kẹ awọn ti wọn yatọ si wọn, Ọba Ajọkẹ aye naa o kẹ wọn pelu ikẹ Rẹ ti o kari gbogbo nkan; ní ti ẹsan t’ó şe wékú (işé wọn).

Leyin naa ni o wa pa aşe - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – pelu kike gbogbo nkan ti o wa lori ilẹ ni eeyan tabi ẹranko tabi ẹyẹ tabi nkan ti o yatọ si i ninu awọn iran ẹda, ati pe ẹsan iyẹn naa ni ki Ọlọhun kẹ wọn lati oke awọn sanmọ Rẹ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ẹsin Isilaamu ẹsìn ikẹ ni, ti gbogbo rẹ si duro lori itele aşe Ọlọhun ati şişe daadaa si ẹda.
2. Ọlọhun – ti O tobi ti O gbọnnngbọn - Ọba ti O ni ìròyìn ikẹ lara ni, ati pe Oun – mimọ fun un – ni Ajọkẹ aye Aşakẹ orun, ti O si maa n mu ikẹ de ọdọ awọn ẹru Rẹ.
3. Iru işe ti eeyan ba şe naa ni ẹsan ti yio gba, nitori naa awọn ti wọn ba maa n kẹ eeyan Ọlọhun a kẹ awọn naa.

(8289)

(226) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(226) – Lati ọḍọ Abdullāh ọmọ Amru - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji - lati ọḍọ Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - o sọ pe: «**Musulumi ni ẹni ti awọn musulumi la nibi ahon re ati ọwọ re, ati pe Al-muhaajiru ni ẹni ti o yan nkan ti Ọlọhun kọ lodi**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnun kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe dajudaju musulumi ti Isilaamu re pe oun ni ẹni ti awọn musulumi la nibi ahon re, ko nii bu wọn, ko si nii sepe fun wọn, ko si nii sọ ọrọ wọn leyin, ko si nii maa fi ahon re tan èyíkéyíi ninu awọn iran suta ka laarin wọn, Ti wọn si tun la ni ọwọ re, ko si nii tayọ ẹnu-ala si wọn, ko si nii gba awọn dukia wọn ni ọna aito, ati nkan ti o jọ iye, Ati pe Al-muhaajiru ni ẹni ti o gbe nkan ti Ọlọhun ti ọla Re ga se leewọ jusile.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Isilaamu o le pe ayaafi pelu àfi suta kan ẹlòmíràn, o jẹ èyí tí a fi oju ri ni abi èyí tí a o le ni ìmòlára re.
2. Wọn șa ahon ati ọwọ lesa pelu didaruko wọn; latari pipọ awọn aṣiṣe wọn ati awọn inira wọn, ati pe dajudaju ọḍọ wọn ni ọpọlọpọ aburu ti maa n wa.
3. Ṣiṣenilojukokoro lori gbigbe awọn eṣe sile ati ṣiṣe nkan ti Ọlọhun ti ọla Re ga pa lasẹ.
4. Ẹni ti o ni ọla julọ ninu awọn musulumi ni ẹni ti o pe awọn iwọ Ọlọhun ati awọn iwọ awọn musulumi.
5. Itayọ aala le jẹ ọrọ tabi iṣe.

6. Hijrah ti o pe oun ni yijan nkan ti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ẹ ni eewọ lodi.

(10101)

(227) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(227) – Lati ọdọ Abu Hurairah - ki Ọlọhun yonu si i - ó sọ pé: Mo gbọ Ojişẹ Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - tí n sọ pé: "Etọ Musulumi lori Musulumi miiran márùn-ún ni: Dídá salamo pada, bibẹ alaare wò, titele isinkú, didahun ipepe, şışadura fun ẹniti ó bá sín". [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n ẹ alaye diẹ ninu awọn etọ Musulumi lori Musulumi egbé rẹ, Àkókó nínú àwọn etọ wònyí ni dídá salamo padà si ẹniti ó bá salamo si ọ.

Etọ keji: şışẹ abẹwo si alaaare.

Etọ keta: Títèlè isinkú láti ilé rẹ titi de àyè ikirun si oku lara, titi de ibi saare rẹ, titi tí wọn ó fi sin in.

Etọ kerin: Dídáhùn ipepe bí ó bá pé é síbi àpẹjẹ igbéyàwó àti awọn nkan mիրան.

Etọ karùn-ún: Şışadura fun ẹniti ó bá sín, iyẹn ni pe kí ó sọ fun un nigba ti ó bá ti sọ pe ALHAMDULILLAH leyin sínsín: YARHAMUKALLAH, leyin naa ni ẹniti ó sín ó sọ pe: YAHDIKUMULLAHU WA YUSLIHU BAALAKUM.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi Islam nibi fífi etọ rinlẹ laarin awọn Musulumi ati síso okùn ije ọmọ-iya ati okùn ifẹ dáadáa laarin wọn.



(228) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(228) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**E ko lee wọ alujanna titi ti ẹ fi maa gbagbo, ati pe e ko lee gbagbo titi ti ẹ fi máa nífẹ́ ara yin, ẹ wa jẹ ki n juwe yin si nkankan ti o jẹ pe ti ẹ ba se e ẹ máa nífẹ́ ara yin? E maa tan salamọ ka laarin ara yin**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - se alaye pe dajudaju enikankan o lee wọ alujanna ayaafi muumini, ati pe igbagbo o lee pe ati pe isesi awujo musulumi o lee daa titi ti won o fi nifefe ara won. Leyin naa ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa juwe lo sibi eyiti o lo la julọ ninu awon alamori eyiti o se pe pelu re ni ife fi maa n kari, oun naa ni fifon salamọ ka laarin awon musulumi, eleyii ti Ọlọhun se ni kiki fun awon eru Re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Wíwọ al-jannah ko lee maa be ayaafi pelu igbagbo.
2. Ninu pipe igbagbo ni ki musulumi o fe fun omọ iyá re nkan ti o n fe fun ara re.
3. Şise fifon salamọ ka ati wiwi i fun awon musulumi ni eto; latari nkan ti o wa nibẹ ni fifon ife ati ifokanbale ka laarin awon eeyan.

4. A ko ki n salamọ ayaafi si musulumi; fún ọrọ rẹ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ti o sọ pe: "laarin yin".
5. O n bẹ nibi imaa salamọ mimu ikọyinsi-ara-ẹni ati ibaraẹni-yan-odi ati ikunsinu kuro.
6. Pataki ifẹ laarin awọn Musulumi ati pe dajudaju ninu pipe igbagbọ lo wa.
7. O wa ninu hadīth miran pe dajudaju gbolohun salamọ ti o pe ni: "As salaamu alaykum wa rahmotuLloohi wabarakātuHu", a ti pe o ti to ki a sọ pe: "As salaamu alaykum".

(3361)

(229) – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(229) – Lati ọdọ Abdullāh ọmọ ‘Amru - ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji -: Dajudaju arakunrin kan bi Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - leere pe: Isilaamu wo lo fi n loore julọ? O sọ pe: «**Ki o maa funni ni ounjẹ, ki o si tun maa salamọ si ẹni ti o mọ ati ẹni ti o ko mọ**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Wọn bi Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - leere pe: Awọn iwa Isilaamu wo lo fi n lọla julọ? Ni o wa darukọ awọn iwa meji:

Alakọkọ: Pipọ ni imaa fun awọn alaini ni ounjẹ, ti saara ati ẹbun ati igbalejo ati ikolenujo si tun wọ inu rẹ, ati pe ọla ifunni l'ounjẹ tun kanpa ni awọn asiko ebi ati ọwọn gogo.

Elẹkẹji ni: Sisalamọ si gbogbo musulumi, o mọ ọn ni tabi o ko tiẹ mọ ọn.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şişe ojukokoro awọn saabe lori mimọ awọn iwa ti yio şe anfaani ni aye ati oḡo ikeyin.
2. Sisalamọ ati fifunni l'ounḡe wa ninu awọn işe ti o fi n lọla julọ ninu Isilaamu; latari ọla ti n bẹ fun un ati nini bukaata awọn eeyan si i ni gbogbo asiko.
3. Şişe daadaa pẹlu ọrọ ati işe papọ pẹlu awọn iwa mejeeji yii, ati pe oun naa si şişe daadaa ti o fi n pe julọ.
4. Awọn iwa yii nii şe pẹlu ajoşepọ awọn Musulumi laarin ara wọn, awọn iwa kan şi wa ti o nii şe pẹlu ajoşepọ laarin ẹru ati Olowo rẹ (Allāhu).
5. Imaa bẹrẹ pẹlu salamọ ḡe ẹsa laarin awọn Musulumi, nitori naa wọn o gbọḡ kọkọ salamọ si keferi.

(5808)

(230) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرَّبَاطُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(230) – Lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- dajudaju ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pe: "Sé ki n toka yin si nnkan ti Ọlọhun fi maa n pa awon asise re, ti O si fi maa n gbe awon ipo ga?" Won so pe beṅni ire ojise Ọlọhun, o so pe: "Sise aluwala ni pipé lori inira, ati gbigbe igbese pupo lo si mosalasi, ati rireti irun leyin irun, iyen ni ida ààbò bo ẹnu ààlà ilú". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- bi awon saabe re leere pe se won fe ki oun toka won si awon ise ti o maa je okunfa aforijin awon ese, ati ipare re kuro ninu awon iwe awon molaika ti won n ko ise, ati giga awon ipò ninu alujanna?

Awon saabe so pe: Beṅni a fe iyen. O so pe:

Akoko: Kikari ati pipe aluwala lori inira; gege bii otutu, ati kikeré omi, ati inira ara, ati omi gbigbona.

Ikeji: Ọpòlọpò igbese- oun ni nnkan ti o wa laarin ese mejeeji- lo si awon mosalasi latara jijina ilé, ati ọpòlọpò pipaara.

Iketa: Rireti asiko irun, ati sisopo okan mo on, ati igbaradi fun un, ati jijokoo sinu mosalasi fun ireti janmoṅon, ti o ba ti ki i ki o maa reti irun miiran ni aaye ti o ti kirun.

Leyin naa, Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- salaye pe dajudaju awon alamori yii gan-an ni dida ààbò bo ẹnu ààlà ilú; nitori pe o maa n kodi awon oju ona esu lo sodò emi, o si maa n bori ife inu, ti o maa ko fun un kuro nibi gbigba awon royiroyi wole, ti ijo Ọlọhun fi maa bori awon omọ ogun esu pelu re; iyen ni ijagun soju ona Ọlọhun ti o tobi julọ, o waa wa ni ipo dida ààbò bo ẹnu ààlà ilú ọtá.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Pataki sisọ irun janmoṣon ninu moṣalasi ati ifiye si awon irun ati ṣiṣàì jẹ kí ohunkóhun pín ọkàn rẹ níyà kúrò nibe.
2. Didaa agbekale Anabi- ki ike Olohun ati ọla Rẹ maa ba a- ati mimu awon saabe rẹ jẹràn nigba ti o bẹrẹ fun wọn pelu eṣan ti o tobi ni ọna ibeere, ati pe ọna yii wa ninu awon ọna ikonileko.
3. Anfaani ti o n bẹ nibi ṣiṣe afihàn ọrọ pelu ibeere ati idahun ni: Ki ọrọ le wọni lókan gan-an nítorí kiko àṣekedere pò mó ṣekedere.
4. An-nawawi- ki Olohun ke ẹ- so pe: FAZAALIKUMU-R-RIBAAT n tùmò si: Ribaati a fẹ, ipile ribaati si ni ki eeyan di nikan mú ṣinṣin, bii igbà tí o de emí ara rẹ mólẹ fun itele aṣe yii, wọn so pé: Ọun ni o daa julọ ninu awon ribaati gege bi wọn se so pe: Ijagun soju ọna Olohun ni jija emí lógun, o si tun le tùmò si ribaati ti o rorun, o n tùmò si pe: O wa ninu awon orisirisi ribaati.
5. Wọn paara gbolohun "Ar-Ribaati" wọn si so Alif ati Laam mó ọ; iyẹn jẹ igbetobi fun àlámọrí awon iṣe yi.

(3574)

(231) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، حَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ حَيْرٍ، أَحْرُصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(231) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**Mumini alagbara ni oore o si tun je ẹni ti Ọlọhun nifẹẹ si ju Mumini ọlẹ lọ, ọkọkan wọn si ni oore wa lara re, maa se ojukokoro lori nkan ti yio se o ni anfaani, ki o si tun wa iranlọwọ pelu Ọlọhun, má si kagara, ati pe ti nkankan ba sele si o, o ko wa gbọdọ sọ pe kani mo se bayii nkan bayii bayii ni ko ba je, ṣugbon sọ pe kọdarullah wa maa sha'a fa'al "akosile Ọlọhun ni, nkan ti O si fe ni O se", tori pe (lao) "kani" o maa sina ise satani**» [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n se alaye pe dajudaju Mumini, daadaa ni gbogbo e, ṣugbon Mumuni ti o ni agbara ninu igbagbo re ati ipinnu re ati dukia re ati eyiti o yatọ si i ninu awon ona agbara ni oore ti Ọlọhun ti O biyi ti O gbọn-un-gbọn si tun nifẹẹ si i ju Mumini ti o je ọlẹ lọ. Leyin naa ni o sọ asotele- ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - fun Mumini pelu ṣise awon igbiyanju nibi nkan ti yio se e ni anfaani ninu awon alamori aye ati ojo ikeyin, pelu fifara ti Ọlọhun ti O mo ti ọla Re si tun ga, ati wiwa iranlọwọ pelu Re, ati gbigbe ara le E. Leyin naa o tun ko - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - kuro nibi ikagara ati ojuriro ati imaa se ọlẹ nibi ṣise nkan ti o maa se anfaani ni aye ati orun. Ti Mumuni ba gbiyanju nibi ise, ti o si tun se awon okunfa, leni ti o n wa ikunlọwọ Ọlọhun, ti o si tun wa oore lati ọdọ Ọlọhun, ko wa si nkankan fun un leyin re ayaafi ki o fa gbogbo alamori re le Ọlọhun lọwọ, ki o si tun lo mo pe dajudaju eyi ti Ọlọhun ba sesa ni oore. Nitori naa ti adanwo ba sele si i leyin iyen, ko gbọdọ sọ pe: Ka ni mo se bayii,

nkan bayii bayii ni ko ba jẹ"; Ati pe dajudaju gbolohun (kani) maa n şina işe satani" nibi titako kadara, ati kika abamo lori nkan ti o ti bo, şugbon o maa so leni ti o jupa juse sile ti o si tun yonu pe: "Koddaro Allāhu, wa maa Sha'a fa'ala", Ati pe nkan ti o şele yen wa ni ibamu si nkan ti Olohun gba lero, ati pe Aşeyiwu-U ni In, ko si si eni ti o le da akosile re pada, ati pe ko si eni ti o le da idajo re pada.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Titayo ara won awon eeyan nibi igbagbo.
2. Nini ife si agbara nibi awon ise; tori pe dajudaju yio maa sele pelu re anfaani ti ko le sele pelu ikole.
3. Omoniyani gbodo maa se ojokoro lori nkan ti yio se e ni anfaani, ki o si fi nkan ti ko nii se e ni anfaani sile.
4. O je dandan fun Mumuni ki o wa ikunlowo Olohun nibi gbogbo alamori re, ki o si ma gbarale ara re.
5. Fifi akosile ati kadara rinle, ati pe dajudaju ko tako sise awon okunfa ati gbigbiyanju nibi wiwa awon nkan daadaa.
6. Kiko kuro nibi sise gbolohun «**kani**» ni ti ibinu nigba ti adanwo ba sokale, ati sise ni ewo titako idajo ati akosile ti Olohun.

(5493)

(232) – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَى

يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(232) – Lati ọdọ Ibnu Umar- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji- o sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Jibril kò yè kò gbò ni ẹni tí n sọ àsọtélẹ fun mi nipa aládùúgbò, titi ti mo fi lérò pé yoo mu u jogún”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe Jibril ko yẹ ni ẹni tí n pààrà fun un ti o si n pa a láṣe láti ni akolekan aládùúgbò ti ilé re sunmọ, Mùsùlùmí ni tabi Kèfèrí, mọlẹbi ni tabi ẹni tí kii ṣe mọlẹbí, pelu ṣiṣọ iwọ re, ki eeyan ma si fi suta kan an, ki èyàn si maa ṣe daadaa si i, ki èyàn si maa ṣe suuru lori suta re, titi ti Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- fi lérò pe imisi maa sòkalẹ pé ki a maa fun un ninu dúkiá aládùúgbò re ti o ba fi silẹ léyìn iku re latara bi o ṣe bàbàrà iwọ re, ati bi Jibril ṣe n pààrà re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi ẹto ti aládùúgbò ati ọranyan lati ṣe akiyesi iye.
2. Títenu mọ ẹtọ aládùúgbò pẹlú àsọtélẹ n béèrè fun pé kí a bọwọ fún un, ki a wa ki o nífẹẹ ẹni, ki a si ṣe daadaa si i, ki a si ma jẹ ki o ri ìpalára, ki a si maa bẹ ẹ wo ti o ba ṣe àìsàn, ki a si maa ki i nígbà ìdùnnú, ki a si ba a kédùn nígbà àjálù.
3. Bí ẹnu-ọ̀nà aládùúgbò bá ṣe sunmọ si, bẹẹ náà ni ẹtọ rẹ ṣe maa kanpá sí.
4. Pípé sharia nibi ǹnkan ti o mu wa ninu ǹnkan ti didara àwùjọ wa nínú ẹ, bii ṣiṣe dáadáa si awọn aládùúgbò, ati titi ìpalára kuro fun wọn.



(233) – عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(233) – Láti òdò Abu Ad-Dardaa- ki Ọlọhun yonu si i- láti òdò Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pé: “Èni ti o ba dáàbò bo iyì ọmọ-iyá rẹ, Ọlọhun maa dáàbò bo ojú rẹ kuro nibi iná ni Ọjọ Àjínde”. [O ni alaafia] - [Tirmiziy ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pé ẹni tí ó bá dáàbò bo iyì ọmọ-iyá rẹ ti o jẹ Mùsùlùmí lẹyìn ti ko jẹ ki wọn bu u tabi ẹ aburú si i, Ọlọhun maa dáàbò bo oun naa kuro nibi iyà ni Ọjọ Àjínde.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Kikọ kúrò nibi síso ọrọ tàbùkù iyì àwọn Musulumi.
2. Ẹsan maa wa latara ìran iṣẹ, ẹni ti o ba dáàbò bo iyì ọmọ-iyá rẹ, Ọlọhun maa dáàbò bo oun naa kuro nibi iná.
3. Isilaamu jẹ ẹsin mímú ara ẹni ni ọmọ-iyá ati riran ara ẹni lówó láàrin àwọn Musulumi.

(5514)

(234) – عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(234) – Láti ọ̀dọ̀ Aishah- ki Ọ̀lọ̀hun yọnu si i- iyàwó Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- láti ọ̀dọ̀ Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- o sọ pe: “Dájúdájú èlẹ̀ ko nii wa ninu ǹnkan ayafi ki o ko ọ̀sọ̀ ba a, wọ̀n ko si nii yọ ọ kuro ninu ǹnkan ayafi ki o ko àlẹ́bù ba a”. [Ọ̀ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- n şàlàyé pe èlẹ̀ ninu ọ̀rọ̀ ati işe maa n lé àlámòrí kún ni ẹ̀wà ati pipe ati dídára, ohun ti o ye julo ni ki ẹ̀ni ti ba n fi èlẹ̀ şe ǹnkan o ri bukaata re gbọ̀.

Àisí èlẹ̀ maa n ko àlẹ́bù ba àlámòrí ni, ko si nii je ki èyàn o ri bukaata re gbọ̀, ti o ba wa ri bukaata naa gbọ̀, o maa je peḷu inira ni.

### Lára àwọ̀n ànfààní hadiisi naa:

1. Şişenilojukokoro lori nini iwà èlẹ̀.
2. Èlẹ̀ maa n ko ọ̀sọ̀ ba ọ̀mọ̀niyan ni, oun si ni okunfa gbogbo oore nibi awọ̀n alamọ̀ri ẹ̀sin ati ayé.

(5796)

(235) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَدَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا». [صحيح] - [متفق عليه]

(235) – Lati ọḍọ Anas ọmọ Maalik- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọḍọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o sọ pe: “E maa ẹ idẹkun fun awọn èyàn, ẹ ma ẹ fi ara ni wọn, ẹ maa fun awọn èyàn ni iró idùnnú, ẹ ma ẹ lé wọn sá”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n pàṣe ki a maa ẹ idẹkun fun awọn èyàn, ki a si ma fi ara ni wọn nibi gbogbo àlámọrí ẹsin ati ayé, iyẹn nibi ààlà nńkan ti Ọlọhun ẹ ni ẹtọ ti O si ẹ ni ofin.

O n ẹni lojukokoro lati maa fun wọn ni iro idùnnú nipa oore, ki a si ma le wọn sa kuro nibe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ojuṣe onigbagbo ododo ni ki o je ki awọn èyàn nífẹẹ Ọlọhun, ki o si maa ẹ wọn ni ojúkòkòrò lati ẹ rere.
2. O tọ fun olupepe si ọḍọ Ọlọhun ki o fi ọgbón wo ọnà ti yoo gba mu ipepe Isilaamu de ọḍọ àwọn èyàn.
3. Ifunni ni iro idùnnú maa n bi idùnnú ati ìkojúsí ati ifọkanbale fun olupepe ati fun nńkan ti o n fi han àwọn èyàn.
4. Ifi-ara-ni àwọn èyàn maa n bi sísá, ati ìkòyìnsí, ati mimu àwọn èyàn maa ẹ iyèméjì nibi ọrọ olupepe.
5. Gbígbòrò aanu Ọlọhun fun awọn ẹru Re, ati pe O yonu si ẹsin kan ti o rọrùn fun wọn, ati ofin ti wọn ẹ ni irọrun.
6. Ẹ́ṣe idẹkun ti wọn pàṣe re naa ni ohun ti sharia mu wá.

(236) – عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: «نُهَيْنَا عَنِ التَّكْلِيفِ». [صحيح]

[رواه البخاري]

(236) – Lati ọdọ Anas – ki Ọlọhun yonu si i – o sọ pe: A wa ni ọdọ ‘Umar, o wa sọ pe: «**Wọn kọ fun wa kuro nibi ifipase-nnkan**» [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### **Àlàyé:**

‘Umar – ki Ọlọhun yonu si i– n sọ wipe dajudaju Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – kọ fun wọn kuro nibi imaa ṣe nkan ti inira wa nibẹ lai ni bukaata si i, yala o je ọrọ ni abi iṣe.

### **Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ninu ifipase-nnkan ti wọn kọ ni: Apọju ibeere, tabi ki o la nkan ti ko ni imọ nipa re bo ara re lorun, tabi ki o le nibi alamọri ti Ọlọhun fi igbalaaye si i.
2. O tọ fun Musulumi ki o je ki elẹ mọ òun lára, ati ki o má maa fi agídí sòrò tabi ṣiṣe: Nibi jíje re, ati mimu re, ati awọn ọrọ re, ati gbogbo iṣesí re.
3. Isilaamu esin irorun ni.

(8945)

(237) - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(237) – Lati ọdọ Ibnu Umar- ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji- dajudaju ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- so pe: “Ti enikenininu yen ba fe jeun ki o yaa jeun pelu ọwọ ọtun re, ti o ba si fe mu ki o yaa mu pelu ọwọ ọtun re, dajudaju Shaitan maa n jeun pelu ọwọ osi re, o si maa n mu pelu ọwọ osi re”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n paṣe pe ki Musulumi maa je ki o si maa mu pelu ọwọ re ọtun, o si ko kuro nibi jije ati mimu pelu ọwọ osi; iyen ri beṣe nitorí pe Shaitan maa n je o si maa n mu pelu re.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Kikọ kuro nibi fifi ara wé Shaitan pelu jije tabi mimu pelu ọwọ osi.

(58122)

(238) - عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطْيِشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمَّ اللَّهُ، وَكُلَّ بَيْمِينِكَ، وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. [صحيح] - [متفق عليه]

(238) – Lati oḍo Umar oḗo Abu Salama- ki Oḗohun yonu si i - o so pe: Mo je oḗodekunrin ni abe itoju Ojiṣe Oḗohun - ki ike ati oḗa Oḗohun maa ba a - ati pe owo mi o si duro si oju kan ninu abo, ni Ojiṣe Oḗohun - ki ike ati oḗa Oḗohun maa ba a - wa so fun mi pe: «**Ire oḗodekunrin yii, daruko Oḗohun, ki o si jeun pelu owo otun re, ki o si tun je ninu nkan ti o sunmo o**» **Iyen o wa ye ni isesi ounje mii leyin igba naa.** [O ni alafia] - [Ohun ti won fi enu ko le lori ni]

### Àlàyé:

Umar oḗo Abu Salamah- ki Oḗohun yonu si awon mejeji -, oḗo iyawo anabi - ki ike ati oḗa Oḗohun maa ba a - ti n se ummu salamah - ki Oḗohun yonu si i - o si wa ni abe itoju re ati amojuto re -, n so pe on je eni ti o maa n gbe owo re kaakiri eḗbeḗbe abo ni asiko ounje, nitori naa Anabi - ki ike ati oḗa Oḗohun maa ba a - wa ko o ni awon eko meta ninu awon eko jije:

Alakoko re ni: Gbólóhùn "BismilLah" ni ibere ounje.

Ati pe elekeji ni: jije ounje pelu owo otun.

Ati pe eleketa re ni: Jije nibi eḗbe ti o ba sunmo on ninu oúnje.

### Lára awon ànfààní hadisi naa:

1. Ninu awon eko jije ati mimu ni didaruko Oḗohun ni ibere re.
2. Kiko awon oḗode ni awon eko, agaga julọ eni ti o ba wa ni abe itoju eeyan.

3. Şiṣe idẹkun Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a -, ati gbigba aaye igbaaya rẹ nibi fifi imọ mọ awọn ọmọde ati kikọ wọn ni ẹkọ.
4. Ninu awọn ẹkọ ounjẹ jíjẹ ni imaa jẹ ninu nkan ti o ba sunmọ eeyan, ayaafi ti o ba jẹ awọn iran orisirisi, nigba naa o le mu ninu rẹ.
5. Idunnimọ awọn saabe pẹlu nkan ti Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ba fi kọ wọn, wọn mu iyẹn jade lati ibi ọrọ Umar ti o sọ pe: Ẹsésí mi o wa yẹ lori iyẹn lẹyin igba naa.

(58120)

(239) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(239) – Lati ọdọ Anas ọmọ Maalik- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ọjísé Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Dájúdájú Ọlọhun maa n yonu si ẹrú ti o ba jẹun ti o wa dúpẹ lori rẹ, tabi ti o mu ti o wa dupẹ lóri rẹ” [O ni alaaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n şàlàyé pe idupẹ ẹrú fun Olúwa rẹ lóri ọla Rẹ ati awọn idera Rẹ wa ninu awọn alamọri ti maa n fa iyonu Ọlọhun; ti o ba jẹun, o maa sọ pé: ALHAMDULILLAAH, ti o ba mu, o maa sọ pé: ALHAMDULILLAAH.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Títa ọrẹ Ọlọhun ti O lágbara ti O gbọnngbọn, O fúnni ni arisiki, O si yonu si idupẹ.

2. Eeyan le ri iyonu Olohun ni onà ti o rorun julo, gege bii sise ALHAMDULILLA AH leyin jije ati mimu.
3. Ninu ekọ oúnjẹ ati nńkan mimu ni: Idupe fun Olohun leyin jije ati mimu.

(5798)

(240) – عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتُ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(240) – Lati odo Salamah omo Al-hakwa'u- ki Olohun yonu si i-: Dajudaju arakunrin kan jeun lodọ ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- pelu owo osi re, o so pe: "Jeun pelu owo otun re", o so pe: Mi ko ni ikapa, o so pe: "O o si nii ni ikapa", nnkan ko kodi re afi igberaga, o so pe: Ko si lee gbe e si enu re mo. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ri arakunrin kan ti o n jeun pelu owo re osi, o wa pa a lase lati jeun pelu owo re otun, Arakunrin naa wa da a lohun ni ti igberaga ati irọ pe oun ko ni ikapa! Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- sebi le e pe ki won se jije pelu owo otun leewo fun un, Olohun ba gba adura Anabi Re pe ki owo otun re ro, ko si lee gbe e si enu re leyin iyen pelu oúnjẹ tabi nńkan mimu.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Jije dandan jijeun pelu owo otun, ati jije eewo jijeun pelu owo osi.



2. Şíşe igberaga nibi titeḷe awon ofin Sharia maa n mu eni ti o ba se letoḷo si iya.
3. Aponle Olohun fun Anabi Re- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- pelu gbigba adura re.
4. Şíşe pipaşe pelu daadaa lofin ati kiko kuro nibi ibaje ni gbogbo isesi koda nibi isesi jije.

(3372)

(241) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ - أَوْ ثَوْبَهُ - عَلَى فِئِهِ، وَحَفَّضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ. [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(241) – Lati oḷo Abu Hurayra– ki Olohun yonu si i– o so pe: Ojişe Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ti o ba sin, o maa n gbe owo re- tabi ašo re- si enu re, ti o maa fi re ohun re niḷe. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ahmad ni won gba a wa]

### Àlàyé:

Ti Anabi- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- ba sin, o maa n: Akoko: O maa gbe owo re, tabi ašo re sori enu re; ki nnkan kan ma baa jade lati enu re tabi imu re ti o le ko suta ba alabajokoo re. Ikeji: O maa n re ohun re niḷe, ko si nii gbe e soke.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye ilana re- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- nibi sinsin ati iwo awokoşe re nibi iyen.
2. Şíşe gbigbe ašo tabi inuju ati nnkan ti o jo o sori enu re ni nnkan ti a fe ati sori imu re ki nnkan kan ti o le ko suta ba alabajokoo re ma baa jade lati oḷo re nigba ti o ba sin.

3. Irẹ ohun sinsin silẹ jẹ nnkan ti a fẹ, ó wa ninu pipe ẹko, ninu awọn iwa ti o daa si ni.

(3317)

(242) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصَةً، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمَةً». [صحيح] - [رواه ابن حبان]

(242) – Lati ọdọ Ibnu Abbas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o sọ pe: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Dajudaju Ọlọhun maa n fẹ lati mu awọn ofin idẹkun Re wa, gege bi O se nífẹ lati mu awọn eyi ti o jẹ dandan wa”. [O ni alaafia] - [Ibnu Hibbaan ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: Dajudaju Ọlọhun maa n nífẹ sí mímu awọn ofin idẹkun Re ti O se wọn lofin wa, ninu awọn nnkan ti O se wọn ni fifuye nibi awọn idajọ ati ijosin, ati şise irorun nibẹ fun awọn eni ti a la iwọ Ọlọhun bọ lorun fun idi kan- gege bii dindin irun ku ati dida a pọ ni ori irin ajo-, Gege bi O se nífẹ si mimu awọn ofin ti wọn jẹ dandan wa, ninu awọn alamọri ti wọn jẹ dandan; nitori pe aşe Ọlọhun nibi awọn idẹkun ati awọn nnkan ti wọn jẹ dandan jẹ ọkan.

### Lára awọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ike Ọlọhun- ti ọla Re ga- lori awọn ẹru Re, ati pe Ọlọhun- mimọ ni fun Un- nífẹ si mimu nnkan ti o ba se lofin wa ninu awọn idẹkun.
2. Pipe ofin sharia yii, ati gbigbe idààmú re kuro fun Musulumi.

(65017)

(243) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ

بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(243) – Láti òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojìṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Èni tí Ọlọhun ba fẹ oore fún, O maa fí àdánwò kàn án”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pe ti Ọlọhun ba fẹ oore fun ọkan ninu awọn ẹru Rẹ ti wọn jẹ mumini, o maa fí àdánwò kan wọn ninu ẹmi wọn ati dúkiá wọn ati ẹbi wọn, torí ìsádi Ọlọhun ti o maa ṣẹlẹ si mumini ninu ẹ pẹlú adua ati pipa awọn iṣe buruku rẹ ati agbega ní ipò.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Onigbagbo òdodo maa ri oríṣíríṣi àdánwò.
2. Àdánwò le jẹ àmì ìfẹ Ọlọhun fun ẹrú Rẹ, titi ti yoo fi gbe ipò rẹ ga, ti o si maa pa àṣìṣe rẹ rẹ.
3. Ṣìṣenilojukokoro lori suuru nigba àdánwò, ki èyàn má sì ba ara jẹ.

(4204)

(244) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(244) – Lati ọḍọ Abu Sa'eed Al-Khudriy ati lati ọḍọ Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si awon mejeeji- lati ọḍọ Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- o so pe: "Nnkan kan ko nii şelẹ si Musulumi ninu wahala ati aisan ati ironu ati ibanuje ati suta ati ironu ati ki ẹgun gun un afi ki Ọlọhun ba a fi pa awon aşışe re re". [O ni alaafia] - [Ohun ti won fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n şàlàyé pe dajudaju ohunkóhun tí ó bá şelẹ sí Mùsùlùmí, bii aisan ati ironu ati ibanuje ati ajalu ati ile koko ati ipaya ati ebi- koda ki o je ẹgun ni o gun un ti o wa n ko inira ba a-, iyẹn maa je ipa eşe re fun awon eşe re ati awon aşışe re.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye ọla ti o n be fun Ọlọhun lori awon ẹru Re ti won je olugbagbo ati ike Re pelu won pelu iforijin awon eşe won pelu eyi ti o kere julọ ninu inira ti o ba şelẹ si won.
2. O to fun Musulumi lati maa reti ẹsan nnkan ti o şelẹ si i loḍo Ọlọhun, ki o si şe suuru lori gbogbo nnkan kekere ati ílá, ki agbega ninu awon ipo le je tire ati ipa awon aburu re.

(3701)

(245) - عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(245) – Lati ọdọ Suhayb - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: Ojise Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: «**Eemọ ni alamọri mumini, dajudaju gbogbo alamọri re oore ni, iyen o si si fun enikankan ayaafi mumini, ti idunu ba sele si i yio dupe, ti yio si je oore fun un, ti inira ba si tun sele si i yio se suuru, ti yio si tun je oore fun un**». [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n se eemọ nipa ọrọ mumini ati awon isesi re ni ti daadaa; iyen ni pe gbogbo isesi re patapata ni oore, ti iyen o si si fun enikankan ayaafi mumini; Ti daadaa ba sele si i yio dupe fun Ọlọhun lori re; ti yio si gba esan pelu ope dida, Ti inira ba si tun sele si i yio se suuru ti yio si tun reti esan lodọ Ọlọhun, ti yio si tun gba esan suuru, nitori naa inu esan ni o wa ni gbogbo isesi re.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n be fun imaa dupe lori idunnu ati sise suuru lori inira, ati pe eni ti o ba se iyen yio ri esan aye ati ojo ikeyin, ati pe eni ti ko ba dupe lori idera, ti ko si se suuru lori adanwo, esan ti bo fun un, ti ese si ti wa fun un.
2. Ọla ti n be fun igbagbo, ati pe dajudaju gbigba esan nibi gbogbo isesi ko si fun enikankan ayaafi awon onigbagbo.
3. Idupe nigba idunnu ati sise suuru lori adanwo ninu awon iwa awon olugbagbo ni o wa.
4. Nini igbagbo si akosile Ọlọhun ati kadara Re yio maa je ki mumini o maa yonu tan yan-an-yan lori gbogbo isesi re, yato

si ẹni ti kii ẹ se mumini ti yio maa binu ni gbogbo igba nígbà tí inira ba ẹlẹ si i, ti o ba tun ri idera lati ọdọ Ọlọhun ti O biyi ti O gbongbong yio ko airoju pẹlu ẹ kuro nibi itele aṣẹ Ọlọhun, ka mai tii sọ lilo o sibi iyapa Ọlọhun.

(3298)

(246) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(246) – Lati ọdọ Abu Musa Al-ash'ari - ki Ọlọhun yonu si i - ó sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pé: "Tí ẹrú Ọlọhun kan bá ẹ̀sànsàn tabi ó rin irin-ajo, wọn yoo kọ laada silẹ fun un fún iṣe tí n ẹ se nigba tí ó wà nílẹ tó sì lalaafia". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọrọ nipa oore-ọfẹ Ọlọhun ati ikẹ Rẹ lori musulumi, tí ó fi jẹ pé tí ó bá wà ninu àṣà musulumi pé ó máa n ṣiṣe rere kan ní ẹni tó ní alaafia, tí kò sì rinrin ajo, musulumi naa wáá ní awawi kan latara pé ó ẹsaisan, kò wá lẹ ẹ iṣe rere naa, tabi pé ó ẹsairoju pẹlu irin-ajo, tabi ẹyíkẹyíi ninu awon awawi; dajudaju wọn maa kọ laada iṣe rere naa silẹ fun un ní pípé, bí ẹni pé ó ẹsise naa ni awon asiko tó ni alaafia, tí kò sì wà ní irin-ajo.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Gbígbòrò oore-ọfẹ Ọlọhun lori awon ẹru Rẹ.
2. Ríroni lati maa gbiyanju ẹ awon ijosin fun Ọlọhun, kí a sì maa lo awon asiko wa dáadáa nigba tí a bá wà ní alaafia, tí a sì ráyè.

(3553)

(247) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(247) – Lati ọdọ Abu Hurayra - ki Ọlọhun yonu si i - dajudaju ojiṣe Ọlọhun - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - sọ pe: E yára si awọn iṣe daadaa siwaju ki awọn fitina kan ti yio da bii oru ti o ṣokunkun gan o to de, ti ọmọniyan o ji ni mumini ti yio si di alẹ ni keferi, tabi ki o di alẹ ni mumini ki o si ji ni keferi, ti yio ta ẹsin rẹ tori adun aye ti ko nii pe tan. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - n ṣe mumini ni ojukokoro pelu yiyara ati pipọ ni ṣiṣe awọn iṣe oloore siwaju nínira rẹ ati kiko airoju kuro nibe latari dide awọn fitina ati iruju ti yio dena rẹ, ti yio si ṣeri àwọn kúrò nibe, ati pe okunkun kan ni ti o da bi okunkun oru, ti ododo ati irọ maa dapọ nibe, ti yio si le fun awọn eeyan lati ṣe iyatọ laarin mejeeji, ati pe latari lile rẹ (fitina) ọmọniyan o nii mọ nńkan ti o fẹ ṣe, débi pe yio ji ni mumini ti yio si di alẹ ni keferi, tabi ki o di alẹ ni mumini ki o si ji ni keferi, yio fi ẹsin rẹ silẹ fun adun aye ti yio tan.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ijẹ dandan didirọ mọ ẹsin, ati yiyara sibi iṣe oloore siwaju ki awọn adinilọwọ o to kọdi.
2. Itọka si itẹlera awọn fitina ti maa n sọni nu ni igbeyin aye, ati pe bi fitina kan ba ṣe n lọ ni omiran o maa rọpo rẹ.
3. Ti ẹsin ọmọniyan ba ti lẹ ti o si fi ẹsin silẹ latari awọn alamọri aye gẹgẹbi owo tabi nkan miran, iyẹn o jẹ okunfa yiyegerẹ rẹ ati gbigbe ẹsin rẹ jusilẹ ati sisa tele awọn fitina yẹn.

4. O wa ninu hadīth yii itōka si pe dajudaju awon iṣe oloore okunfa ọla ni wọn je nibi awon fitina.
5. Awon fitina ipin meji ni: Awon fitina awon iruju, iwosan re ni imo, awon fitina awon adun, iwosan re ni igbagbo ati suuru.
6. O wa ninu hadīth yii itōka lori pe dajudaju eni ti iṣe re ba kere fitina o yara de ọdọ re, ati pe eni ti iṣe re ba po ki o ma gba etan pelu nkan ti n be ọdọ re bi ko se pe ki o tun wa alekun.

(3138)

(248) – عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(248) – Láti ọdọ Muaawiyah- ki Ọlọhun yonu si i- o so pe: Mo gbọ ti Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n so pé: “Eni tí Ọlọhun ba fé oore fun, yoo fun un ni agboye ninu esin, olupin ni mi, Ọlọhun ni n funni, ijọ yii ko nii dekun lati maa duro lori àṣe Ọlọhun, ti eni tí ó bá yapa wọn ko si nii ko ipalára ba wọn, titi ti àṣe Ọlọhun yoo fi dé”. [O ni alafia] - [Ohun ti wọn fi enu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n so pé eni tí Ọlọhun ba fé oore fun, O maa fun un ni agboye ninu esin Re, oun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- si ni olupin, o maa n pin ohun ti Ọlọhun ba fun un ninu arisiki ati imo ati awon nkan miiran, ati pe eni ti n funni gan ni Ọlọhun, sùgbón àwọn tí wọn o kii se olohun je okunfa ti ko lee se anfaani kankan ayafi pelu iyonda Ọlọhun, ijọ yii ko nii dekun lati maa duro lori àṣe Ọlọhun, ti eni tí ó bá yapa wọn ko si nii ko ipalára ba wọn, titi ti ayé fi maa pare”



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Titobi ati ọla ti n bẹ fun imọ sharia ati kikọ ọ, ati sisenilojukokoro lori ẹ.
2. Diduro ti òdodo gbọdọ wa ninu ijo yii, ti àwọn ikò kan ba ti pa á tì, àwọn ikò mìràn maa dúró tì í.
3. Níní agboye ninu ẹsin wa ninu pe Ọlọhun fẹ oore fun ẹrú rẹ.
4. Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- maa n fúnni pèlú àşẹ Ọlọhun ati fífẹ Rẹ, ati pe ko ni ikapa ǹnkan kan.

(5518)

(249) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِيُتَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالْتَّارُ النَّارُ». [صحيح] - [رواه ابن ماجه]

(249) – Láti òdò Jaabir omo Abdullahi- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji- pe Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- so pé: “E ma kó imọ lati le maa fi ba àwọn onimimọ şe iyanran, tabi lati le baa maa fi ja àwọn omugọ níyàn, ẹ si ma şesa lati wa ni iwájú ni àwọn àpéjo pèlú ẹ, ẹni tí ó bá şe iyẹn, iná ni, iná ni”. [O ni alaafia] - [Ibnu Maajah ni o gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- kilọ kúrò nibi wiwa imọ lati maa fi ba àwọn onimimọ şe iyanran, ati lati le fi hàn pé onimimọ bii tiyín ni èmi náà, tabi lati fi ba àwọn omugọ ati awon ti làákàyè won le sòrò lati ba won jiyàn, tabi ki o kọ imọ lati wa ni iwájú ni àpéjo, ti won si maa ti i saaju ẹlòmíràn nibe. Ẹni tí ó bá şe iyẹn; o ni ẹto si iná pelu şekarimi rẹ ati àní imokanga nibi wiwa imọ naa nítorí Ọlọhun.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Àdéhùn ìyà iná fun ẹni ti o ba kọ imọ lati maa ẹ iyanran pẹlú ẹ, tabi ìjiyàn pẹlú ẹ, tabi wiwa ni iwájú nibi àpéjọ pẹlú ẹ, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
2. Pataki mimọ àníyàn kangá fun ẹni ti o ba kọ imọ ti o si tun kọ ẹlòmíràn.
3. Aniyan ni ipilẹ àwọn iṣẹ, ori rẹ naa si ni ẹsan maa wa.

(65047)

(250) – عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(250) – Lati ọdọ Uthman- ki Ọlọhun yonu si i- láti ọdọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: “Ẹni tí ó loore ju ninu yin ni ẹni tí ó kọ Kuraani ti o si tun kọ ẹlòmíràn”. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ fún wa pe ẹni ti o ni olá ju ninu awọn Mùsùlùmí ti o si tun ga ju ni ipo ni ọdọ Ọlọhun ni: Ẹni ti o ba kọ Kuraani, ni kika ati hiha, ati kike e ni peṣeṣe, ati agboye rẹ, ati itumọ rẹ, ti o tun wa kọ ẹlòmíràn ni ohun ti n bẹ ọdọ rẹ ninu imọ Kuraani pẹlu lílò ó.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Àlàyé iyì Kuraani, ati pe oun ni ọrọ ti o loore ju; tori pe ọrọ Ọlọhun ni.
2. Ẹni tí ó ni oore ju ninu awọn akẹkọọ ni ẹni tí n kọ ẹlòmíràn, kii ẹ ẹni tí ó fi mọ lori ara rẹ nìkan.

3. Kíkọ Kuraani, ati kikọ ẹ̀lòmíràn ni Kuraani kó kike e ati awọn ìtumò, ati awọn idajọ sinu.

(5913)

(251) - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرَأُ مِنَّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [حسن] - [رواه أحمد]

(251) – Lati ọ̀dọ Abu Abdir-Rahmaan As-Sulamiy- ki Ọ̀lọhun ké ẹ- o sọ pe: Awọn ti wọn maa n kọ wa bi a ẹ maa ka Kuraani ninu awọn saabe Anọbi- ki ikẹ Ọ̀lọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ fun wa pe àwọn maa n gba aaya mẹwàá lódò ojişẹ Ọ̀lọhun- ki ikẹ Ọ̀lọhun ati ọla Rẹ maa ba a- àwọn ko nii gba mẹwàá miiran titi ti àwọn fi maa mọ imọ ati işẹ ti o wa ninu ẹ, wọn sọ pé: A wa kọ imọ ati işẹ. [O daa] - [Ahmad ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Awọn saabe- ki Ọ̀lọhun yonu si wọn- maa n gba aaya mẹwàá lódò ojişẹ Ọ̀lọhun- ki ikẹ Ọ̀lọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ninu Kuraani, wọn ko si nii bọ si ibòmíràn titi ti wọn fi maa kọ imọ ti o wa ninu awọn aaya mẹwàá yii ti wọn si maa lò ó, o maa waa ja si pe wọn kọ imọ ati işẹ papọ niyẹn.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla ti n bẹ fun awọn saabe- ki Ọ̀lọhun yonu si wọn- ati ojúkòkòrò wọn lori kíkọ Kuraani.
2. Kíkọ Kuraani maa wáyé pẹ̀lú imọ ati lilo o, kii ẹ pẹ̀lú kika a ati hiha a nìkan.
3. Ìmọ maa wáyé şiwaju ọ̀rọ ati işẹ.

(65058)

(252) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ {الم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ {أَلِفٌ} حَرْفٌ، وَ{لَامٌ} حَرْفٌ، وَ{مِيمٌ} حَرْفٌ». [حسن] - [رواه الترمذي]

(252) – Lati ọdọ Abdullāh ọmọ Mas‘ūd – ki Ọlọhun yọnu si i – o sọ pe: Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: «**Eṅi ti o ba ka harafi kan ninu tira Ọlọhun, o maa fi gba ẹsan daada kan, ati pe ẹsan kan yio maa ni ilopo mewaawu iru re, mi o sọ wipe “alif lām mīm” harafi kan ni o, amọ alifu harafi kan ni, lāmu naa harafi kan ni, mīmu naa harafi kan ni**». [O daa] - [Tirmiziyi ni o gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ wípé dajudaju gbogbo Musulumi kọkan ti o ba n ka harafi kan ninu tira Ọlọhun ni ẹsan kọkan a máa bẹ fun un, ti wọn yio si ẹ adipele ẹsan naa fun un ni ilopo mewaawu iru re.

Leyin naa ni o wa ṣalaye pẹlu gbolohun re ti o sọ pe: (Mi o sọ wipe “alif lām mīm” harafi kan ni o, amọ alif harafi kan ni, lām naa harafi kan ni, mīm naa harafi kan ni): Nítorí naa yio je harafi meta ti o ko ẹsan ogbon sinu.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣenilojukokoro lori pipọ ni kika Alukurāni.
2. O n bẹ fun oluka nibi gbogbo harafi kọkan ninu gbolohun ti o ba n ka ẹsan kan ti wọn o ẹ adipele re ni ọna mewaawu iru re.
3. Gbígòdòdò ike Ọlọhun ati ọre Re latari pe O ẹ adipele ẹsan fun àwọn ẹrú Re ni ti ọla ati ọre lati ọdọ Re.

4. Ọla ti n bẹ fun Alukurāni lori ọrọ ti o yato si i, ati jijọsin pẹlu kika a, iyẹn ri bẹ nitori pe ọrọ Ọlọhun ti O ga ni.

(6275)

(253) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد]

(253) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Amr- ki Ọlọhun yonu si àwọn mejeeji- o sọ pe: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Wọn maa sọ fun onikuraani pe: Maa kà, maa gòkè, maa ké gẹgẹ bi o ẹ maa n ké e ni aye, dájúdájú ibùgbé rẹ wa nibi igbeyin aaya ti o n ka”. [O daa] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Nasaa'iy ni wọn gba a wa nínú al-Kubrọ, ati Ahmad]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé wọn maa sọ fun ẹni ti n ka Kuraani, ti n lo ohun ti o wa ninu rẹ, ti n dunnì mọ ọn ni kíkà ati híhá, ti o ba ti wọ alujanna- pé: Maa ka Kuraani, ki o si maa gòkè pẹlú iyẹn nibi awọn ipò alujanna, ki o si maa ke e gẹgẹ bí o ẹ maa n ke e ni aye pẹlú pẹlé pẹlé ati ifarabale; tori pe ibùgbé rẹ n bẹ nibi opin aaya ti o maa kà.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ẹsan maa wa ni ibamu si iṣẹ ni ti odiwọn ati bi iṣẹ ba ẹ rí.
2. Ẹṣenilojukokoro lori kika Kuraani, ati mimu ojú tó o dáadáa, ati hiha a, ati irònú jinlẹ nipa rẹ, ati lílo ohun ti o wa ninu ẹ.
3. Alujanna ni ọpọlọpọ ipele ati ipò, onikuraani maa dé ipò ti o ga julọ ninu ẹ.

(65054)

(254) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(254) – Láti ọ̀dọ̀ Abu Huraira- ki Ọ̀lọ̀hun yonu si i- o sọ pe: Ọ̀jísé Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- sọ pé: “Njé ẹníkẹni nínú yín yòò fẹ, nígbà tí ó bá padà sí ọ̀dọ̀ àwọn ará ilé rẹ, láti rí ràkúnmí aboyún mẹta ti wọn tobi ti wọn sanra ni ọ̀dọ̀ wọn?” A sọ pé: Bẹ̀ẹ̀ ni. Ó sọ pé: “Àwọn aaya mẹta tí ọ̀kan nínú yín máa n ka lori irun rẹ ni oore fun un ju ràkúnmí aboyún mẹta ti wọn tobi ti wọn sanra lọ”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọ̀bi- ki ikẹ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ maa ba a- n şalàyé pe ẹsan kika aaya mẹta lori irun; o ni oore ju ki èyàn o ri ràkúnmí aboyún mẹta ti wọn tobi ti wọn sanra ni ilé rẹ lọ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Àlàyé ọ̀la ti n bẹ fun kika Kuraani ni orí irun.
2. Awọn işẹ rere ni oore, wọn şi tun maa şeku titi láéláé ju igbadun ayé ti o maa tán lọ.
3. Ọ̀la yii kò mọ lori kika aaya mẹta nìkan, gbogbo ìgbà ti ẹnì tí n kirun ba ti n şe alekun nibi kika àwọn aaya nibi irun rẹ ni ẹsan rẹ maa loore fun un ju iye onka wọn ninu ràkúnmí aboyún lọ.

(65053)

(255) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهَوَّ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبْلِ فِي عُقْلِهَا».

(255) – Lati ọdọ Abu Musa Al-Ash’ariy- ki Ọlọhun yonu si i- lati ọdọ Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pe: “E maa ka Kuraani yii ni igbà gbogbo, mo fi Ẹni tí ẹmi Muhammad n bẹ lówó Rẹ bura, o yara sá lọ ju rākúnmi ninu okùn ti wọn fi dè é lọ”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- pàşẹ ki a maa ka Kuraani nígbà gbogbo, ki a si maa tẹra mọ kika a ki èyàn ma baa gbagbe rẹ leyin híhá a, o wa tẹnu mọ ọn pèlú ibúra pe Kuraani yára kuro ninu àyà ju rakunmi ti a so lọ, oun naa ni eyi ti a fi okùn dè ni aarin eşẹ, ti eeyan ba n ka a nígbà gbogbo, o maa di i mu, ti o ba si tu u sílẹ, o maa lọ.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ti ẹni tí ó ha Kuraani ba tẹra mọ kika rẹ leraléra o maa wa ni hiha ninu ọkan rẹ, bi bẹẹ kọ yoo lọ ti yoo si gbagbe rẹ.
2. Lara anfaani kika Kuraani nígbà gbogbo ni: Ẹsan, ati igbega ni ipò ni Ọjọ Àjínḡde.

(5907)

(256) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(256) – Lati ọdọ Abu Hurayra – ki Ọlọhun yonu si i– dajudaju Ojiṣe Ọlọhun – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: “E ko gbọdọ sọ awọn ile yin di awọn iboji, dajudaju eṣu maa n sa kuro nibi ile ti wọn maa n ka Suratul Bakọra nibe”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- kọ kuro nibi ki a ma maa kirun ni ile, ti yoo fi wa da gege bii awọn iboji ti wọn ko kii n kirun nibe.

Leyin naa Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pe dajudaju eṣu maa n sa kuro nibi ile ti wọn maa n ka Suratul Bakọra nibe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣiṣe pipọ ni ijọsin ni ohun ti a fe ati kiki irun akigbore ninu ile.
2. Irun kiki ko leto ni awọn iboji; nitori pe o je ọna kan ninu awọn ọna ti wọn maa n gba lati se ebọ ati kikoja aala nipa awọn ti wọn wa nibe, yatọ si irun ti a maa n ki si oku lara.
3. Kiko kuro nibi kiki irun nibi awọn sàrèè fi eṣe rinle loጋ awọn saabe, nitori idi eyi ni Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- fi kọ lati je ki awọn ile da gege bii awọn iboji ti wọn ko kii n kirun nibe.



(257) – عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ، أَبَا الْمُنْذِرِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(257) – Lati ọḍọ Ubay ọmọ Kahb- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Ọjísẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Irẹ Abu Al-Munzir, ñjẹ o mọ aaya wo ninu tira Ọlọhun ti o wa pẹlu rẹ ni o tobi julọ?”, o sọ pe: Mo sọ pé: Ọlọhun ati ojísẹ Rẹ ni wọn ni imọ julọ. O sọ pe: “Irẹ Abu Al-Munzir, ñjẹ o mọ aaya wo ninu tira Ọlọhun ti o wa pẹlu rẹ ni o tobi julọ?”, o sọ pe: Mo sọ pé: {Allāhu, kò sí ọlọhun kan tí ijòsìn tó sí àfi Ọun, Alààyè, Alámòjúútó-èdá} [Al-Baqarah: 255]. O sọ pe: O wa fi ọwọ lu mi láyà, o wa sọ pé: “Mo fi Ọlọhun búra, o kú oriire imọ naa, ki Ọlọhun še e ni irọrun fun ẹ, irẹ Abu Al-Mundhir”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- bi Ubay ọmọ Kahb léèrè nipa aaya ti o tobi ju ninu tira Ọlọhun, o wa še iyèméjì nibi dáhùn, léyìn náà ni o wa sọ pé: Oun ni aayatul Kursiyy: {Allāhu, kò sí ọlọhun kan tí ijòsìn tó sí àfi Ọun, Alààyè, Alámòjúútó-èdá}, Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- wa še atileyin fun un, Anọbi wa lu u ni àyà lati tọka si pe o kún fun imọ ati ogbón, o wa še adua fun un pe ki o maa dunnu pẹlú imọ yii ki o si rọrùn fún un.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ìwà rere nla ti Ubay ọmọ Kahb, ki Ọlọhun yonu si i.
2. Aayatul Kursiyy ni aaya ti o tobi ju ninu tira Ọlọhun ti ọla Rẹ ga, hiha a ni ẹtoy, ati ìrònú nipa awọn ìtumọ rẹ, ati lilo o.

(258) – عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاءَ». [صحيح] - [منفق عليه]

(258) – Lati ọḍọ Abu Mas‘ūd – ki Ọlọhun yonu si i– o sọ pe: Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: «**Ẹni ti o ba ka aayah meji ti o gbeyin Sūratul Bakọra ni oru kan, wọn ti to fún un**». [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lórí ni]

### Àlàyé:

Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ wipe dajudaju ẹni tí o ba ka aayah meji ti o gbeyin Sūratul Bakọra ni aḷẹ, dajudaju Ọlọhun a to o kuro nibi aburu ati nkan ti ko dáa, wọn tun sọ pe: Yio gbe e nibi didide loru (irun oru), wọn tun sọ pe: Yio gbe e nibi awọn iranti yòókù, wọn tun sọ pe: Dajudaju mejeji ni odiwọn ti o kere ju ti o le to ninu kika Kuraani nibi idide oru (irun oru), wọn si tun sọ nkan ti o yatọ si iyẹn, ati pe o sunmọ pe gbogbo nkan ti wọn sọ yẹn naa ni o daa ti gbolohun yẹn naa si ko o sinu.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Alaye ọla ti o wa fun awọn aayah igbeyin Sūratul Bakọra, ti o bere lati ibi gbolohun Ọlọhun ti ọla Re ga ti o wi pe: (Āmana rosūlu...) titi de ipari Sūrah naa.
2. Awọn igbeyin Sūratul Bakọra maa n ti aidara ati aburu ati ẹ̀ṣù d̀ǹù fún ẹni tí o ba n ka a ti o ba ka a ni aḷẹ.
3. Oru bere pelu wiwo oorun, o si pari pelu yiyo alufajari.

(259) – عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «{وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(259) – Láti ọ̀dò An-Nuhmaan ọmọ Basheer- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Mo gbọ ti Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: “Adua naa ni ijọsìn”, leyin naa ni o wa ka: “{Olúwa yín sọ pé: “È pè Mí, kí Ñg jépè yín. Dájúdájú àwọn t’ó n sẹgbéraga nípa jíjọsìn fún Mi, wọn yóò wọ inú iná Jahanamọ ní ẹni yẹpẹre} [Gaafir: 60]”. [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé adua naa ni ijọsìn, ohun ti o jẹ dandan naa ni ki gbogbo ẹ jẹ ti Ọlọhun nikan, yálà o jẹ adua ibeere ati wiwa nnkan ni, bii ki o tọrọ lódò Ọlọhun ohun ti o maa ẹ e ni anfaani, ati titi ohun ti o maa ko inira ba a ni ayé ati ọrun lọ, tabi o jẹ adua ijọsìn, oun ni gbogbo nnkan ti Ọlọhun nífẹẹ si ti o si yonu si ninu awọn ọ̀rò ati awọn iṣẹ ti o han ati eyi ti o pamo, àwọn ijọsìn ti ọkàn tabi ara tabi dúkiá.

Leyin naa ni Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- wa mu ẹri wa lori iyẹn, nibi ti o ti sọ pe: Ọlọhun ti ọla Re ga sọ pe: {È pè Mí, kí Ñg jépè yín. Dájúdájú àwọn t’ó n sẹgbéraga nípa jíjọsìn fún Mi, wọn yóò wọ inú iná Jahanamọ ní ẹni yẹpẹre}

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Adua ni ipilẹ ijọsìn, ko tọ ki a ẹ e fun ẹni ti o yatọ si Ọlọhun.
2. Adua kó pàápàá ije-ẹru sínú, ati jijẹwọ ọ̀rò Olúwa ati ikapa Re, ati iní bukaata ẹrú si I.
3. Àdéhùn iyà ti o le koko ni ẹsan igbéraga nipa jijọsin fun Ọlọhun ati gbigbe pipe E ju silẹ, ati pe awọn ti wọn n ẹ

ìgbéraga nipa pipe Ọlọhun maa wọ iná Jahannamo ni ẹni yepẹrẹ.

(5496)

(260) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ

أَحْيَانِهِ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(260) – Lati ọdọ ‘Āisha – ki Ọlọhun yonu si i– o sọ pe: Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – je ẹni ti maa n ranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ni gbogbo igba. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

‘Āisha iya gbogbo mu’mini – ki Ọlọhun yonu si i – n sọ pe dajudaju Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – je ẹni ti ojukokoro rẹ pọ gidi gan lori riranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga, ati pe dajudaju o je ẹni ti maa n ranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ni gbogbo igba ati aaye ati isesí.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Wọn o şe imọra kuro nibi ẹgbin kekere ati nla ni majemu fun iranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga.
2. Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a – maa n dunni mọ iranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga.
3. Şişenilojukokoro lori iranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ni ọpọlọpọ ni gbogbo igba lati fi koşe Anabi – ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a -, ayaafi ni awọn isesí ti wọn kọ şişe iranti nibẹ, gege bii asiko gbigbo bukaata (itọ tabi igbe).

(8402)

(261) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». [حسن] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(261) – Lati ọọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o gba a wa lati ọọ Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, o sọ pe: “Ko si nnkan kan ti o ni aponle ni ọọ Ọlọhun - ti ọla Re ga - ju adua lo” [O daa] - [Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- şàlàyé pe ko si nnkan kan ninu awon ijosin ti o ni ọlá ni ọọ Ọlọhun ju adua lo; torí pé ó n bẹ ninu ẹ jijewo ọrò Ọlọhun ti ọla Re ga, ati jijewo ikagara erú ati iní bukaata re si I.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọla adua, ati pe ẹni ti o ba pe Ọlọhun ni o n gbe E tobi, ti o si n fi rinle fun Un pe Ọlórò ni, mimọ ni fun Un, èyàn kii pe tálákà, Olùgbó si ni, èyàn kii pe odi, Ọlórẹ ni, eeyan kii pe ahun, Aláàánú ni, èyàn kii pe ẹni ti o le, Ọba ti O ni ikapa ni, èyàn kii pe ẹni ti o kagara, Ọba ti O sunmọ ni, ẹni tí ó jìnnà ko lee gbọ, ati ohun ti o yatọ si iyẹn ninu awon iròyìn títóbi ati ewà fun Ọlọhun, mimọ ni fun Un, Ọba ti ọla Re ga.

(5509)

(262) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ الْخَلْقُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ». [صحيح] - [رواه الحاكم والطبراني]

(262) – Lati ọdọ Abdullahi ọmọ Amru ọmọ ‘Aas- ki Ọlọhun yonu si awọn mejeeji- o sọ pe: Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Dajudaju igbagbo maa n gbó ninu ikun eni koṣkan yin gege bí aṣo se maa n gbó, ki e ya maa beere loṣo Ọlọhun lati sọ igbagbo di tuntun ninu awọn ọkan yin”. [O ni alaafia] - [Al-Haakim ati At-Ṭabarṣoniy ni wọn gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju igbagbo maa n gbo ni ọkan Musulumi o si maa n le gege bi aṣo tuntun ti o maa n gbo ti wọn ba ti lo o fun igbà pípé; Ati pe iye maa n ṣelè pelu okunfa adinku nibi ijosin, tabi dida awọn eṣe ati titere sinu awọn adun. Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n tọ wa sọna lati maa pe Ọlọhun- ti ọla Re ga- lati maa sọ igbagbo wa di tuntun, pelu ṣise awọn ọran-anyan ati pipọ ni iranti ati wiwa aforijin.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ṣṣenilojukokoro lori bibeere idúróṣinṣin ati sisọ igbagbo di tuntun ninu ọkan loṣo Ọlọhun.
2. Igbagbo je ọrọ ati iṣe ati adisọkan, o maa n lekun pelu itele, ó si maa n dinku pelu eṣe.

(65020)

(263) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ

الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثُرُوا الدُّعَاءَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(263) – Látí òdò Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojiṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Iṣesi ti ẹrú maa n sunmọ Oluwa rẹ ju nibẹ ni igbà ti o ba wa ni iforikanlẹ, ki ẹ yaa maa ṣe adua ni ọpòlọpò”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ṣàlàyé pe iṣesi ti ẹrú maa n sunmọ Oluwa rẹ ju nibẹ ni igbà ti o ba wa ni iforikanlẹ; iyẹn ni pe ẹnì tí n kirun maa fí ibi tí o ga ju tí o sí niyí ju nínu ara rẹ lé ilẹ̀ ní tí ìtẹ́ríba ati irelẹ fun Ọlọhun tí O lágbara tí O gbọnngbọn, tí o sí wa ní iforikanlẹ.

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- tí wa pàṣe ṣíṣe adua ni ọpòlọpò ni iforikanlẹ, o maa wa kọjọ nínu iyẹn irelẹ fun Ọlọhun pẹlu ọrò ati iṣe.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Itẹlẹ àṣe Ọlọhun maa n le ẹrú kún ni isunmọ Ọlọhun tí ọla Rẹ ga.
2. A fẹ ki a maa ṣe adua ni ọpòlọpò ni iforikanlẹ; torí pé ó wa nínu awọn ààyè gbigba adua.

(5382)

(264) – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(264) – Lati ọdọ Anas- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Adura ti Anabi maa n ẹ loorekoore ju ni:(( “Ọlọhun, Oluwa wa, fun wa ni oore ni aye, ati rere ni igbèyìn, ki O si daabo bo wa nibi iya ina”).) [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anabi, ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – maa n ẹ adua loṣoṣo pèlú àwọn adua ẹ́kí tí o ko nńkan ti o pọ sinu, ninu rẹ ni: «**Olúwa wa, fún wa ní oore ní ayé àti oore ní ọrun, kí O sì sọ wa níbi iyà Iná**» Ó ko oore ayé sínú, bíi ipèsè arisiki ti o rọrun ti o gbooro, ti o jẹ alaali, ati iyàwó ti o daa, ati ọmọ itutu ojú, ati isinmi, ati imò tí ó wúlò, ati iṣé rere, àti ohun tí ó jọ iye ninu awọn ohun ti èyàn n fẹ ati ohun ti wọn ẹ ni ẹto, ati daadaa alukiyaamo bii lila nibi awọn iya sàrèè, ati ibuduro ni ojo igbende, ati iná, ati riri iyonu Ọlọhun, ati nini idera gbere, ati isunmọ Oluwa Ajọkẹ-aye.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Fife ẹ́ṣe àwọn adua ẹ́kí tí wọn ni itumọ pupọ, lati fi kọṣe Anọbi- ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a-
2. Eyi ti o fi n pé julọ ni ki ọmọniyàn da oore ayé papọ mọ ti ọrun nibi adua rẹ.

(5502)



(265) - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِمُحْيِرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى». [صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(265) – Lati ọdọ Abu Dardaa- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pe: Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: "Sé ki n fun yin ni iro nipa eyi ti o daa julọ ninu awọn işe yín, ati eyi ti o mọ julọ ninu re ọdọ Oluwa yin, ati eyi ti o ga julọ ninu re ninu awọn ipo yin ti o si loore julọ fun yin ju nina wura ati fadaka lọ, ti o si loore julọ fun yin ju ki ẹ pade ọta yin ki ẹ si ge awọn ọrun wọn ki wọn si ge ọrun yin lọ? Wọn sọ pé: Beṅeni. O sọ pe: "Iranti Ọlọhun- ti ọla Re ga-". [O ni alaaafia] - [Tirmiziy ati Ibnu Maajah ati Ahmad ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- beere lọwọ awọn saabe re pé: .

Nje ẹ fe ki n fun yin ni iro ki n si kọ yin ni eyi ti o daa julọ ninu awọn işe yin ati eyi ti o niyi julọ ninu re ati eyi ti o ga julọ ninu re ati eyi ti o mọ julọ ninu re ọdọ Ọlọhun Ọba Olukapa- Alagbara ti O gbongbon-? .

Ti o ga julọ ninu re ninu awọn ipò yin ninu alujanna?

Ti o loore julọ fun yin ju şişe saara peḷu wura ati fadaka lọ?

Ati eyi ti o daa julọ fun yin ju ki ẹ pade ọta yin fun ogun lọ, ki ẹ si ge awọn ọrun wọn ki wọn si ge ọrun yin lọ?

Awọn saabe sọ pe: Beṅeni a fe iyeṅ.

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: Iranti Ọlọhun- ti ọla Re ga- ni gbogbo asiko ati lori gbogbo işesi.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Dajudaju idunnimọ iranti Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- ni gbangba ati kọrọ wa ninu awọn eyi ti o tobi julọ ninu asunmọ, ati eyi ti o ẹ anfaani julọ lọdọ Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-.
2. Gbogbo awọn iṣe wọn ẹ wọn lofin fun igbe iranti Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- dúró ni, Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- sọ pe: (Kí o sì kírún fún ìrántí Mì). Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: Dajudaju wọn ẹ tawaaf ati sisa safa ati mariwa, ati jiju oko lofin lati fi gbe ìrántí Ọlọhun duro ni. Abu Daud ati Tirmidhi ni wọn gba a wa.
3. Al-'Izzu omọ Abdus-Salaam sọ ninu tira rẹ ti o n jẹ AL-QAWAA'ID pé: Hadiisi yii wa ninu nnkan ti o tọka si pe ẹsan ko da lori odiwọn wahala nibi gbogbo awọn ijọsin, bi ko ẹ pe Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga- le ẹsan lori iṣe kekere ju òlálá lọ, ẹsan maa n da lori ìyàtò ni ipo nibi iyi.
4. Al-Manawi sọ ninu Fayd al-Qadeer pe: Wọn tumọ Hadith yii si pe iranti dara julọ fun awọn ti wọn n ba sọrọ pèlú rẹ, ti wọn ba fi ba akin èyẹ̀n ti o maa wúlò fun Isilaamu ni oju ogun sọrọ, wọn maa sọ fun un pe jijagun ni, tabi ọlọrọ ti owo rẹ maa ẹ anfaani fun talika, wọn maa sọ fun un pe saara ni, àti ẹni ti o ni ikapa láti ẹ hajj, wọn maa sọ fun un pe hajj ni, tabi ẹni tí o ni obi mejeeji, wọn maa sọ fún un pé ẹ́sẹ́ dáadáa si awọn mejeeji ni, pèlú rẹ ni ibaramu ẹ maa ẹlẹ́ láàárín àwọn hadith oríṣiríṣi naa.
5. Eyi ti o pe julọ ninu iranti ni èyí tí ahọ́n pe pẹlu ironusi i pẹlu ọkan, lẹyin naa ni eyi ti o wáyé pẹlu ọkan nikan ẹso ẹge bii ìrònú, lẹyin naa ni eyi ti o waye pẹlu ahọ́n nikan ẹso, ati pe ẹsan n bẹ nibi ọkoọkan ti Ọlọhun ba fẹ.
6. Ki Musulumi dundi mọ awọn iranti ti wọn so pọ mọ awọn isẹsi ẹge bii awọn iranti ààrò ati irọlẹ, ati wiwọnu mọsalasi,

ati ile ati ile ẹgbin ati jijade kuro nibe.... Ati eyi ti o yàtò si iyeṅ maa je ki o wa ninu awon oluranti Olọhun loṣoṣo igba.

(3575)

(266) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ثُمَّ يَمْسُحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(266) – Lati oṣo Aishah- ki Olọhun yonu si i-: Pe Anọbi- ki ike Olọhun ati ọla Re maa ba a- ti o ba ti fe sun ni gbogbo ale, o maa pa atelewo re mejèjèjì pò, leyin naa o maa fenu fe atégùn túétúé sinu mejèjèjì, o maa wa ka sínú mejèjèjì: {Qul Uwal Loohu Ahad}, ati {Qul Ahuuzu bi Robbil falaq}, ati {Qul Ahuuzu bi Robbin naas}, leyin naa o maa fi mejèjèjì pa ibi ti o ba seé pa ni ara re, o maa bère lati orí re ati oju re, ati eyà ti iwájú ninu ara re, o maa se bèè ni eṣeṣeta. [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

### Àlàyé:

Nínú itòsónà Anọbi- ki ike Olọhun ati ọla Re maa ba a- ti o ba ti fe sun ni pe o maa pa atelewo re mejèjèjì pò, o si maa gbe won sókè- gege bi eni tí n se adua- o maa wa rora fenu fe atégùn si i pèlú itó diè, o maa ka àwon suura meṣeṣeta naa: {Qul Uwal Loohu Ahad} ati {Qul Ahuuzu bi Robbil falaq} ati {Qul Ahuuzu bi Robbin naas}, leyin naa ni o maa fi atelewo re mejèjèjì pa ibi ti o ba seé pa ni ara re; o maa bère lati orí re, ati ojú re, ati eya iwaju ara re, o maa pààrà re ni eṣeṣeta.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Fife kika suuratul Ikhlaas ati Qul Ahuuzu kìnín-kejì şiwaju oorun, ati fifi wọn fenu fe ategun túétúé, ati fifi wọn pa ohun ti o ba şee pa ninu ara re.

(65060)

(267) – عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوؤُ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(267) – Lati oḍo Shaddad bin Aws, ki Olohun yonu si i, lati oḍo anabi, ki ike ati oḷa Olohun maa ba a –: “Olori iwaforijin ni ki o so pe: Allahummo anta Robbii laa ilaaha illaa anta, khalagtanii, wa anaa abduka wa anaa alaa ahdika wawahdika mastatahtu, auuzu bika min sharri maa sanahtu, abuuhu laka binihatika alayya, wa abuuhu bizambii, fagfir lii, fa innahuu laa yagfiruz zunuuba illaa anta", o so pe: Eni ti o ba so o ni aaro ti o si ni amodaju pelu e, ti o wa ku, ni ojo naa ki o to di irole, o maa wa ninu awon omo alujanna, eni ti o ba so o ni ale ti o si ni amodaju pelu e, ti o wa ku ki ile o to mo, o maa wa ninu awon omo alujanna". [O ni alaafia] - [Bukhaariy gba a wa]

## Àlàyé:

Ojise Olohun, ki ike ati oḷa Olohun maa ba a – so wipe: Awon gbolohun kan wa fun wíwá idarijin, ati pe eyi ti o dara ju ti o si tobi ju ninu won ni ki eru maa so pe: "Allahummo anta Robbii laa ilaaha illaa anta, khalaktanii, wa anaa abduka wa anaa alaa ahdika wa wadhika mastatahtu, auuzu bika min sharri maa sonahtu, abuuhu laka

binihmatika alayya wa abuuhu bizambii fagfir lii fa innahuu laa yagfiruz zunuuba illaa anta" Eru maa fi taohid rinle fun Olohun ni akoko, ati pe Olohun ni O da a, Oun si ni yoo maa josin fun ti ko si orogun fun Un, ati pe oun wa lori ohun ti o se adehun re fun Olohun bii ini igbagbo si I ati itele E ni ibamu si ikapa re; tori pe ko si bi eru se le sin Olohun to, ko le ni ikapa lati se gbogbo nnkan ti Olohun pa a lase ki o se, be se si ni ko lee kapa lati dup e idera Re bi o se ye, o si maa sadi Olohun, o si tun maa dir o mo on, tori pe Oun ni Eni ti a maa n sadi kuro nibi aburu ti eru ba se, O maa fi rinle o si maa j ewo ibukun re fun un, o si maa pada sodo ara re nipa fifirinle ati jije wo ese ati agboran re, Leyin eb e ipada si odo Olorun yii, o maa be Ol uwa re pe ki O forijin un nipa bibo awon ese re mole, ki O si daab o bo un kuro nibi awon ese won pelu aforijin, oore ati aanu Re, nitori pe ko seni to maa n dari ese jin, a fi Un, Oba ti O l agbara ti O gbongbon. Leyin naa, ojise Olohun- ki ike Olohun ati ola Re maa ba a- so pe o wa ninu awon asikiri aaro ati ale, eni ti o ba so o pelu amodaju ati iranti awon itum o re, ati ini igbagbo si i ni aaro ojo naa, laarin yiyo oorun si yiye atari re, oun naa ni asiko osan, ti o wa ku, o maa wo alujanna, Enikeni ti o ba so o ni ale, lati iw o ooron titi di afemoju, ti o si ku ki ile o to mo, yo wo alujanna.

### **Lara awon anfanani hadiisi naa:**

1. Awon agbekale fun wiwa aforijin yat o si ara won, won si tun lola jura won lo.
2. O ye ki eru o maa se oj ukokoro lati maa gbadura si Olohun pelu adua yii; nitori pe oun ni olori iw aforijin.

(5503)

(268) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ وَطُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ، تَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يُصَلِّي لَنَا، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تَمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

(268) - Lati ọdọ Abdullāh ọmọ Khubayb - ki Ọlọhun yonu si i - o sọ pe: A jade ni alẹ ọjọ kan ti ojo n rọ ti o si ọokunkun gidigidi, ti a n wa Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a; lati kirun fun wa, o sọ pe: Ni a ba ri i, ni o wa sọ pe: «Sọ», mi o si sọ nkankan, leyin naa o sọ pe: «Sọ», mi ò si sọ nkankan, o sọ pe: «Sọ», ni mo ba sọ pe: Kini maa sọ? O sọ pe: «{Qul Uwal Laahu ahad} ati Al-mu‘awwidhatayn (Falaqi ati Naasi) nigba ti o ba di iroḷe ati ti o ba di afẹmọjumọ ni igba męta, yio to ọ nibi gbogbo nkan». [O ni alaafia] - [Abu Daud ati Tirmiziy ati Nasaa'iy ni wọn gba a wa]

## Àlàyé:

Saabe abiyi tii še Abdullāh ọmọ Khubayb - ki Ọlọhun yonu si i - n funni niroo pe: Awọn jade ni alẹ kan ti ojo pọ gan ti okunkun naa si dudu kirikiri, lati lọ wa Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a-; ki o le ki irun fun wọn, ti wọn si ri i, Ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa sọ pe: "Qul" iyẹn ni pe: ka, ko si ka nkankan, Ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa tun ọrọ rẹ wi fun un, ni Abdullāh wa sọ pe: Kini ki n ka iṛe Ojiṣe Ọlọhun? Ni Anabi - ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa sọ pe: Ka suuratul Ikhlaas {Qul Uwal Laahu ahad}, ati Al-Mu‘awwidhatayn {Qul a‘uudhu bi robbil falaq}, ati {Qul a‘uudhu bi robbin naas}, ni asiko iroḷe, ati asiko aarọ, ni ẹmęta yio maa sọ ọ kuro nibi gbogbo aburu, ti yio si la ọ kuro nibi gbogbo ibajẹ.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şiṣe ni sunnah kika suuratul Ikhlaas ati qul a'udhu mejeeji (Falaqi ati Naasi) ni aarọ ati irọlẹ ati pe isọ ni wọn jẹ kuro nibi gbogbo aburu.
2. Ọla ti n bẹ fun kika suuratul Ikhlaas ati Qul a'udhu mejeeji.

(6082)

(269) – عن سَمُرَةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(269) – Láti ọ̀dò Samurah ọmọ Jundub- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojiṣe Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: Ọrò ti Ọlọhun nífẹ́ si julọ méréni ni: SUBHAANALLAH, ati ALHAMDULILLAHAH, ati LAA ILAAHA ILLALLOOH, ati ALLAHU AKBAR, èyíkéyì ti o ba wù ọ ni o le fi bẹrẹ nínú wọn”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n ṣàlàyé pe ọrò ti Ọlọhun nífẹ́ si julọ méréni ni:

SUBHAANALLAH: O n tùmò sí fifọ Ọlọhun mó kuro nibi gbogbo adinku.

ALHAMDULILLAHAH: Oun ni fifi pípé rọyìn Ọlọhun pẹlu ife Re ati gbigbe E tobi.

LAA ILAAHA ILLALLOOH: Ìtumò rẹ ni: Ko si ẹnì tí a le maa jòsìn fun ni ododo ayafi Ọlọhun.

ALLAHU AKBAR: Ìtumò rẹ ni: O gbọ̀nngbọ̀n, O si tobi, O si ni agbara ju gbogbo nnkan lọ.

Ati pe ọla rẹ ati rírí ẹsan rẹ, ko beere fun títò ó tele ara wọn ti a ba n pe wọn jáde lẹnu.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Irọrun sharia, latara pe o le bèrè pèlú èyíkéyí tí o ba fẹ ninu awọn gbolohun naa.

(5475)

(270) – عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(270) – Lati ọdọ Abu Ayyuub- ki Ọlọhun yonu si i- láti ọdọ Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- o sọ pé: “Eni tí ó bá sọ pé: LAA ILAAHA ILLALLOOH WAHDAHUU LAA SHARIIKA LAHUU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WA UWA ALAA KULLI SHAY'HIN KODIIR, ni ẹmẹwaa da gẹgẹ bii ẹni ti o sọ ẹrú mẹrin ninu ọmọ Ismail di olómìnira”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ọnu kò lé lórí ni]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé ẹni tí o ba sọ pe: “LAA ILAAHA ILLALLOOH WAHDAHUU LAA SHARIIKA LAHUU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WA UWA ALAA KULLI SHAY'HIN KODIIR”, itumọ rẹ ni pe: Ko si ẹni ti a maa jòsìn fun ni ododo ayafí Ọlọhun nikan soṣo tí ko ni orogun, Oun nikan si ni O ni ijoba ti o pe, ti O si ni ẹtọ si ẹyìn pèlú ifẹ ati gbigbetobi, yatọ si ẹlomiran, Olukapa si ni, nkan kan ko lee ko agara ba A. Ẹni tí ó bá pààrà asikiri nla yii ni ẹmẹwaa ni ojúmọ, o maa gba irú ẹsan ti ẹni tí ó bá sọ ẹrú mẹrin di olominira ninu àwọn ọmọ Ismail ọmọ Ibrahim, ki ikẹ ati ọla maa ba àwọn méjèjè- bá gbà, wọn diídì dárúko àwọn ọmọ Ismail, ki ọla maa ba a; tori pe àwọn ni wọn jẹ abiyi ju àwọn m̀ìràn lọ.



## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ọlá ti n bẹ fun asikiri yii, eyi ti o ko síṣe Ọlọhun ni Ọkan pẹlú iní ẹtọ si ìjọsìn Rẹ, ati ìjọba, ati ẹyin, ati ikapa ti o pe- sínú.
2. Ẹni tí ó maa ri ẹsan asikiri yii ni ẹni tí ó bá sọ ọ léraléra tabi kélekèlè.

(5517)

(271) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

[صحيح] - [متفق عليه]

(271) – Lati ọdọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o gba a wa lati ọdọ Anabi, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, o sọ pe: “Gbólóhùn meji kan ti wọn fúyẹ lori ahón, ti wọn wúwo ninu ọ̀sùwọ̀n, ti Ajọkẹ-aye nífẹ́ẹ́ si méjèjèjì ni: SUBHAANALLOOHIL AZEEM, SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHII”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

## Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ nipa gbólóhùn méjì kan ti omoniyàn maa n pe ni gbogbo ọ̀sesi láísí inira nibe, ẹsan méjèjèjì si tobi ninu ọ̀sùwọ̀n, ati pe Oluwa wa Ajọkẹ-aye ti ọla Rẹ ga si nífẹ́ẹ́ si méjèjèjì:

SUBHAANALLOOHIL AZEEM, SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHII; fun nnkan ti méjèjèjì ko sinu bii iroyin Ọlọhun pẹlu titobi ati pípé, ati fifọ Ọ mọ kuro nibi àlẹ́bù.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Iranti ti o tobi ju ni ki èyà̀n da afọmọ Ọlọhun papọ mọ ẹyin rẹ.

2. Alaye gbígòdòrò aanu Ọlọhun fun awọn ẹru Rẹ, O maa n şşan işş kekere pẹlu ẹsan ti o pọ.

(5507)

(272) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(272) – Lati oḍo Abu Huraira- ki Ọlọhun yonu si i- pe ojişş Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- sọ pé: “Eni ti o ba sọ pe: SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHII, ni igbà oḡoḡun-ún ni ojúmó, wọn maa pa àwọn eşş rẹ rẹ kódà ki o da gege bii ifòfó agbami odò”. [O ni alaafia] - [Ohun ti wọn fi ẹnu kò lé lóri ni]

### Àlàyé:

Anoḡi- ki ike Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- n sọ pé ẹni tí o ba sọ pe SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHII, ni igbà oḡoḡun-ún ni ojúmó, wọn maa pa eşş rẹ rẹ, wọn si maa fi ori jin in, kódà ki eşş rẹ pọ bii ifofo funfun ti o maa n wa lókè agbami odò nigba ti igbì rẹ ba n bì ati ti o ba ru sókè

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Ẹsan yii maa jẹ ti ẹni tí ó bá wí i ni ojúmó leraléra tabi kélekèle.
2. AT-TESBIIH: Oun ni mimọ Ọlọhun kúrò nibi adinku, AL-HAMDU: Oun ni fifi pípé ròyìn rẹ pẹlú ifẹ ati gbigbetobi.
3. Ohun ti a gbèrò nibi hadiisi naa ni pipa àwọn eşş kéékèkèké rẹ, şùgbón eşş nílá, dandan ni ki èyàn tuuba kuro nibẹ.

(5516)

(273) - عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّهُ الْمِيرَانُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانِ - أَوْ تَمَلَّأ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَْعُدُّو، فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمَعَتْهَا أَوْ مُوبِقُهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(273) - Lati ọdọ Abu Maalik Al-Ash'ari- ki Ọlọhun yonu si i- o sọ pé: Ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- sọ pé: “Imọra ni idaji igbagbo, ati pe sisọ gbolohun ALHAMDULILLAH maa n kun ọ̀sùwòn, ati pe sisọ gbolohun ALHAMDULILLAH ati gbolohun SUBHAANALLAH, mejeeji maa n kun- tabi o n kun- nnkan ti o n be laarin sanmọ ati ile, ati pe irun je imọle, saara je awijare, suuru je imọle, Kuraani maa je ẹri fun ẹ tabi ki o tako ẹ, gbogbo eniyan yoo maa jade lo ní aarọ ni ẹni ti o n ta ẹmi ara re, ninu ki o la a kúrò ninu iná, tabi ki o ko iparun ba a”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

## Àlàyé:

Ojişẹ Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pé: Dajudaju imọra ti ita maa je pelu aluwala ati iwe, ati pe o je majemu fun irun. Ati pe sisọ gbolohun: “ALHAMDULILLAH, o n kun ọ̀sùwòn”, oun ni ẹyin fun Un- mimọ ni fun Un-, ati iròyìn re pelu iròyìn pipe, wọn maa wọn ọn ni ojọ igbende alukiyaamọ, o maa waa kún ọ̀sùwòn işe. Ati pe sisọ gbolohun: “Subhaanallah ati Alhamdulillah” oun ni şise afomọ Re kuro nibi gbogbo adinku ati riroyin Re pelu pipe ti o pe ti o to si titobi Re pelu nini ife Re ati gbigbe E tobi, yoo kun nnkan ti o wa laarin sanmọ ati ile. Ati pe “irun je imọle” fun ẹru ni ọkan re, ati ni oju re, ati ninu sàrèè re, ati nibi igbedide re. Ati pe “Saara şise je awijare” ati ẹri lori ododo igbagbo olugbagbo, ati iyapa re si şobe-şelu ti kii şe saara; nitori pe ko ni igbagbo si ohun ti wọn şe adehun re lóri saara şise. Ati pe “Suuru şise je imọle” -oun ni kiko ẹmí ro nibi igbónára ati ibinu- imọle kan ni ti igbona ati jijo nkan maa n waye pelu re, gege bii imọle oòrùn; nitori pe nnkan ti o nira ni, o si n bukaata si jija ẹmí naa logun ati dide

e kuro nibi nnkan ti o n fe; eni ti o ba ni i ko nii ye ko nii gbo ni eni ti yoo maa mona ti yoo si maa tesiwaju lori nnkan ti o tona. Oun ni sise suuru lori itele ti Olohon, ati kuro nibi ese, ati suuru sise lori awon ajalu ati awon oniran-anran awon nnkan ti eeyan korira ni ayé. Ati pe “Kuraani je awijare fun e” pelu kika a ati sise ise pelu re, tabi “awijare tako e” pelu gbigbe e ju silé lai fi se ise tabi kika a. Leyin naa Anabi- ki ike Olohon ati ola Re maa ba a- so pe dajudaju gbogbo eniyan n gbiyanju ti won n fonka ti won si n dide lati oju orun won ti won n jade lati inu awon ile won tori awon ise won ni orisirisi, O wa ninu won eni ti o n duro deede lori itele ti Olohon ti yoo tu emi re kuro ninu ina, o si wa ninu won eni ti yoo ye kuro nibi iyen ti yoo si ko si inu awon ese ti yoo si pa a run pelu wiwo ina.

### **Lára awon ànfààní hadiisi naa:**

1. Imora pin si meji: Imora ti ita, o maa waye pelu aluwala ati iwe, ati imora ti inu, o maa waye pelu imu Olohon ni Okan ati igbagbo ati ise oloore.
2. Pataki mimu oju to irun ati pe o je imole fun erusin Olohon ni aye ati ojo igbedide.
3. Saara sise je eri lori ododo igbagbo.
4. Pataki sise ise pelu Kuraani ati gbigba a lododo lati le je eri fun e ti ko nii tako e.
5. Emi ti o ko ba ko airoju ba a pelu itele yoo ko airoju ba e pelu ese.
6. Gbogbo eniyan dandan ni fun un pe ko sise; ninu pe ki o bo okun lorun ara re pelu itele tabi ki o ko iparun ba a pelu ese.
7. Suuru sise n bukaata si atemora ati wiwa esan ti ilekoko si n be nibe.

(274) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(274) – Lati ọdọ Abu Hurairah, ki Ọlọhun yonu si i, o sọ pe: Ojise Ọlọhun, ki ike ati ọla Ọlọhun maa ba a, sọ pe: “Ki n sọ pe: Subhaanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallohu, wallohu akbar, je nnkan ti mo nifeṣe si ju nnkan ti oorun ran le lori lo”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- n sọ pe dajudaju riranti Ọlọhun- ti ọla Re ga- pelu awon gbolohun ti won tobi yii loore ju aye ati nnkan ti o wa ninu re lo, awon naa ni:

“Subhaanallah”: Afomọ ni fun Ọlọhun kuro nibi awon adinku.

“Alhamdulillah”: Eyin ni fun Un pelu awon iroyin pipe pelu nini ife Re ati gbigbe E tobi.

“Laa ilaaha illallohu”: ko si eni ti a le maa josin fun pelu eto afi Ọlọhun.

“Allahu Akbar”: Eni ti O tobi julọ ti O gbongbong ju gbogbo nnkan lo.

### Lára awon ànfààní hadiisi naa:

1. Şişenilojukokoro lori iranti Ọlọhun, ati pe o je nnkan ti a nifeṣe ju nnkan ti oorun ran le lori lo.
2. Şişenilojukokoro lori mimaa se iranti loṣoṣo; nitori nnkan ti o wa niṣe bi esan ati ọla.
3. Igbadun aye kere ati pe awon adun re maa tan.

(275) - عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ». [حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]

(275) – Lati ọdọ Jabir - ki Ọlọhun yonu si i - ó sọ pé: Mo gbọ Ojiṣe Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - tí n sọ pé: "Eyi tó lólá jùlọ ninu awọn iranti Ọlọhun ni gbolohun: LAA ILAAHA ILLALLOOH, eyi tó sì lólá jùlọ ninu awọn adura ni gbolohun: ALHAMDULILLAH". [O daa] - [Tirmiziy ati Nasaa'iy ni wọn gba a wa ninu al-Kubro, ati Ibnu Maajah]

**Àlàyé:**

Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - n sọ fún wa pé iranti Ọlọhun tó lólá jùlọ ni: "LAA ILAAHA ILLALLOOH" itumọ rẹ ni pé kò sí nkankan tí a gbọdọ jọsin fun pẹlu ododo ayafi Ọlọhun Allah, ati pé adura tó lólá jùlọ ni ALHAMDULILLAH; iyeṅ ni pé a n fì rinlẹ pé dajudaju Allahu ni Oluṣeḍera fún wa, Oun ni O sì lẹtoṣ si iroyin tó pé, tó sì dara julọ.

**Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:**

1. Ìgbani ní iyànjú lati maa ṣe iranti Ọlọhun ni pupọ pẹlu gbolohun iṣe Ọlọhun lọkan, ati lati maa gbadura pẹlu gbolohun ọpé.

(3567)

(276) – عن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(276) – Láti ọ̀dọ̀ Khaolat ọ̀mọ̀bìnrin Hakiim As-Sulamiyyah, o sọ pe: Mo gbọ ti ojiṣe Ọ̀lọ̀hun- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- n sọ pe: “Eni ti o ba sọkalẹ si ààyè kan, ti o wa sọ pé: AUUZU BIKALIMAATIL LAAHIT-TAMMAATI MIN SHARRI MAA KHOLAK, ǹnkan kan ko nii ni in lara titi ti yoo fi kuro ni aaye re yen”. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anọbi- ki ike Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Re maa ba a- n tọ ijọ re sọ̀nà lọ sibi idiròmó ati isádi ti o maa se à̀nfààní ti gbogbo nnkan ti a n sọ̀ra fun ti èyàn n bẹ̀rù maa lọ pẹ̀lú re nígbà tí ó bá sọkalẹ si ààyè kan lóri ilẹ̀, boya o wa ni irin-àjò ni, tabi ijáde igbafé, tabi ohun ti o yatọ si iyen: Pẹ̀lú pe ki o dirò mó ki o si sádi àwọn gbólóhùn Ọ̀lọ̀hun ti o pe nibi ọ̀la re ati ibukun re ati à̀nfààní re, eyi ti o la kuro nibi gbogbo àléébù, níbi aburu gbogbo èdá ti o ni aburu lára, ọ̀kàn re maa wa bale ni ààyè yen nibi gbogbo nnkan ti o ba le se e ni suta lópin igbà tí o ba si wa nibe.

### Lára àwọn à̀nfààní hadiisi naa:

1. Wiwa isọ̀ra ijọ̀sin ni, oun naa ni eyi ti o ba je pẹ̀lu Ọ̀lọ̀hun ti ọ̀la Re ga, tabi awọn orúkọ Re ati awọn iròyìn Re.
2. Ìní-ètọ̀ wiwa isọ̀ra pẹ̀lu ọ̀rọ̀ Ọ̀lọ̀hun; torí pé o je ọ̀kan ninu awọn iròyìn Re, yatọ si iwá-isọ̀ra pẹ̀lu èyíkéyíí èdá, ẹ̀bọ ni iyen.
3. Ọ̀la ti n be fun adua yii ati alubarika re.
4. Wiwa à̀bò pẹ̀lú àwọn iranti Ọ̀lọ̀hun je okùnfà láti sọ ẹ̀rú kúrò nibi aburú.

5. Bíba ìwá-ìşóra pèlú ohun ti o yatọ si Ọlọhun jẹ, bii alujannu, ati awọn opidan, ati awọn ẹni èké, ati awọn mǐràn.
6. Adua yii jẹ nnkan ti o ba sharia mu fun ẹni tí ó ba sòkalẹ si ààyè kan ni ilé tabi ni ìrìn-àjò.

(5932)

(277) – عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(277) – Lati ọdọ Abu Humayd tabi lati ọdọ Abu Usayd, o sọ pe: Ojìşẹ Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – sọ pe: **«Ti ẹnikẹni ninu yin ba fẹ wọ masalaasi ki o yaa sọ pe: Allāhummo iftah li abwaaba rahmotika, ti o ba si tun jade ki o sọ pe: Allāhummo inni as'aluka min fadlika»**. [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – tọka awọn ijọ rẹ sibi adua ti wọn maa şe nigba ti wọn ba fẹ wọ masalaasi: (Allāhummo iftah li abwaaba rahmotika), nigba naa ni yio beere lẹwọ Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ki O şe ni irọrun fun un awọn okunfa ikẹ Rẹ, ati pe ti o ba fẹ jade ki o sọ pe: (Allāhummo inni as'aluka min fadlika), nigba naa yio waa bẹ Ọlọhun ninu ọla Rẹ ati alekun daadaa Rẹ ninu jije-mimu halaali.

### Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. A fẹ ki a şe adua yii nigba ti a ba fẹ wọ masalaasi ati nigba ti a ba fẹ jade kuro nibe.
2. Sisẹsa didaruko ikẹ nigba ti a ba fẹ wọle, ati ọla nigba ti a ba fẹ jade: Dajudaju ẹni ti o n wọle ko airoju pẹlu nkan ti yio sun un mo Ọlọhun ati alujanna, nitori naa o şe deede ki o daruko



ikẹ, ati pe nigba ti o ba jade yio kaakiri ori ile lati wa ọla  
 Ọlọhun ninu jije-mimu lo, nitori naa o se deede ki o daruko  
 ọla.

3. Awon asikiri yii a maa n so won nigba ti a ba gbero lati wo  
 masalaasi, ati nigba ti a ba gbero lati jade kuro nibe.

(65092)

(278) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا  
 دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ،  
 وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ  
 طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(278) – Lati odo Jabir omo Abdullahi- ki Olohun yonu si awon mejeji-  
 pe o gbo Anabi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- ti o n so pe: "Ti  
 okunrin ba wo inu ile re, ti o wa ranti Olohun nigba iwole re ati nibi  
 onje re, Shaitan maa so pe: Ko si ibusun fun yin ko si si onje ale naa,  
 ti o ba wa wole, ti ko se iranti Olohun nigba iwole re, Shaitan maa so  
 pe: E ti ri ibusun, ti ko ba ti daruko Olohun nibi onje re, o maa so pe:  
 E ti ri ibusun ati onje ale". [O ni alaafia] - [Muslim gba a wa]

### Àlàyé:

Anabi- ki ike Olohun ati ọla Re maa ba a- pase pelu riranti Olohun  
 nigba wiwo inu ile ati siwaju jije onje, ti o ba ranti Olohun pelu siso  
 pe: (Bismillah) nigba ti o ba wo inu ile re ati ibere jije onje re, Shaitan  
 maa so fun awon oluranlowo re pe: Ko si ipin fun yin lati sun tabi lati  
 jeun ale ninu ile yii ti eni ti o ni i ti wa isora kuro lodo yin pelu riranti  
 Olohun- ti ọla Re ga-. Sugbon ti okunrin ba wo ile re ti ko ranti Olohun  
 nigba iwole re tabi nigba jije onje re, Shaitan maa so fun awon  
 oluranlowo re pe won ti ri ibusun ati onje ale ninu ile yii.

## Lára àwọn ànfààní hadiisi naa:

1. Şíşe iranti Ọlọhun nigba wiwo inu ile ati oúnjẹ ni nnkan ti a fẹ, nitori pe Shaitan maa n gbe inu awọn ile, ti o si maa n jẹ oúnjẹ awọn ara ile ti wọn ko ba dárúko Ọlọhun- ti ọla Rẹ ga-.
2. Shaitan maa n şo ọmọ Adam nibi işẹ rẹ ati iwà rẹ ati nibi awọn àlámòrí rẹ pata, ti o ba gbagbe lati ranti Ọlọhun, ọwo rẹ maa tẹ erongba rẹ lodo rẹ.
3. Iranti maa n le Shaitan dānù.
4. Gbogbo èşù kọọkan lo ni awọn ọmọleyin rẹ ati awọn àyàdò rẹ ti wọn maa n dunnu pelu ọrọ rẹ ti wọn si n tẹle àşẹ rẹ.

(3037)

## Table of Contents

<b>Orọ itisiwaju</b> .....	1
Àwọn işẹ pèlú àwọn àníyàn ni, o maa jẹ ti oṃṃṃṃṃṃ ohun ti o ba gba lero.....	2
Èni ti o ba da adadaale kalẹ sinu alamọri wa yii ninu nnkan ti ko si nibe, wọn maa da a pada ni.....	3
Isilaamu ni ki o jẹrìí pe ko si èni tí ijòsìn tọ si lododo ayafi Ọlọhun, ati pe Muhammad ni ojişẹ Rẹ, ki o maa gbe ìrun dúró, ki o maa yọ sàkà, ki o maa gba aawẹ Ramadan, ki o maa şe hajj ti o ba ni ikapa ọ̀nà lọ si ibẹ.....	5
Wọn mọ Isilaamu pa lori nkan márùn-ún.....	9
Dajudaju iwọ Ọlọhun lori awọn ẹrusin ni ki wọn maa jòsin fun Un ki wọn si ma da nnkan .....	11
Ko si èni kankan ti o n jẹrii pe ko si èni ti ijòsin tọ si lododo afi Allahu, ati pe Muhammad ojişẹ Ọlọhun ni lododo lati inu ọkan rẹ, afi ki Ọlọhun şe ina leewọ fun un .....	13
“Èni ti o ba sọ pe: LAA ILAAHA ILLALLOHU, ti o wa şe aigbagbo pẹlu nnkan ti wọn n jòsin fun yatọ si Ọlọhun, dukia rẹ ati eje rẹ ti jẹ eewọ, ati pe işirò rẹ wa lówó Ọlọhun” .....	15
Èni ti o ba ku ti ko da ẹbọ kankan pọ mọ Ọlọhun yoo wọ alujanna, èni ti o ba si ku ti o da ẹbọ pọ mọ Ọlọhun yoo wọ ina.....	16
Èni ti o ba ku ti o si n pe akegbẹ kan ti o yàtò si Ọlọhun, o maa wọ ina .....	17
Iwọ yoo lọ sí ọdọ awọn eniyan kan ti wón jẹ oni-tira sánmò, tí o bá dé ọdọ wọn, pè wón kí o sọ fún wón pé kí wón jẹrii pé dajudaju ko si ọlọhun miran ayafi Ọlọhun Allah, ati pé dajudaju Anabi Muhammad Ojişẹ Ọlọhun ní n şe .....	19
Ènití ó maa şoriire jù pẹlu işipè mi ní ọjọ Igbende, oun ni èniti ó bá sọ pé ko si ọlọhun miran ayafi Ọlọhun Allah, tí ó şo beẹ pẹlu ododo lati inu ọkàn rẹ.....	21
“Igbagbo jẹ ipin aadọrin ati nnkankan- tabi ọgọta ati nnkankan-, eyi ti o ni ọla julọ nibe ni gbolohun Laa ilaaha illallohu, eyi ti o kere julọ nibe ni mimu suta kuro lona.....	22
Mo bi Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- leere pé: Ewo ninu ẹşẹ lo tobi julọ lodo Ọlọhun? O sọ pe: "Ki o wa orogun fun Ọlọhun ti o si jẹ pe Oun ni O şeda rẹ .....	24
Èmi ni Olùrọ̀rọ̀ julọ tayọ níní orogún. Ènikéni tí ó bá şe işẹ kan, ti o mu orogun ninu rẹ pẹlu Èmi Ọlọhun, Emi yóò fi òun àti orogun rẹ sílẹ .....	25
“Gbogbo ijọ mi ni yoo wọ alujanna ayafi èni tí ó bá kọ .....	26

È má ʂe yin mi jù gege bi awon Kristeni ʂe yin omọ Maria jù; erú Olọhun ni emi n ʂe, nitori naa, e wi pe: Èru Olọhun ati Ojiʂe Rẹ.....	27
“Èni kan kan ninu yin ko nii gbagbo ni ododo titi ti yoo fi nífẹẹ mi ju baba rẹ, ati omọ rẹ, ati awon èèyàn ni apapọ lọ” .....	28
È fi mi sílẹ lópin ìgbà tí mo ba fi yin sílẹ, dajudaju nnkan ti o pa awon ti won ʂáájú yin run ni ibeere won ati iyapa won si awon anabi won .....	30
È jẹ iʂe mi koda bo ʂe pelu aayah kan, kí e si sọrọ nipa àwon omọ Ísírẹ̀lì, kò sí aburu nibẹ, ʂugbọn enikeni tí ó bá mọ̀mọ̀ parọ̀ mọ̀ mi, kí onitọhun yaa tètè mú ibùjókòò rẹ nínú Iná .....	32
È tẹti e gbọ, o ʂee ʂe ki arakunrin kan, ki hadisi nipa mi de etigboọ rẹ ti o si rogbọku ni ori ibusun rẹ, ki o wa maa sọ pe: Iwe Olọhun .....	33
Egbe Olọhun ko lọ maa ba awon Juu ati Nasara, ti won mu awon saare awon Anabi won ni mọsalasi .....	35
“Olọhun, má ʂe sọ saare mi di òrìʂà .....	36
“È má ʂe sọ ilé yin di saare, e si má sọ saare mi di àáye àjòdún, e maa ʂe asalatu fún mi; dajudaju asalatu yin ó kàn mi lara lati ibikibi ti e ba wa .....	37
Awon wonyẹn ni ijọ kan, ti eru rere ba ku ninu won tabi okunrin rere, won maa kọ mọsalasi kan sori saare rẹ .....	39
Dajudaju emi n bọpabọʂe lọ si oḍọ Olọhun pe ki n ní oṣe aayo kan laarin yin, nitori pe Olọhun Ọba Aleke ọla ti mú mi ní oṣe aayo gege bi O ti mu Ibrahim ni oṣe aayo.....	41
ʂe ki n gbe o dide lori nnkan ti ojiʂe Olọhun- ki ike Olọhun ati ọla Rẹ maa ba a- gbe mi dide lóri e? Ma fi ère kan kan silẹ aḍi ki o pa a rẹ, ma si fi sàrèè ti o ga kan kan silẹ aḍi ki o jẹ ki o bá ilẹ dọgba .....	43
Fifi eṣe furamọ aburu ati oore ebo ni, fifi eṣe furamọ aburu ati oore ebo ni, fifi eṣe furamọ aburu ati oore ebo ni,- leṣemeta-", ko si ninu wa aḍi, ʂugbọn Olọhun- Alagbara ti O gbongbọn- n mu u lọ pelu igbarale Olọhun .....	44
“Kii ʂe ara wa eni ti o ba retí ʂẹlẹ aburú láti ara nnkan tabi ti won ba a ʂe e, tabi eni ti o ba pe apemọra imọ kọkọ tabi ti won sọ imọ kọkọ fun, tabi eni ti o ba sà sí èèyàn tabi ti won ba a sà sí èèyàn .....	45
Ko si akoran, ko si si ifi eṣe fura mọ daadaa tabi aburu, ati pe mo fẹràn fah'lu, o sọ pe won sọ pe: Kí ni fah'lu? O sọ pe: "Oṣe ti o daa .....	47
Njẹ e mọ nnkan ti Oluwa yin sọ?" Won sọ pé: Olọhun ati ojiʂe rẹ ni won ni imọ julọ, o sọ pe: “O n bẹ ninu awon eru Mi eni ti o ji ni onigbagbo ati eni tí o ji ni alaigbagbo ...	49

Eni ti o ba so agbeko, o ti se ebo (mu orogun pelu Olohun) .....	51
“Dajudaju ofo ati asokora ati oogun iferan, ebo ni” .....	52
“Eni ti o ba lo ba yemiwo kan ti o wa bi i leere nipa nnkan kan, won ko nii gba irun re fun ogoji ojo” .....	54
Enikeni ti o ba fi ohun miran bura yato si Olohun Allah, onitohun ti se aigbagbo tabi ka ni o ti sebo .....	55
E ko gbodo so pe: Ti Olohun ba fe ati ti lagbaja ba fe, sugbon e maa so pe: Ti Olohun ba fe leyin naa ti lagbaja ba fe .....	56
Dajudaju nnkan ti mo n beru juloo nipa yin ni ebo kekere" won so pe: Ki ni ebo kekere ire ojise Olohun? O so pe: "Sekarimi ni .....	58
E ma se jokoo si ori awon saree, e ko si gbodo kirun si i lara .....	59
Awon malaika o nii maa be pelu ikoo kan ti aja ati agogo ba wa pelu won .....	60
Esu a maa wa ba enikan ninu yin, yoo si so pe: Ta ni o seda eyi? Ta ni o seda eyi? Titi yoo fi so pe: Ta ni o seda Oluwa re? Ti o ba ti ba a de ibeyen, ki o yaa wa isora pelu Olohun ki o si jawo .....	61
Eni ti o ba mu aayo mi ni ota, Mo ti kede ogun pelu re, ati pe eru Mi o nii sunmo Mi pelu nkankan ti Mo nife si ju nkan ti Mo se ni oranyan fun un lo .....	62
Iberu Olohun dowo yin, ati gbigbo ati itele, ko da ki o je eru dudu, e maa pada ri iyapa enu ti o le koko leyin mi, sunnah mi ati sunnah awon arole eni imona ti a ti fi won mona dowo yin .....	65
“Eni ti o ba jade kuro ninu itele, ti o wa fi janmoon silo, ti o wa ku, o ku ni iku ti asiko aimokan .....	67
“Ko si eru kan ti Olohun fi se alase lori awon kan, ki o wa ku ni ojo ti o maa ku ti o si n tan awon ti won wa ni abe re je, a fi ki Olohun se alujanna ni ewo fun un” .....	69
Awon adari kan maa je, e maa mo e si maa se atako, eni ti o ba mo, o ti bo, eni ti o ba se atako, o ti la, sugbon eni ti o ba yonu ti o si tele .....	70
Imotaraeni-nikan maa wa ati awon alamori kan ti e maa takoo won" won so pe: Ire ojise Olohun, ki ni nnkan ti o maa pa wa lase? O so pe: "E maa pe eto ti o je dandan fun yin, e si maa beere lowo Olohun nnkan ti o je ti yin .....	71
Gbogbo yin ni adaranje, eni ti a maa beere awon ti o daje lowo re ni eni kookan yin, 73	
“Iwo Olohun, enikeni ti o ba je alase lori nnkan kan ninu ijo mi, ti o wa fi ara ni won, ki o fi ara ni in, enikeni ti o ba je alase lori nnkan kan ninu ijo mi, ti o wa se pele pelu won, se pele pelu oun naa” .....	74

“Èsin ìmòràn ni .....	75
Ti o ba ti ri awon ti n tele ohun ti o ruju ninu e, àwọn ti Ọlọhun sọ niyẹn, ki e sọra fun wọn .....	77
Èni ti o ba ri ibajẹ kan ninu yin, ki o yi i pada pelu owo re, ti ko ba ni ikapa iyẹn, ki o yi i pada pelu ahon re, ti ko ba ni ikapa iyẹn, ki o yi i pada pelu okan re, ati pe iyẹn ni o le julọ ninu igbagbo .....	80
Apejuwe eni ti o duro nibi aala Ọlọhun ati eni ti o ko sinu re, da gege bi apejuwe awon ijọ kan ti won mu aje lori oko oju-omi, ni apakan won wa bo si oke re ti apakan won si wa ni isale re .....	82
Èni ti o ba pepe lo si ibi imona, iru awon esan ti o n be fun eni ti o ba tele e, maa wa fun un ninu esan, ti iyẹn ko nii din nnkan kan ku ninu awon esan won .....	84
Èni ti o ba se amona lo sibi oore, o maa ni iru esan eni ti o ba se e .....	85
Mo fi Ọlọhun bura, ki Ọlọhun fi arakunrin kan so so mona latara re, o loore fun e ju ki o ni rakunmi pupa lo .....	87
“Ènikeni ti o ba fara we awon eniyan kan je okan ninu won.” .....	89
O daju pe esin yii a de gboibo ibi ti oru ati osan de, ati pe Ọlọhun o nii fi ile kankan sile boyá ilé alámò ni abi ilé onirun ayafi ki O mu esin yii wo ibe .....	91
Mo fi Èni ti emi Muhammad n be lowo Re bura, enikeni ko nii gbọ nipa mi ninu ijọ yi, Juu ni tabi Nasara, leyin naa o wa ku ti ko si ni igbagbo pelu nnkan ti won fi ran mi, afi ko wa ninu awon ara ina .....	92
Eyin eniyan, e sora kuro nibi aseju nibi esin, dajudaju nnkan ti o pa awon ti won siwaju yin run ni aseju nibi esin .....	94
Awon alakatakiti ti parun .....	95
Awon Juu ni awon ti a binu si, ti awon Nasara je awon eni anu .....	96
Ọlọhun ko kadara awon eda siwaju ki O to da sanmo ati ile fun egberun lonà aadota odun .....	97
Ojise Ọlọhun- ki ike Ọlọhun ati oia Re maa ba a- ba wa soro, olododo ni, eni ti a so ododo fun si ni: “Wipe won maa ko eda enikan ninu yin jo sinu ikun iyá re fun ogiji ojo .....	98
Alujanna sunmo ikokokan ninu yin ju okun bata re lo, Ina naa si ri be .....	100
Won fi awon adun ti eniyan n fe nifekufee rokirika Ina odun, won si fi awon nkan ti okan eniyan koriira re rokirika Alujanna .....	101

“Nígbà tí Ọlọhun da alujanna ati ina, O ran Jibril- ki ọla .....	102
“Iná yin jẹ èyà kan nínú èyà àádòrin ti ina Jahannama ni .....	104
Ọlọhun a gba ilẹ mu, yoo si tun ka sanmọ pẹlu ọwọ ọtun Rẹ, lẹyin naa ni Yoo waa sọ pe: Emi ni Ọba, gbogbo ọba (olukapa) ori ilẹ da? .....	105
Èni ti o maa le koko julọ ninu awọn eniyan ni ti iya ni ojo igbedide ni awọn ti wọn n se afijo ẹda Ọlọhun .....	106
Mo fi ẹni ti ẹmi mi n bẹ lọwọ Rẹ bura, o maa ku díẹ ki omọ Maryam sọkalẹ si aarin yin ni adajo oluṣedeede, ti o maa run agbelebuu, ti o maa pa ẹlédè, ko nii jẹ ki wọn san isakọlẹ mọ, ti owo maa pò titi ẹni kankan ko fi nii gba a mọ.....	107
Sọ pe: LAA ILAAHA ILLALLOOH, maa fi jẹrìí fun ọ ni Ojọ Àjínde .....	108
Abàtà mi, ìrìn oṣù kan ni, omi rẹ funfun ju wàrà lọ, òórùn rẹ dùn ju alumisiki lọ.....	110
“Wọn maa mu ikú wá ni ìrísí àgbò ti o ni dúdú ati funfun lára .....	111
“Ti o ba jẹ pe ẹ n gbẹkẹle Ọlọhun gegẹ bi o ti yẹ ki ẹ gbẹkẹle E ni, Oun iba pese fun yin gegé bí O ti pese fun awọn ẹyẹ, ti wọn maa jade ni owuro pẹlu ebi, ti wọn si maa pada ni irọlẹ ti wọn si ti yó.” .....	113
Èni ti o n gun nkan ni o maa salamọ si ẹni ti o n rin, ẹni ti o n rin ni o máa salamọ si ẹni ti o jokoo, awọn ti onka wọn kere ni wọn maa salamọ si awọn ti onka wọn pọ .....	114
Èyin ẹrusin Mi, Emi se abosi ni eewọ fun ara Mi, Mo si se e ni eewọ laarin yin, ẹ ma se abosi si ara yin .....	116
È paya abosi, nitori pe abosi jẹ awọn okunkun ni ojo igbedide, ẹ paya ahun, nitori pe ahun lo pa awọn ti wọn sáájú yin run, .....	119
“Dájúdájú Ọlọhun maa n ló alabosi lára, titi ti yoo fi mu u ti ko si nii jẹ ki ó bọ .....	120
Dájúdájú Ọlọhun kọ daadaa ati aburu, lẹyin naa O ṣalaye ìyẹn, ẹni tí ó bá gbèrò dáadáa, ti ko wa se e, Ọlọhun maa kọ ọ fun un ni ọdọ Rẹ ni dáadáa ti o pé, ti o ba wa gbero rẹ, ti o wa se e, Ọlọhun maa kọ ọ fun un ni ọdọ Rẹ ni dáadáa mewaà titi de ilọpo ẹdẹgbẹrin, titi de ilọpo ti o pò, ẹni ti o ba gbèrò aburu, ti ko wa se e, Ọlọhun maa kọ ọ fun un ni ọdọ Rẹ ni dáadáa ti o pe, ti o ba wa gbero rẹ ti o si se e, Ọlọhun maa kọ ọ fun un ni aburu ẹyọkan” .....	122
Èni ti o ba se daadaa ninu Isilaamu wọn ko nii ba a wí nípa nnkan ti o se ni asiko aimọkan, ati pe ẹni ti o ba se aburu ninu Isilaamu wọn maa ba a wí nípa akọkọ ati igbeyin” .....	123
Dajudaju nkan ti o n sọ ti o si n pepe si, nkan ti o daa ni, ti o ba fun wa niroo pe aforijin n bẹ fun nkan ti a se.....	125

O gba Isilaamu lori nnkan ti o şáájú ninu daadaa” .....	126
“Dajudaju Ọlọhun ko nii şe abosi olugbagbo kan ni ti daadaa ti o ba şe, wọn yoo fun un ni ẹsan rẹ ni aye, wọn si tun maa san an ni ẹsan pẹlu rẹ ni ọrun .....	127
Èru mi da ẹşẹ kan, o wa sọ pé: Irẹ Ọlọhun, fi orí ẹşẹ mi jin mi.....	128
Ko si ẹnìkankan ti yio da ẹşẹ kan, lẹyin naa ni o wa dide ti o si şe imọra, lẹyin naa ni o wa kirun, lẹyin naa o wa aforijin Ọlọhun, ayaafi ki Ọlọhun şe aforijin fun un .....	130
Dajudaju Ọlọhun ti O biyi ti O gbọnggbọn maa n tẹ ọwọ Rẹ ni oru lati gba tuuba ẹni ti o ba da ẹşẹ ni ọsan, O si tun maa n tẹ ọwọ Rẹ ni ọsan lati gba tuuba ẹni ti o da ẹşẹ ni oru titi oorun o fi yọ ni ibi ti o ti maa n wọ.....	131
Oluwa wa ti ọla Rẹ ga maa n sọkalẹ ni gbogbo oru si sanmọ aye nigba ti o ba şẹku idamẹta igbeyin .....	133
“Dajudaju nńkan ẹtọ fi ojú hàn, dájúdájú nńkan eewọ naa fi ojú hàn.....	134
Irẹ ọmọkunrin yii, emi yoo kọ ọ ni àwọn ọrọ kan pe: Mára sọ Ọlọhun, yoo si daabo bo ọ. Maa sọ Ọlọhun, iwọ yoo ri I ni iwaju rẹ. Ti o ba beere, beere lọwọ Ọlọhun, ati pe nígbà tí o ba wa iranlọwọ, wa iranlọwọ Ọlọhun .....	136
sọ ọrọ kan fun mi ninu Isilaamu ti mi ko nii bi ẹnìkẹni leere nípa rẹ yàtò si ẹ, o sọ pe: "Sọ pe: Mo gbagbo ninu Ọlọhun, lẹyin naa ki o duro deede.....	138
Apejuwe awọn Mumuni nibi nini ifẹ ara wọn ati kíkẹ ara wọn ati nini aanu ara wọn da gẹgẹ bi apejuwe odidi ara, nigba ti orike kan ba n ke irora gbogbo ara yoku ni yio para pọ pẹlu rẹ nibi aisun ati igbona .....	139
“Èni ti o ba şe aluwala ti o si şe aluwala naa daadaa, awọn àşişe rẹ maa jade kúrò lára rẹ titi yoo fi maa jade lati abẹ awọn èékáná rẹ” .....	140
Ti ẹ ba ti wa si aaye igbónsẹ yin ẹ ko gbọdọ da oju kọ kibula, ẹ ko si tun gbọdọ da ẹyin kọ ọ, amọ ẹ daju kọ ila oorun tabi iwọ oorun.....	141
Ènikẹni ninu yin o gbọdọ fi ọwọ ọtun rẹ mu nkan ọmọkunrin rẹ nigba ti o ba n tọ, ko si gbọdọ fi ọwọ rẹ ọtun şe imọra nibi igbónsẹ, ko si gbọdọ fẹ atẹgun si inu ife imumi..	142
Ọlọhun o nii gba irun ẹnìkẹni ninu yin ti o ba ti ni ẹgbin lara titi ti yio fi şe aluwala ..	143
Dajudaju arakunrin kan şe aluwala ni o wa fi aaye eekanna silẹ nibi ẹşẹ rẹ, ni Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - wa ri i ti o si sọ pe: « <b>Pada ki o si lọ şe aluwala rẹ daadaa</b> » ni o ba pada, lẹyin naa ni o kirun .....	144
Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – jẹ ẹni ti maa n şe aluwala fun gbogbo irun.	145
Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - şe aluwala ni ẹyọkọkan .....	146



Dajudaju Anabi- ki ikẹ Qlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ẹe aluwala leemeji meji.....	147
Eni ti o ba ẹe aluwala gege bi mo ẹe ẹe aluwala mi yii leyin naa o wa ki rakah meji ti ko ba emi re soro nibi mejeeji, Qlọhun yoo fori nnkan ti o siwaju ninu ese re jin in .....	148
Ti enikenin ninu yin ba ẹe aluwala ki o ya fi omi si imu re leyin naa ki o fin in sita, eni ti o ba fe fi okuta mora ki o ya ẹe e ni witiri .....	150
Dajudaju won n je awon mejeeji niya lowo, won o si je won niya nitori alamori nla kan (ni iwoyesi awon eeyan), e o wa ri okan ninu awon mejeeji o je eni ti kii mora kuro nibi ito, amo enikeji o je eni ti maa n gbe oro ofofo kaakiri.....	152
Anabi - ki ikẹ ati ọla Qlọhun maa ba a - je eni ti o se pe ti o ba fe wo aaye egbin yio so pe: «Allaahummo inni a'uudhu biKa minal khubuthi wal khabaaithi .....	153
Pako je imototo fun enu, o si je okunfa iyonu Oluwa .....	154
Etọ ni lori gbogbo Musulumi ki o we ni ojo kan ninu gbogbo ojo meje, ti yio we ori re ati ara re .....	155
“Adamọ marun-un lo je: Dida abe ati fifa irun abe ati gige tubomu ati gige awon eekanna ati fifa irun abiya” .....	156
Mo je okunrin kan ti o maa n da ato ireke lololo, mo maa n tiju lati beere lowo Anabi- ki ikẹ Qlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- nitori ipo omobinrin re, mo wa pa Miqdad omo Al-Aswad lase o si beere lowo re, o so pe: "O maa fo nnkan omokunrin re yoo si se aluwala.....	157
Anabi - ki ikẹ ati ọla Qlọhun maa ba a - je eni ti o se pe ti o ba ti fe we janaba, yio fo oworo re mejeeji, yio si tun se aluwala re ti maa n se fun irun, leyin naa yio we.....	159
O ti to fun e ki o fi oworo re mejeeji se bayii» leyin naa ni o fi oworo re mejeeji lu ile ni eekan, leyin naa ni o fi osi pa otun, ati eyin oworo re mejeeji ati oju re.....	160
Fi won silẹ, nitori pe dajudaju mo ti mejeeji bo o ni mimọ ni .....	161
dajudaju eje isan niyen, sugbon maa fi irun silẹ ni odiwon awon ojo ti o fi maa n ri eje nkan oşu, leyin naa ki o wa we ki o si kirun.....	163
Ti enikenin ninu yin ba ri nkankan ninu ikun re, ti o wa ru u loju boya nkankan jade nibẹ tabi ko jade, ki o ma se jade kuro ni masalaasi titi ti yio fi gbọ ohun, tabi ki o gbọ oorun .....	164
Ti oluperun ba so pe: Allahu Akbar Allahu Akbar, ti enikenin ninu yin naa wa so pe: Allahu Akbar Allahu Akbar.....	166
Ti e ba ti gbọ oluperun ki e yaa maa so gege bi o se n so, leyin naa ki e wa se asalaatu fun mi .....	168

Èni ti o ba sọ nigba ti o n gbọ oluperun pe ash-hadu an laa ilaaha illa Allāhu wahdahu laa sharika laHu, wa anna muhammadan ‘abduHu wa rosululu, rodiitu bil Laahi robban wa bi muhammadin rosulan wa bil Isilaami diina, wọn a fi ori eṣe re jin in .	170
Nje o maa n gbọ ipe irun?» O sọ pe: Beṣe ni, o sọ pe: «Ki o ya dahun.....	171
È sọ fun mi ti akeremodo kan ba wa ni enu onà eni koṣkan ninu yin ti o n wẹ nibẹ ni o joojumọ leṣmarun-un, nje iyẹn le ṣe nḱan kan kù nínú idòtí re bi?.....	172
Ewo ninu iṣe ni Oloḱun nifeṣe si julọ? O sọ pe: "Irun kiki ni asiko re", o sọ pe: Leyin naa èwo? O sọ pe: "Leyin naa ṣiṣe daadaa si awon obi mejeeji" o sọ pe: Leyin naa èwo? O sọ pe: "Jija ogun si oju ona Oloḱun.....	173
Ko si ninu omọniyan to je musulumi ti irun oran-anyan kan wa ba a, ti o wa se aluwala re daadaa ati ipaya re ati rukuu re, a fi ki o je ipa eṣe re fun nnkan ti o ṣiwájú ninu awon eṣe, niwon igba ti ko ba mu eṣe nla wa, gbogbo igba si ni iyẹn maa ri bẹẹ .....	174
Awon irun wakati maraarun, Irun Jimọ sí Jimọ, Ramadan sí Ramadan, ó máa n pa àwon eṣe tí n be laarin won re ni, tí eniyan bá ti jinnà sí awon eṣe nílálá .....	175
È pa awon omọ yin laṣe pelu irun ti won ba ti wa ni omọ odun meje, e na won lori re ti won ba ti wa ni omọ odun mewa, e se opinya laarin won nibi awon ibusun .....	176
“Oloḱun- ti o la Re ga- sọ pé: Mo pin irun laarin Mi ati eru Mi si meji ogboṣgba, ati pe nnkan ti eru Mi ba beere o maa je tire .....	178
“Dajudaju adehun ti o wa laarin wa ati laarin won ni irun, eni ti o ba gbe e ju silẹ, dajudaju o ti se aigbagbo” .....	180
Dajudaju nkan ti n be laarin omọniyan ati mimu orogun mo Oloḱun ati ṣiṣe keferi ni gbigbe irun ju silẹ.....	181
“Ire Bilal, gbe irun duro, fun wa ni isinmi pelu re” .....	182
Al-Lahumma Bā`id Baynī Wa Bayna Khaṭāyāya Kamā Bā`adta Bayna Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi .....	183
Dajudaju ojiṣe Oloḱun- ki ike Oloḱun ati o la Re maa ba a- maa n gbe owo re mejeeji si deede eji ka re mejeeji ti o ba ti bẹre irun, .....	185
Ko si irun fun eni ti ko ba ka Faatiha .....	186
Mo fi Èni ti emi mi n be lowo Re bura, dajudaju emi ni irun mi jo ti ojiṣe Oloḱun- ki ike Oloḱun ati o la Re maa ba a- ju ninu yin, eleyii si ni irun re titi o fi fi aye silẹ .....	188
Won pa mi laṣe ki n fi ori kan'le lori orikée meje.....	190
Dajudaju e maa ri Oluwa yin gege bi e se n ri oṣupá yií, e o nii ri inira nibi riri re .....	191

Èni ti o ba kirun tutu mejeeji o maa wọ alujanna .....	192
“Èni tí ó bá ki irun asunbaa, onítòhún ti wa nínú ààbò Ọlọhun.....	193
Èni ti o ba gbe irun Asr ju silẹ, dajudaju işẹ rẹ ti bajẹ” .....	194
“Èni ti o ba gbagbe irun kan ki o yaa ki i nigba ti o ba ranti rẹ, ko si ipèsèrẹ fun un afi iyẹn .....	195
Dajudaju irun ti o wuwo ju fun awọn munaafiki ni irun Ishai ati Asunbaa, ka ni wọn mọ nkan ti n bẹ ninu rẹ - ni ẹsan – ni, wọn o ba wa ki i koda ki o jẹ ni irakoro .....	196
Ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o ba gbe ẹyin rẹ dide lati rukuu, o maa sọ pé: “Samí’alloohu liman hamidaHu .....	197
Dajudaju Anabi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- maa n sọ laarin iforikanlẹ mejeeji pé: Robbi igfir liy, Robbi igfir liy” .....	198
Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – jẹ ẹni ti maa n sọ laarin iforikanlẹ mejeeji pe: «Allāhummo igfir li, warhamnī, wa ‘āfinī, wahdinī, warzuqnī .....	199
Ti ẹ ba ti fẹ kirun, ẹ gbe saafu yin dide, lẹyin naa ki ẹnikan ninu yin şe imaamu fun yín, ti o ba ti kabara, ki ẹyin naa kabara .....	201
Ojişẹ Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- kọ mi ni ataya, ti atẹlẹwọ mi wa laarin atẹlẹwọ rẹ mejeeji, gege bi o şe maa n kọ mi ni Surah ninu Kuraani .....	206
Irẹ Ọlọhun dajudaju emi wa işora pẹlu Rẹ kuro nibi iya saare, ati nibi iya ina, ati nibi fitina işemi ati iku, ati nibi fitina al-Masiihu ad-Dajjāl.....	208
Fiforikanlẹ fun Ọlọhun lọpọlọpọ jẹ dandan fun ẹ, dajudaju o ko nii forikanlẹ fun Ọlọhun ni iforikanlẹ ẹẹkan, afi ki Ọlọhun fi gbé ẹ ga nipo, ki O si fi ba ẹ pa ẹşẹ rẹ ....	210
“ko si irun pẹlu ikalẹ ounjẹ, tabi nigba ti igbẹ ati itọ ba n gbọn ọn” .....	211
Iyẹn ni Shaitan kan ti wọn n pe ni Khinzab, ti o ba ti fura mọ ọn, ki o wa işora pẹlu Ọlọhun kuro lọdọ rẹ, fẹ atẹgun si ẹgbẹ osi rẹ lẹmẹta .....	212
“Èni ti o buru julọ ninu awọn eniyan ni ti ole jija, ni ẹni ti o n ja irun rẹ lole” o sọ pe: Bawo ni o şe maa ja irun rẹ lole? O sọ pe: “ Ko nii rukuu dáadáa, ko si nii şe iforikanlẹ rẹ laşepe” .....	213
Şe ẹnikọọkan yin o maa bẹru - tabi: Ẹnikọọkan yin o bẹru - nigba ti o ba gbe ori rẹ soke şaju imaamu, ki Ọlọhun o sọ ori rẹ di ori Kẹtẹkẹtẹ, tabi ki o sọ aworan di aworan Kẹtẹkẹtẹ .....	214
Ti ẹnikeni ninu yin ba şe iyemeji nibi irun rẹ, ti ko si mọ iye ti o ki boya mẹta ni tabi mẹrin, ki o yaa ju iyemeji naa nù, ki o mọ irun rẹ lori nnkan ti o da a loju, lẹyin naa, o maa forikanlẹ ni iforikanlẹ ẹmẹji şíwájú ki o to salamọ .....	215

Eyi ti o loore julọ ninu oṣo ti oorun yọ nibẹ ni oṣo Jímò .....	217
Allahumo Anta-s- Salaam wa minka-s- Salaam, Tabaarakta Zal Jalaali wal Ikroom ....	218
Ojiṣe Ọlọhun – ki iṣe ati ọla Ọlọhun maa ba a – je ẹniti maa n fi wọn se gbólóhùn ìmú-Ọlọhun-lókan ni ẹyin gbogbo irun kọọkan .....	220
Dajudaju Anabi- ki iṣe Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- maa n so leyin gbogbo irun oran- anyan pe .....	222
Eni ti o ba se afomọ fun Ọlọhun (Subhānallāh) ni ẹyin gbogbo irun kọọkan ni igba metalelogbon, ti o si tun dupe fun Ọlọhun (AlhamduliLLāhi) ni igba metalelogbon, ti o tun wa gbe titobi fun Ọlọhun (Allāhu akbar) ni igba metalelogbon, iyẹn je oṣo din ẹyọkan, ti o wa so ni ipari oṣo-ún pe: Lā ilaha illā Allāhu wahdahu lā sharīka laHu, laHul mulku, wa laHul hamdu, wa Huwa alā kulli shayhin qadīr, wọn o fi ori gbogbo ese re jin in kódà ki o to deede fódòmù ori omi okun.....	223
Eni ti o ba ka āyatul kursiyyu ni ẹyin irun oranyan kọọkan, ko si nkan ti yio di i loṣo wiwo al-jannah ayaafi ki o ku .....	225
Mo ha rakah mewaa lati oṣo Anabi- ki iṣe Ọlọhun ati ọla Re maa ba a- .....	226
Ti ẹnikenin ninu yin ba wo masalaasi, ki o yaa ki rakaa meji siwaju ki o to jokoo .....	227
Ti o ba so fun oṣo re pe: Dakẹ, ni oṣo jimọ, ti imaamu si n se khutuba loṣo, o ti so oṣo koro .....	228
Ki irun ni iduro, ti oo ba wa ni ikapa, yaa ki i ni ijokoo, ti oo ba tun wa ni ikapa, ki i ni ifegbelele.....	229
“Irun kan ti a ba ki ni mosalasi mi yii loore ju egberun irun lo ti a ki ni ibi ti o yatọ si i afi irun ti a ki ni mosalasi abeewo”.....	230
Eni ti o ba ko mosalasi kan fun Ọlọhun, Ọlọhun maa ko iru re fun un ninu alujanna”	231
“Sààrà kii din dúkiá kù, Ọlọhun kii le erú kún pèlú amojukuro àyàfi ni iyì, ẹnikan ko nii teri ba fun Ọlọhun àyàfi ki Ọlọhun gbe e ga” .....	232
“Ọlọhun so pe: Maa na owó ire omọ Anabi Adam, Ọlọhun maa fi òmíràn rópò”.....	233
“Tí omọniyan ba nawo lori awon ara ile re ti o n reti esan re loṣo Ọlọhun, saara ni o je fun un” .....	234
“Eni ti o ba lo onigbese lara, tabi ti o ba a din in ku tabi ki o ni ki o ma san an mo, Ọlọhun maa fi i sábe iboji Itẹ-ọlá Re ni Ojọ Àjínḡde, ni oṣo ti ko nii si iboji kankan àyàfi iboji Re” .....	235
Ike Ọlọhun kó maa bá okunrin kan tí ó maa n se irorun funni nigba ti ó bá tajà, ati nigba ti ó bá rajà, ati nigba ti ó bá fe gba gbèsè .....	236

Okùnrin kan wà tó máa ń yá àwọn eniyan ní owo, ó sì máa ń sọ fún ọ̀dọ̀kùnrin rẹ̀ pé: Ti o bá de ọ̀dọ̀ alaini, ki o Ẹ̀mojúkuro fun un, bóyá Ọ̀lọ̀hun yoo Ẹ̀mojúkuro fún awa naa .....	237
“Dájúdájú àwọn èyàn kan n wọ inu dúkiá Ọ̀lọ̀hun ni ọ̀nà tí kò tọ̀, wọn maa wọ iná ni Ọ̀jọ̀ Àjínḡde” .....	238
“Èni tí ó bá gba aawẹ̀ Ramadan ni ti igbagbọ̀ ati ireti ẹ̀san ni ọ̀dọ̀ Ọ̀lọ̀hun, wọn maa fi orí ẹ̀şẹ̀ rẹ̀ ti o Ẹ̀ájú jin in” .....	239
“Èni tí ó bá dide ni oru Laelatul Kọ̀dri ni ti igbagbọ̀ ati ireti ẹ̀san ni ọ̀dọ̀ Ọ̀lọ̀hun, wọn maa fi orí ẹ̀şẹ̀ rẹ̀ ti o Ẹ̀ájú jin in” .....	240
Ènikẹ̀ni ti o ba Ẹ̀ Hajj nitori ti Ọ̀lọ̀hun, tí kò ba obinrin loṣọ̀, tí kò sì rú ofin Ọ̀lọ̀hun, onitọ̀hun yoo pada sile geḡe bi oṣọ̀ ti iya rẹ̀ bi i .....	241
Ko sí oṣọ̀ kankan ti iṣẹ̀ oloore inu rẹ̀ jẹ̀ eyi ti Ọ̀lọ̀hun nifẹ̀ si julọ̀ ti o to awọn oṣọ̀ yii» ìyẹn ni awọn oṣọ̀ mẹ̀waa akọ̀kọ̀ Dhul Hijjah.....	242
“Dájúdájú Ọ̀lọ̀hun ko nii wo àwòrán yin ati dúkiá yin, Ẹ̀gbọ̀n O maa wo ọ̀kàn yin ati iṣẹ̀ yin” .....	243
Dajudaju Ọ̀lọ̀hun maa n jowu, ati pe dajudaju olugbagbọ̀ naa maa n jowu, owu jije Ọ̀lọ̀hun ni ki olugbagbọ̀ maa Ẹ̀ nnkan ti Ọ̀lọ̀hun Ẹ̀ ni eewọ̀ fun .....	244
“È yẹ̀ra fún awọn nkan meje tí n pani run .....	245
“Njẹ̀ emi ko wa ni fun yin ni iro nipa awọn ti o tobi ju ninu awọn ẹ̀şẹ̀ ńlá bi?” .....	247
“Awọn ẹ̀şẹ̀ nlanla ni: Mimu orogun pelu Ọ̀lọ̀hun, Ẹ̀şẹ̀ baba ati iyá, pipa emi, ati bibura lori iro” .....	248
Akọ̀kọ̀ nnkan ti wọn maa Ẹ̀ idajọ̀ rẹ̀ laarin awọn eniyan ni oṣọ̀ igbedide ni nibi awọn ẹ̀jẹ̀ .....	250
“Èni ti o ba pa ẹ̀ni a gba adehun loṣọ̀ rẹ̀ ko nii gbọ̀ oorun alujanna, ati pe dajudaju oorun rẹ̀ wọn maa n gbọ̀ ọ̀ lati ijinna ogoji ọ̀dun” .....	251
“Èni tí ba n ja okùn ẹ̀bí ko nii wọ alujanna” .....	252
“Èni tí ó bá fẹ̀ ki wọn gbò̀rò arisiki fun oun, ti o si fẹ̀ ki emi oun gùn, ki o maa da ẹ̀bí pọ̀” .....	253
Kii Ẹ̀ ẹ̀niti n fi dáadáa Ẹ̀san dáadáa ni ó pé perepere nibi siso okùn-ẹ̀bi, Ẹ̀gbọ̀n oluso okùn-ẹ̀bi gangan ni ẹ̀niti ó jẹ̀ pé nigba ti awọn eniyan bá já okùn-ẹ̀bi rẹ̀ dànù, ó maa n so o pada .....	254
“Njẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ohun ti n jẹ̀ ọ̀rọ̀-ẹ̀yìn?”, wọn sọ̀ pé: Ọ̀lọ̀hun ati oṣiṣe Rẹ̀ ni wọn ni imọ̀ ju, o sọ̀ pé: “Oun naa ni ki o maa sọ̀ nipa ọ̀mọ̀-iyá rẹ̀ ohun ti o korira” .....	255

Gbogbo nkan ti o ba ti n muni hunrira ọti ni, ati pe gbogbo nkan ti o ba ti n muni hunrira eewo ni, ati pe ẹni ti o ba mu ọti ni aye ti o wa ku ni ẹni ti o kúndùn rẹ ti ko tuuba, ko nii mu un ni ọjọ ikẹyin.....	256
Ojiṣe Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - ṣe ibi lé ẹni ti n san abẹṣẹ ati ẹni ti n gba a nibi idajo (igbejo).....	257
Ẹ sọra fun aba dida; nitori pe aba dida jẹ eyi ti o jẹ irọ julọ ninu ọrọ .....	258
“Olófòfóó ko nii wọ alujanna” .....	260
Gbogbo ijọ mi ni wọn maa ṣọ kuro nibi aburu ayaafi awọn alaṣehan .....	261
Mo pe ẹyin eeyan, dajudaju Ọlọhun ti gbe kuro fun yin igberaga igba aimọkan ati ṣiṣe iyanran wọn pẹlu awọn baba wọn.....	262
“Dájúdájú èyàn ti Ọlọhun koriira jù ni alátaḱò ti o le julọ” .....	263
“Ti Mùsùlùmí méjì ba pàdẹ ara wọn pẹlú idà, ati ẹni ti o pa eeyan ati ẹni tí wọn pa, wọn jọ maa wọ iná ni .....	264
Ẹni ti o ba kọ oju ija si wa pẹlu ohun ìjà, ko kii ṣe ara wa .....	266
“Ẹ ma bu àwọn òkú; torí pé wọn lọ ba nńkan ti wọn ti síwájú” .....	267
“Kò tọ fun ọmọniyan ki o yan ọmọ-iyá rẹ lódi tayo ọjọ méta, àwọn méjèèjì maa pàdẹ, eléyí maa wa gbúnrí, èyí naa maa gbúnrí, ẹni tí ó ni oore ju ninu awọn mejeeji ni ẹni tí ó bá kókó sálámò” .....	268
Ẹnikẹni tí ó bá fi dámilójú pé oun yòò ṣọ nkan tí n bẹ láàrín eegun ẹnu rẹ méjèèjì àti nkan tí n bẹ láàrín ẹsẹ rẹ méjèèjì, èmi yòò fi dá a lójú pé yoo wọ Alujanna .....	269
Obinrin ko gbọḍọ ẹ irin-ajo ti o to ọjọ mejì ayaafi ki ọkọ rẹ tabi eleewọ rẹ o wa pẹlu rẹ .....	270
“Mi o fi fitina kan kan sílẹ lẹyin mi ti o ni àwọn ọkúnrin lara ju àwọn obínrin lọ” .....	272
Dajudaju aye jẹ nnkan ti o dun ti o si tutu, ati pe dajudaju Ọlọhun n fi yin ẹ arole nibẹ, ti yoo maa wo nnkan ti ẹ ní ẹ, ẹ bẹru aye ki ẹ si bẹru obinrin .....	273
“Ko si igbeyawo kan afi pẹlu alaṣe obinrin” .....	275
“Eyi ti o lẹtoḗ julọ ninu awọn majemu lati mu ẹ ni nnkan ti ẹ fi sọ awọn abẹ di ẹto” .....	276
“Ayé ìgbádùn ni, eyi ti o loore ju ninu ìgbádùn ayé ni obínrin rere” .....	277
Ẹ ko gbọḍọ wọ aṣọ alaari, ẹ ko si gbọḍọ mu ninu igba wura ati fadaka, ẹ ko si gbọḍọ jẹ ninu abọ tí wọn fi mejeeji ẹ, nitori pe awọn (keferi) ni wọn ni i laye, tiwa (musulumi) si ni ni ọjọ ikẹyin .....	278

Dajudaju Ojiṣe Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ko nkan ti n jẹ al-Qaza’ (ki èyàn fá orí apakan ki o dá apakan sí) .....	279
“È ge awọn tubọmu ki ẹ si da awọn irungbọn si” .....	280
Ọkunrin o gbọḍo maa wo ihoho ọkunrin, obinrin naa o si gbọḍo maa wo ihoho obinrin .....	281
Dájúdájú ninu awọn ti wọn loore ju ninu yin ni àwọn tí iwà wọn dára julọ” .....	282
“Dájúdájú pèlú iwa dáadáa, mumini maa de ipo aláàwẹ ti n dide fun ìjosìn ni oru” ..	283
“Mumini ti o pe jù ni igbagbo ni ẹni tí iwà rẹ dara ju, ẹni tí ó loore ju ninu yin ni ẹni tí o dara ju fun awọn obinrin wọn” .....	284
Wọn bi ojiṣe Ọlọhun- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- leere nipa n̄nkan ti o maa mu awọn èyàn wọ alujanna julọ, o sọ pe: “Ìpayà Ọlọhun ati iwa dáadáa .....	285
Ojiṣe Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – jẹ ẹniti o dara julọ ni iwa .....	286
Dajudaju iwa Anabi Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ni Kuraani .....	287
“Dájúdájú Ọlọhun ti ẹe dáadáa ni ọranyan nibi gbogbo n̄nkan .....	288
“Dájúdájú àwọn onideede maa wa lori minbari latara imọlẹ ni ọḍo Ọlọhun, ni ọwọ ọtun Ajọkẹ-aye ti O lágbara ti O gbongbọn, ọtún si ni ọwọ Rẹ méjèèjì .....	289
“Ma ẹe maa ni eeyan lara, ma ẹe maa gba ẹsan ìnira, ẹni tí ó bá fi ara ni èyàn, Ọlọhun yoo fi ara ni in, ẹni tí ó bá ko ìpalára ba èyàn, Ọlọhun yoo ko ìpalára ba a” .....	290
Dajudaju àpèjúwe olubajokoo rere ati olubajokoo burúkú da gege bi ẹni ti o gbe almisiki ati ẹni ti o n fẹ ina alagbẹḍe.....	291
Ma ẹe maa binu .....	292
“Alágbara ko ni ẹni tí ó bá le dá èyàn mólẹ, sùgbọn alágbara gangan ni ẹni tí ó bá le kápá ẹmí rẹ nígbà ìbínú” .....	293
Itiju wa ninu igbagbo.....	294
“Bí ọkùnrin kan bá nífẹẹ arákùnrin rẹ, kí ó sọ fún un pé òun nífẹẹ rẹ” .....	295
“Gbogbo dáadáa sààrà ni” .....	296
Gbogbo ibi ti àwọn eegun ti pàdé pọ ni ara ọmọniyan ni saara jẹ dandan le e lori nibe .....	297
Èṣe mejeeji ẹru kan ko nii yẹ ni ọjọ igbedide titi ti wọn o fi bi i nipa ọjọ ori rẹ nibo ni o pari rẹ si, ati nipa imọ rẹ kini o fi ẹe, ati nipa dukia rẹ nibo ni o ti ko o jọ ati pe nibo ni o na an si, ati nipa ara rẹ nibo ni o lo o si.....	299

Oluran awon opo ati alaini lowo, da gegere bii olugbinyanju soju ona Olonun, tabi eni ti o n fi oru re dide ti o si n fi osan re gba awe .....	300
“Eni ti o ba gba Olonun gboto ati Ojo lkeyin, ki o maa so daadaa tabi ki o dake.....	301
“Ma se fi oju kere nkan kan ninu daadaa, koda ki o pade omoyiya re ki o si tujuka si i” .....	302
“Olonun ti O labara ti O gbongbong ko nii saanu eni ti kii ba saanu awon eeyan” ..	303
Awon oluse ike, Olonun Ajoke aye maa ke won, e maa ke awon ti n be lori ile, Oba ti n be ni sanmo a ke eyin naa .....	304
Musulumi ni eni ti awon musulumi la nibi ahon re ati owore, ati pe Al-muhaajiru ni eni ti o yan nkan ti Olonun ko lodi .....	305
Etọ Musulumi lori Musulumi miiran marun-un ni: Didá salamo pada, biba alaafe wo, titete isinku, didahun ipepe, shadura fun eniti o ba sin.....	306
E ko lee wo alujanna titi ti e fi maa gbagbo, ati pe e ko lee gbagbo titi ti e fi maa nife ara yin, e wa je ki n juwe yin si nkankan ti o je pe ti e ba se e e maa nife ara yin? E maa tan salamo ka laarin ara yin .....	307
Dajudaju arakunrin kan bi Anabi - ki ike ati ola Olonun maa ba a - leere pe: Isilaamu wo lo fi n loore julore? O so pe: «Ki o maa funni ni ounjere, ki o si tun maa salamo si eni ti o mo ati eni ti o ko mo .....	308
Se ki n toka yin si nkan ti Olonun fi maa n pa awon asise re, ti O si fi maa n gbe awon ipo ga? .....	310
Mumini alagbara ni oore o si tun je eni ti Olonun nife si ju Mumini olo lo, okokan won si ni oore wa lara re, .....	312
“Jibril ko ye ko gboto ni eni ti n so asotele fun mi nipa aladuugbo, titi ti mo fi lero pe yoo mu u jogun” .....	314
“Eni ti o ba daabo bo iyi omoyiya re, Olonun maa daabo bo oju re kuro nibi ina ni Ojo Ajinde” .....	315
“Dajudaju ele ko nii wa ninu nkan ayafi ki o ko oso ba a, won ko si nii yore kuro ninu nkan ayafi ki o ko aleebu ba a” .....	316
“E maa se idkun fun awon eeyan, e maa se fi ara ni won, e maa fun awon eeyan ni iro idunnu, e maa se le won sa” .....	317
A wa ni odore Umar, o wa so pe: «Won ko fun wa kuro nibi ifipase-nkan .....	318



“Ti ẹnìkẹ̀ni ninu yẹ̀n ba fẹ̀ jẹ̀un ki o yaa jẹ̀un pẹ̀lu ọ̀wọ̀ ọ̀tun rẹ̀, ti o ba si fẹ̀ mu ki o yaa mu pẹ̀lu ọ̀wọ̀ ọ̀tun rẹ̀, dajudaju Shaitan maa n jẹ̀un pẹ̀lu ọ̀wọ̀ osi rẹ̀, o si maa n mu pẹ̀lu ọ̀wọ̀ osi rẹ̀” .....	319
Irẹ̀ ọ̀mọ̀dekunrin yii, darukọ̀ Ọ̀lọ̀hun, ki o si jẹ̀un pẹ̀lu ọ̀wọ̀ ọ̀tun rẹ̀, ki o si tun jẹ̀ ninu nkan ti o sunmọ̀ ọ̀ .....	320
“Dájúdájú Ọ̀lọ̀hun maa n yọ̀nu si ẹ̀rú ti o ba jẹ̀un ti o wa dúpẹ̀ lori rẹ̀, tabi ti o mu ti o wa dupè lóri rẹ̀” .....	321
Dajudaju arakunrin kan jẹ̀un lọ̀dọ̀ ojìşẹ̀ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- pẹ̀lu ọ̀wọ̀ osi rẹ̀, o sọ̀ pe: “Jẹ̀un pẹ̀lu ọ̀wọ̀ ọ̀tun rẹ̀”, o sọ̀ pe: Mi ko ni ikapa, o sọ̀ pe: “O ò si nii ní ikapa .....	322
Ojìşẹ̀ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- ti o ba sin, o maa n gbe ọ̀wọ̀ rẹ̀- tabi aşọ̀ rẹ̀- si ẹ̀nu rẹ̀, ti o maa fi rẹ̀ ohun rẹ̀ nilẹ̀.....	323
“Dajudaju Ọ̀lọ̀hun maa n fé lati mu awọ̀n ofin idẹ̀kun Rẹ̀ wa, gege bi O şè nífẹ̀é lati mu awọ̀n eyi ti o jẹ̀ dandan wa” .....	324
“Ẹ̀ni tí Ọ̀lọ̀hun ba fẹ̀ oore fún, O maa fi àdánwò kàn án” .....	325
Nnkan kan ko nii şẹ̀lẹ̀ si Musulumi ninu wahala ati aisan ati ironu ati ibanujẹ̀ ati suta ati ironu ati ki ẹ̀gun gun un afi ki Ọ̀lọ̀hun ba a fi pa awọ̀n aşışè rẹ̀ rẹ̀ .....	326
Eemọ̀ ni alamọ̀ri mumini, dajudaju gbogbo alamọ̀ri rẹ̀ oore ni, iyẹn o si si fun ẹnìkankan ayaafi mumini .....	327
Tí ẹ̀rú Ọ̀lọ̀hun kan bá şàìsàn tabi ó rin irin-ajo, wọ̀n yoo kọ̀ laada silẹ̀ fun un fún işẹ̀ tí n şè nigba tí ó wà nilé tó si lalaafia .....	328
Ẹ̀ yára si awọ̀n işẹ̀ daadaa siwaju ki awọ̀n fitina kan ti yio da bii oru ti o şokunkun gan o to de, .....	329
“Ẹ̀ni tí Ọ̀lọ̀hun ba fé oore fun, yoo fun un ni agboye ninu ẹ̀sin .....	330
“Ẹ̀ ma kọ̀ imọ̀ lati le maa fi ba àwọ̀n onimimọ̀ şè iyanran, tabi lati le baa maa fi ja àwọ̀n omugọ̀ níyàn.....	331
“Ẹ̀ni tí ó loore ju ninu yin ni ẹnì tí ó kọ̀ Kuraani ti o si tun kọ̀ ẹ̀lòmíràn” .....	332
maa n gba aaya méwàá lódò ojìşẹ̀ Ọ̀lọ̀hun- ki ikẹ̀ Ọ̀lọ̀hun ati ọ̀la Rẹ̀ maa ba a- àwọ̀n ko nii gba méwàá miiran titi ti àwọ̀n fi maa mọ̀ imọ̀ ati işẹ̀ .....	333
Ẹ̀ni ti o ba ka harafi kan ninu tira Ọ̀lọ̀hun, o maa fi gba ẹ̀san daada kan, ati pe ẹ̀san kan yio maa ni ilọ̀po mẹ̀waa iru rẹ̀ .....	334
“Wọ̀n maa sọ̀ fun onikuraani pe: Ḿaa kà, ḿaa gòkè, maa ké gege bi o şè maa n ké e ni aye, dájúdájú ibùgbé rẹ̀ wa nibi igbeyin aaya ti o n ka” .....	335

“Njé ẹnikẹni nínú yín yòò fẹ, nígbà tí ó bá padà sí ọdò àwọn ará ilé rẹ, láti rí ràkúnmí aboyún mẹta ti wọn tobi ti wọn sanra ni ọdọ wọn? .....	336
“E maa ka Kuraani yii ni igbà gbogbo, mo fi Ẹni tí ẹmi Muhammad n bẹ lówọ Rẹ bura, o yara sá lọ ju ràkúnmí ninu okùn ti wọn fi dè é lọ” .....	337
“E ko gbọdọ sọ awọn ile yin di awọn iboji, dajudaju eṣu maa n sa kuro nibi ile ti wọn maa n ka Suratul Bakọra nibẹ” .....	338
Ire Abu Al-Munzir, òjé o mọ aaya wo ninu tira Ọlọhun ti o wa pẹlu rẹ ni o tobi julọ?”, o sọ pe: Mo sọ pé: {Allāhu, kò sí ọlọhun kan tí ijọsìn tọ sí ẹfi Ọun, Alààyè, Alámòjúútó-ẹdá} [Al-Baqarah: 255]. O sọ pe: O wa fi ọwọ lu mi láyà, o wa sọ pé: “Mo fi Ọlọhun búra, o kú oriire imọ naa, ki Ọlọhun ẹ e ni irọrun fun ẹ, ire Abu Al-Mundhir” .....	339
Ẹni ti o ba ka aayah meji ti o gbeyin Sūratul Bakọra ni oru kan, wọn ti to fún un .....	340
“Adua naa ni ijọsìn .....	341
Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – jẹ ẹni ti maa n ranti Ọlọhun ti ọla Rẹ ga ni gbogbo igba .....	342
“Ko si nńkan kan ti o ni aponle ni ọdọ Ọlọhun - ti ọla Rẹ ga - ju adua lọ” .....	343
“Dajudaju igbagbọ maa n gbó ninu ikun ẹni kọọkan yin gẹgẹ bí aṣọ ẹ maa n gbó, ki ẹ ya maa beere lọdọ Ọlọhun lati sọ igbagbọ di tuntun ninu awọn ọkan yin” .....	344
“Iṣesi ti ẹrú maa n sunmọ Oluwa rẹ ju nibẹ ni igbà ti o ba wa ni iforikanlẹ, ki ẹ yaa maa ẹ adua ni ọpọlọpọ” .....	345
Adura ti Anabi maa n ẹ loorekoore ju ni:(( “Ọlọhun, Oluwa wa, fun wa ni oore ni aye, ati rere ni igbẹyin, ki O si daabo bo wa nibi iya ina”..)) .....	346
Şé ki n fun yin ni iro nipa eyi ti o daa julọ ninu awọn iṣẹ yín, ati eyi ti o mọ julọ ninu rẹ lọdọ Oluwa yin, ati eyi ti o ga julọ ninu rẹ ninu awọn ipo yin .....	347
Pe Anọbi- ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba a- ti o ba ti fẹ sùn ni gbogbo alé, o maa pa atẹlẹwọ rẹ méjèjè pò, lẹyin naa o maa fenu fẹ atégùn túétúé sinu méjèjè, o maa wa ka sínú méjèjè: {Qul Uwal Loohu Ahad}, ati {Qul Ahuuzu bi Robbil falaq}, ati {Qul Ahuuzu bi Robbin naas} .....	349
“Olori iwaforijin .....	350
{Qul Uwal Laahu ahad} ati Al-mu’awwidhatayn (Falaqi ati Naasi) nigba ti o ba di irọlẹ ati ti o ba di afẹmọjumọ ni igba mẹta, yio to ọ nibi gbogbo nkan .....	352
Ọrò ti Ọlọhun nífẹ si julọ merin ni: SUBHAANALLAH, ati ALHAMDULILLAHAH, ati LAA ILAAHA ILLALLOOH, ati ALLAHU AKBAR, èyíkéyí ti o ba wù ọ ni o le fi bẹrẹ nínú wọn” .....	353

“Èni tí ó bá sọ pé: LAA ILAAHA ILLALLOOH WAHDAHUU LAA SHARIIKA LAHUU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WA UWA ALAA KULLI SHAY'HIN KQDIIR, ni ẹmẹwaa ... 354

“Gbólóhùn meji kan ti wọn fúyẹ lori ahọn, ti wọn wúwo ninu òṣùwọn, ti Ajọkẹ-aye nífẹẹ sí méjèèjì..... 355

“Èni ti o ba sọ pe: SUBHAANALLOOHI WA BIHAMDIHII, ni ìgbà ọgórùn-ún ni ojúmọ, wọn maa pa àwọn ẹṣẹ rẹ rẹ kódà ki o da geṣe bii ifófó agbami odò” ..... 356

“Imọra ni idaji igbagbo, ati pe sisọ gbolohun ALHAMDULILLAH maa n kun òṣùwọn, ati pe sisọ gbolohun ALHAMDULILLAH ati gbolohun SUBHAANALLAH, mejeeji maa n kun- tabi o n kun- nnkan ti o n bẹ laarin sanmọ ati ilẹ..... 357

“Ki n sọ pe: Subhaanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallohu, wallohu akbar, je nnkan ti mọ nífẹẹ sí ju nnkan ti oorun ran le lori lọ” ..... 359

Eyi tó lólá jùlọ ninu awọn iranti Ọlọhun ni gbolohun: LAA ILAAHA ILLALLOOH, eyi tó sì lólá jùlọ ninu awọn adura ni gbolohun: ALHAMDULILLAH..... 360

“Èni ti o ba sọkalẹ si ààyè kan, ti o wa sọ pé: AUUZU BIKALIMAATIL LAAHIT-TAMMAATI MIN SHARRI MAA KHQLAK, ǹnkan kan ko nii ni in lara titi ti yoo fi kuro ni aaye rẹ yẹn” ..... 361

Ti ẹnìkẹni ninu yin ba fẹ wọ masalaasi ki o yaa sọ pe: Allāhummo iftah li abwaaba rahmotika, ti o ba si tun jade ki o sọ pe: Allāhummo inni as'aluka min fadlika..... 362

Ti ọkùnrin ba wọ inu ile rẹ, ti o wa ranti Ọlọhun nigba ìwólé rẹ ati nibi óúnjẹ rẹ, Shaitan maa sọ pé: Ko si ibusun fun yin ko si si óúnjẹ alẹ naa ..... 363

### **Alaye ʃoki**

Awon hadisi Anabi ni orisun keji ninu awon orisun ofin sharia Islam, Olahun ti o la Re ga so pe: Àti pé kò ní sòrò ìfẹ́-inú Kò ní sọ ohun kan tayọ ìmísí tí A fi ránṣẹ́ sí i. [Surah An-Najm: 3-4].

Aṣayan yii lati inu iwe agbedegbeyo Hadisi ko akojopo awon hadisi sokí to ni itumọ pupo sinu, eyi ti Musulumi ni bukaata si ninu awon oro esin re ati aye re, pelu alaye ʃoki nipa won, ati alaye awon itumọ won, ati diẹ ninu awon anfaani won ti a tumo si awon ede kan ti o wa laaye ki anfaani akoonu hadiisi naa le kari ati lati le mu sunna ojiṣe Olahun - ki ike ati o la Olahun maa ba a - de etiigbo gbogbo eniyan ni ede won.



Yo380

**ISBN:978-603-8474-48-8**